

فاقام باسيل ملكا على الروم مدة  
خلافة المعتز والمهتدي وبعض خلافة  
المعتز

Imperavit autem Basilius Romanis tem-  
pore Chalifatus Mutazzi, & Muhtadi;  
& ex parte quoque Mutamidi.

## CAPVT DECIMVM QVINTVM.

الرابع عشر من الخلفاء العباسيين وهو  
الخامس والثلاثون المهتدي بالله  
ابن عبد الله قبل محمد بن  
الوائف بالله بن المعتصم

بن هرون الرشيد \*

روميه اسمها قرب \*  
وامه قال لما قبض الاتراك  
على المعتز احضروا محمدا  
بن الوائف وبايعوه بالخلافة وكان  
المعتز اول من بايعه واقبه المهتدي  
بالله وذلك لثلاث خلون من شهر  
رمح سنة خمس وخمسين ومايتي ولما  
بريع بالخلافة منع الشرب واطرح الغبي  
والملاهي وامر بنغي القبال وطرده السباع  
وكلاب الصيد التي كانت في  
دار الخلافة وانزال المظالم والزم نفسه  
الاشراف على الدواوين والحسابات  
والجلوس للناس في كل اثنين وخميس  
والكتاب بين يديه

قال وفي هذه السنة ظهر الحبيب  
صاحب الريح بالبصرة وهو رجل ادعي  
انه علي بن محمد بن احمد من ولد علي  
بن ابي طالب وكذب وقيل ان اسمه  
علي بن محمد بن عبد الرحيم من بني عبد  
القبس فجمع الريح الذين كانوا برسم  
السباع وكان مبدا ظهوره في سنة تسع  
واربعين ومايتي وكان مشعبدا عبارا  
متجرا فاسد العقيدة فاستغوي جماعة من  
ذوي الجهل من الريح والغلمان وعبر  
دجلة ثم مضى الى البحرين ودعي الى  
نفسه علي انه من ولد علي بن ابي طالب  
ومعه خلق كثير ثم انقل الى حي  
بني قهم ولم يزل ينتقل من حي الى حي  
ويقوي امره الى سنة سبعين ومايتي  
وسنذكر في كل سنة ما جري له  
فيها من الحوادث ان شاء الله تعالى

Decimus quartus Abbasida-  
rum, & Chalifa trigessimus quintus,  
MVHAMMED ABV-ABDAL-  
LA MVHTADIS BILLA, f.  
Waici, f. Mutasimi, f. Ha-  
ronis Rasjidi.



ATEREJUS Romana fuit no-  
mine Caraba. Cum Turca pre-  
hendissent Mutazum, advo-  
catum hunc Muhammedem f.

Watici crearunt Chalifam. ac Mutazus  
quidem primus omnium eum Imperatorem  
salutavit, & cognominavit Muhtadim Bil-  
la, idq; die tertio mensis Regjebi, anni 255.  
Creatus autem Chalifa vetuit usum vini:  
& rejecit Cantores ac Mimosi: Augures au-  
tem exulare iussit. abegit quoque leones,  
& canes venaticos, qui in arce imperiali  
erant: & sustulit tributa. quin ipse sibi  
imposuit inspectionem judiciorum, & ra-  
tionum: & sedens vacavit populo singu-  
lis diebus Luna, & Iovis, librum ante  
se habens.

Muhtadis  
probitas.

Eodem anno manifestavit se Habibus  
Rihorum Dominus, Basra, vir qui dicebat  
se esse Alim filium Muhammedis, filij Ah-  
medis, è posteris Alis filij Abutalibis, verum  
mentiebatur. ajunt autem nomen ejus fu-  
isse Alim f. Muhammedis, f. Abdurrabi-  
mi, è posteris Abdulcaisi. Hic collegit Rihos,  
qui leonum more vivebant: cepitque in-  
notescere anno 249. homo inquires, Astrolo-  
gus, & noxia religionis. qui multos homi-  
nes simplices ex Rihis, & pueros seduxit.  
Trajecto Tigri abiit in Bahrainam, predi-  
cans se esse oriundum ab Ali f. Abutalibis,  
& multos apud se habens mortales. Dein-  
de adijt familiam filiorum Temimi. neque  
desiit ab una familia, ad aliam discedere,  
& imperium stabilire, ad annum usque  
ducentesimum septuagesimum. Commemo-  
rabimus autem, favente Deo Opt. Max.  
in singulis annis, quid ei in ijs contigerit.  
Cum

Habibus lege in Arab.  
Rihorum الزنج. et in  
Dominus Lat. Zengien  
rebellat. Sium.

*Cum itaque illo anno vires ejus crescerent, consternatae sunt Regiones, & crevit in hominum animis ejus terror, nec quisquam ei occurrit quin ab eo vinceretur.*

*Anno ducentesimo quinquagesimo sexto venit Musa fil. Nuga Samarram: fuerat enim Raja, & in Tabristana, bellum inferens Alaweo, qui in illis tractibus prodierat, cumque Samarram venisset, abscondit sese ab eo Salihus f. Wasfi: sed diligentissime eum quaesivit Musa, donec eum nactus est, eumque occidit: & circumportatum fuit postridie caput ejus, & clamatum, Hac pars ejus est qui Dominum suum interfecit, eumque necari iussit. & factum id fuit tribus diebus.*

*Eodem anno occisus fuit Muhtadis Billa. cum enim Musa f. Nuga, & Bancialus consentirent de eo occidendo, suavit Musa Bancialo, uti Muhtadim adiret, & simularet se ei subijcere, interim autem neci ejus studeret. Abijt itaque Bancialus ad Muhtadim: sed hic eum in vincula coniecit. unde tumultum excitantes Principes circumdederunt*

*arcem, petentes à Muhtadi ut Bancialum dimitteret: verum is caput illius abscissum ad eos projecit. Hinc tumultuati sunt Turca, & pugna ab ijs & Magaribus commissa, quibus utrimque quatuor millia ceciderunt. Sed Turca rursus numero decem*

*millium convenientes, Ducem suum constituerunt Tagarbam fratrem Banciali. Et egressus Muhtadis, in sinu Alcoranum ferens, opem imploravit Magaribarum, Farainorum, & quorundam è vulgo. Sed irruens in eos Tagarbas, cum Turcis, in fugam eos vertit: abijtque Muhtadis fugiens, & manu ensem tenens, ac duobus saucius vulneribus, atque ingressus est domum Muhammedis f. Mardadi. at illi ingressi quoque eum apprehenderunt: & Ahmed fil. Chacani imposuit eum jumento, eumque, à tergo sequens, egit, & in domum suam introduxit; ubi ceperunt verberare eum, & faciem ejus conspuere, dicentes, Depone*

*Chalifatum. at illo id recusante, quidam ejus testes conculcavit, donec eum occidit, idque die 16 mensis Regjebi. Crearunt autem Chalifam Ahmedem f. Mutewakkeli, eumque cognominarunt Mutamidum Alalla, &*

فلما قوي أمره في تلك السنة وغاب البلاد وقويت في النفوس هيبتة وكان لا يلتقبه أحد الا كان الظفر له

قال وفي سنة ست وخمسين ومايتي قدم موسي بن نوغا من سر مر راي وكان بالري وطبرستان لحاربة العلوي الخارج بتلك البلاد فلما قدم من سر مر راي اختفي منه صالح بن وصيف واشتد طلب موسي بن نوغا إلى ان ظفر به فقتله وطبغ براسه من الغد ونودي هذا جزا من قتل مولاه وامر بقتله وفعل ذلك ثلاثة أيام

قال وفي هذه السنة كان مقتل المهدي بالله وذلك ان موسي بن نوغا وبانكيال اتفقا على قتله فاشار موسي بن نوغا بانكيال بالمضي إلى المهدي ويظهر له انه علي طاعته ويدبر على قتله فمضي بانكيال إلى المهدي فاعتقله فحاشت الموالي واحتاطوا بالقصر وطالبوا المهدي باطلاق بانكيال فقطع براسه ورماها لهم فحاشت الاتراك ووقعت الحروب بينهم وبين المغاربة فقتل من الفريقين اربعة الف واجتمعت الاتراك في عشرة الف وقدمت عليها طغربا اخا بانكيال وخرج المهدي والمصحف في عنقه يدعى الي نصر المغاربة والغرائنة وبعض العامة فجعل عليهم طغربا والاتراك فهزموهم ومضي المهدي منهرما والسيف في يده وقد جرح جرحين فدخل دار محمد بن مردان فدخلوا عليه واخذوه اسيرا وحمله احمد بن خاقان على دابة فاردف خلفه سايسا وادخله إلى داره وجعلوا يصغعونه ويصقون في وجهه ويقولون اخلعها فامتنع فوطي رجل على انثبيه حتى قتله وذلك لاربع عشرة ليلة بقت من شهر رجب وبايعوا احمد بن المتوكل ولقبوه المعتمد على الله



واحضروا شهودا شاهدوا المهتدي وانه مات ساها وليس به الا جرحا يوم الوقعة وقيل انه بن عم بانكيال قتله بخنجر وشرب من دمه وصلى عليه القاضي جعفر بن عبد الله الهاشمي ودفن بسر مر راي فكانت مدة خلافته احد عشر شهرا واياما وكان عمره يناهز اربعين سنة \* صغته مربوعا حسن الوجه اسمها رقبعا اشهل العينين عظام البطن طويل اللحية اجلح \* وسمرته ورمعا صالحا جميل الطوية مرضي السيرة محمد المذهب يكاد يكون في بني هاشم مثل عمر بن عبد العزيز \* وبنواوه ابن ايوب بن احمد قاضي الحسن بن ابي الشوارب حجاب صالح بن وصيف وبانكيال وموسي بن نوحا نقش خاتمة من تعدي الحق ضاع مذهبه ☞ قال المؤرخ كان اول خلافته يوم الثلاثاء واخرها يوم الثلاثاء لثمة مايتي خمس وخمسين سنة وستة اشهر وسبعة عشر يوما للهجرة ولقام ستة الف وثلاثمائة احدى وستين سنة وتسعة اشهر وستة وعشرين يوما شمسة للعالم ☞

advocarunt testes, qui testarentur Muh-tadim sanum obisse, non enim in eo erant nisi duo vulnera, qua tempore pralij acceperat. Sunt qui dicunt filium patrum Banciali eum occidisse, & de sanguine eius bibisse. Oravit pro eo Iudex Gjasar f. Abdalla Hasjemius. Sepultus est Samarra. Imperavit menses undecim, & aliquot dies: annos natus circiter quadraginta. Quod ad formam ejus attinet. mediocris fuit statura, pulchra facie, fuscus, gracilis, ovillis oculis, magno ventre, proluxa barba, & calva fronte. Quod ad naturam. abstinent, bonus, pulchrorum conceptuum, optima indolis, ac laudabilis vita, & fere inter Hasjemidas fuit tanquam Omar fil. Abdula-izi. Consiliarius ejus fuit Abuio- bus fil. Ahmedis. Iudex, Hasenus fil. Abusjan aribi. Ianitores, Salibus, f. Wajfi, Bancialus, & Musa filius Nuga. Symbolum sigilli ejus, Qui transgreditur æquum errat ejus gressus. Chronologus ait initium Chalifatus ejus fuisse diem Martis, uti & finem, elapsis annis Hegira 255, mensibus sex, & diebus 17. annis autem solaribus mundi 6361, mensibus 9, & 26 diebus.

Ejus forma  
Naturæ  
Officiales  
Symboli



CAPVT DECIMVM SEXTVM.

الخامس عشر من الخلفا العباسيين  
وهو السادس والثلاثون المعتمد علي  
الله ابن العباس احمد بن  
المنوكل بن المعتصم بن  
هرون الرشيد \*

**Decimus quintus Abbasidarum,** & Chalifa trigesimus sextus,  
AHMED ABVLABBAS MUTAMIDVS ALALLA, fil. Mutewakkeli, f. Mutasimi, fil. Haronis Rasjidi.

ام ولد يقال لها فبنان  
بويغ له بالخلافة يوم قتل  
وامه بن عم المهتدي بسر مر  
راي لاربعة عشرة ليلة بقت  
من شهر رجب سنة ست وخمسين  
ومايتي ☞ وفي هذه السنة قوي امر الحبيب صاحب الريح واكثر من القتل والقنال والنهب فخرج له جعلان فلقبه فهرم جعلان ومن معه واخذ الريح اربعة

**M**ATER ejus genitrix dicta fuit Finana. Creatus est Chalifa Samarra, eo die quo occisus fuit filius patrum Muh-tadis, die scilicet 16 mensis Regjebi anni ducentesimo quinquagesimo sexti. Atque eodem anno viribus crevit Princeps Rihorum, & cade, pugna, ac pradatione grassatus est. Sed exijt contra eum Gjalanus: cui ille occurrit, in fugam eum cum suis vertens. ceperuntque Rihum viginti quatuor

Rihorum victoria. Emendandum est in textu Latino hic & infra & legendum est Zengjensium, & in Arabico textu vide Herbelot Biblioth. Oriental. pag. 929. col. 2.

Habibus  
capit O-  
bullam,

& Abbada-  
num atque  
Ahwazam.

Cœpit 29  
Novemb.  
A.C. 870.

Habibus  
Bafram ob-  
fidet, & ca-  
pit.

Cœpit 17  
Novemb.  
A.C. 871.

Habibus  
vincit Mu-  
allidum.

Muafficus  
Socius fœ-  
deris.

Muafficus  
Habibum  
adoritur.

Mufihus  
perit.

Iahja Dux  
Habibi  
mifere pe-  
rit,

naves marinas, eas circumdantes, & occi-  
dentes omnes illos qui in ijs erant. Hinc a-  
biit Habibus Obullam, eamque adorsus, &  
multis in ea mortalibus occisis, urbe est po-  
titus. Deinde contendit Abbadanum, cu-  
jus cives arcem ei tradiderunt: & magna  
pecunia vi ab ijs accepta, abiit in Ahwa-  
zam, quam & occupavit. Cumque jam  
80 hominum millia se illi adjunxissent, cœ-  
perunt etiam timere cives Basrae, & multi,  
relicta urbe, in varia loca dispersi sunt.

Anno 257 adorsus est Habibus omni  
vi sua Sabadam f. Gjafaris f. Dinani, &  
eos qui cum illo erant, eosque vicit, multos  
eorum occidens. Mutamidus autem contra  
eum multos exercitus misit, diversis vici-  
bus, qui cum illo multas pugnas commise-  
runt: sed in omnibus ijs victoria cœsit Prin-  
cipi Riborum. Tandem Basram obsedit ar-  
tissima obsidione, adeo ut fames, & com-  
meatus defectus cives affligerent: urbem-  
que ingressus, viginti civium millia occi-  
dit, & ea potitus est.

Anno 258 misit Mutamidus contra eum  
Muham. Muwallidum, contra quem prodijt  
Habibus, & multis comisis pr alijs, tandem  
in fugam versus est Muhammed jam me-  
moratus, & Habibus exercitū ejus delevit.

Eodem anno constituit Mutamidus fra-  
trem suum Abu-Ahmedem f. Mutewakeli  
Socium fœderis sui; concedens ei præfectu-  
ram Orientis, Diarrebæ, Mausilæ, Awa-  
simæ, & Aegypti; & dignitatis ei vestem  
induens, ac cognominans eum Muafficum  
Billa: futurum quoque successorem ejus de-  
signans filium suum Gjafarem f. Mutamidi,  
quem cogominavit Mufavidum Ilalla; con-  
cedens ei præfecturam Occidentis. Hinc  
misit Muafficum Billa, & cum eo Mufli-  
hum, cum magno exercitu, oppugnatum  
Habibum: cui cum occurrissent, acerrime  
commisse sunt pugna; in quibus cum sa-  
gitta Muflihum tetigisset, & occidisset,  
milites ejus in fugam versi sunt. Muaffi-  
cus autem cum suis secedens nonnihil, vi-  
res collegit. Erat autem Habibus menda-  
cissimus, suisque persuadebat, se abscondita  
quaque scire, & ea facere posse, quæ in po-  
testate hominis non essent. Deinde prælium  
commissum est cum Iahja f. Muhammedis

وعشرين مركبا من مراكب البحر  
واحتاطوا حولها وقتلوا كلن كان  
فيها ثم سار الحبيب الى الابله فهاجها  
وقتل خلقا عظيما بها واستولى عليها  
ثم سار الي عبادان فسلم اهلها الحصن  
اليه واخذ منهم اموالا كثيرة ثم سار  
الي الاهواز فاخذها واجتمع معه ثمانون  
الفا من الخلق فخاف منه اهل  
البصرة وانعقل جماعة وتفرقوا في عدة  
اماكن

قال وفي سنة سبع وخمسين ومايتي  
اتي الحبيب صاحب الريح سعيد بن  
جعفر بن دينان ومن معه علي عزة فظفر  
بهم وقتل منهم خلقا كثيرا فجهز اليه  
المعتد جبوشا كثيرة في عدة دفعات  
وكان بينهم وقعت كثيرة وكان  
الظفر فيها لصاحب الريح ثم حاصر  
البصرة حصارا شديدا واضر باهلها  
الجوع وانقطع الميرة فدخلها وقتل من  
اهلها عشرين الفا واستولى عليها

وفي سنة ثمان وخمسين ومايتي  
جهز اليه المعتد محمد المولد فخرج اليه  
الحبيب وجري بينهم قتال كثير  
فانهزم محمد المذكور واستباح الحبيب  
عسكره

وفي هذه السنة جعل المعتد اخاه ابا  
احمد بن المتوكل ولي عهده وضم اليه  
ولاية المشرق وديار مريضة والموصل  
والعواصم وديار مصر وخلق عليه ولقبه  
الموفق بالله وجعل ولي عهده ابنه  
جعفر بن المعتد ولقبه المفضول  
الله وجعل اليه ولاية المغرب وجعل  
الموفق بالله لقتال الحبيب ومعه  
مبلغ في عسكر عظيم فالتقوا مع  
الحبيب وجرت حروب شديدة اصاب  
مبلغ فيها سها فقتله وانهزم اصحابه  
وانجاز الموفق واصحابه الي جهة فتدبتوا  
قربها وكان الحبيب كذايا محرقا  
وكان يوم اصحابه انه يعلم المغيبات  
ويفعل ما ليس في قدرة البشر  
ثم كانت وقعة بين يحيى بن محمد

Azraci,



الامرئ قايد الحبيب وجرح جراحت  
مئخنة صعبة منته من الهرب فاسر  
واقي به الي سر مرراي فضرر مايري  
صوط وقطعت يداه وبرجلاة ثم قطع  
بالسيوف واحرق \* وكانت وقعت  
بين الموفق بالله والحبيب كانوا فيها  
متكافيين ثم انجار الموفق بالله واصحابه  
الي واسط مرض حدث لاصحابه الي حين  
انصلحوا

قال وفي سنة تسع وخمسين ومايتي  
دخل يعقوب بن اللبث الصفار نيسابور  
وكان قد تغلب بتلك الناحية وحبس  
محمد ابن طاهر بن الحسين واهل بيته  
وقبض نعمتهم ثم سار خلف الحسن بن  
زيد العلوي المقدم ذكره بعد وقعت  
جرت بينهم ودخل يعقوب طبرستان  
واستولى عليها \* وفيها عاد الموفق  
بالله الي بغداد واستولى على قتال  
الحبيب محمد المولد \* وفيها هم اصحاب  
الحبيب الاخوان فقتلوا فيها خمسين الفا  
واخرى اسوارها فجهز المعتد بالله عبد  
الرحمن بن مفلح الي الاخوان واستحق  
بن دراج الي البصرة وابراهيم بن سيار  
الي داورد لحرب الحبيب فجرت بينهم  
وقعات كثيرة

وفي سنة ستين ومايتي قاتل الحبيب  
صاحب الريج \* وفيها كانت وقعت  
بين امرا المعتد وبين الحبيب قتل فيها  
خلق كثير

قال وفي سنة احدى وستين ومايتي  
كانت وقعت بين الحبيب وبين  
محمد من واصل قتل عامل المعتد علي  
فارس وغلب عليها فضم المعتد فارس  
والاخوان والبصرة والبحرين الي موسى  
بن نوغا مع ما كان معه من عمل المشرق  
فجهز موسى بن نوغا عبد الرحمن بن مفلح  
الي الاخوان وولاية اياها وضم اليه طيسم  
التركي وكان محمد بن واصل مقبلا  
بالاخوان علي حرب الحبيب فلما اتصل  
به ذلك نرحف الي عبد الرحمن والنقيا  
براهم من قظفر ابن واصل بابن مفلح

*Azraci, duce Habibi, quo vulnera accepit  
periculosa & gravia, qua impediverunt  
eum, quo minus fugere potuerit; unde ca-  
pius fuit, & ductus Samarram, ubi cū du-  
centis plagis casus esset, manus ei & pedes  
amputati sunt. hinc gladijs in partes scissus  
fuit, & combustus. Commisit quoque Mu-  
afficus cum Habibo aliquot praelia, in qui-  
bus pares fuerunt. Deinde Muafficus cum  
militibus suis secessit Wasitum, ob morbum  
qui invaserat milites ejus, donec conva-  
luerunt.*

*Anno 259 ingressus est Iacobus f. Al-  
liti Safarus Nisaburum, cum potitus jam  
rerum esset in illis partibus, & Muhamme-  
dem f. Taheri f. Huseini in carcerem conje-  
cit, cum domesticis ejus, delicias eorum ca-  
piens. Deinde persequutus est Hasenum f.  
Zeidi Alawaum, cujus supra meminimus,  
ut aliquoties acie conflixerant. & ingressus  
Iacobus Tabristanam ea est potitus.*

Coepit 6  
Novemb.  
A. C. 872.  
Iacobus f.  
Alliti re-  
bellat.

& capit Ta-  
bristanam,

*Eodem anno reversus est Muafficus Bag-  
dadum, & bello cum Habibo gerendo prae-  
fecit Muhammedem Muwallidum. Eodem  
quoque anno irruerunt milites Habibi in  
Ahwazā, & quinquaginta in ea occiderunt  
hominum millia, ac muros ejus destruxe-  
runt. Misit a. Mutamidus Billa Abdurrah-  
manem f. Muslihi Ahwazam, & Ishacum,  
f. Daragi Basram, atque Ibrahimum f. Si-  
ma Dauracum, bello petitum Habibum.  
& hi multas cum eo commiserunt pugnas.*

Ahwazus  
ab Habibe  
capitur.

*Anno 260 bellum movit Habibus Prin-  
ceps Rihorum. Eodem anno praelijs aliquot  
cum Habibo certarunt duces Mutamidi,  
quibus multi perierunt.*

Coepit 26  
Octobris.  
A. C. 873.

*Anno 261 acie aliquoties conflixerunt  
Habibus & Muhammed f. Wasili, qui, occiso  
Praefecto Persiae Mutamidi, eam occupave-  
verat. sed praefecit Mutamidus Persiae,  
Ahwazā, Basra, & Bahrainā Musam f.  
Nugā, praeter ea quibus jam praerat in Ori-  
ente. Misitque Musā f. Nugā in Ahwazam  
Abdurrahmanem f. Muslihi, eundē ei pra-  
ficiens, eique adjungens Tisamum Turcam.  
Erat autem in Ahwazā Muhammed f. Wa-  
sili bellum gerens cum Habibo, qui, cum  
id intellexisset, processit contra Abdurrah-  
manem, & concurrerunt in Ramahormu-  
za, vicitque filius Wasifi filium Muslihi,*

Coepit 15  
Octobris  
A. C. 874.

Muham-  
med fil.  
Wasili  
rebellat.

Et eum cepit. At Mutamidus misit ad filium Wasili, ut dimitteret filium Mustibi. Et profectus est filius Wasili Istacharam, bellum illatum Musæ f. Nuga. Cum autem Musa videret rei difficultatem, et eorum multitudinem qui captabant Orientem, defungi voluit Praefecturis Orientis: iisque solutus, removit ab ijs Vicarios suos, et contendit Samarram.

Victoria  
Iacobii  
Alliti.

Eodem anno praelium commissum est à Muhammede filio Wasili, et Iacobus fil. Alliti: fugitque filius Wasili, et cepit Iacobus arcem ejus; in qua erant quadraginta mille staterum millia.

Cepit 6  
Octobris.  
A.C. 875.

Anno 262 exijt Mutamidus Alalla oppugnatum filium Alliti. hic enim potens jam factus, et rebellis, terram pervaserat, donec venerat Wasitum, eamque ingressus erat, in Gjumada posteriori. Cum autem Mutamidus Bagdadum venisset, discessit illinc Sjitam; sed persequutus eum est Mutamidus cum Socio foederis sui Muaffico Billa. Concurrerunt autem mense Regjebo: et in fugam versis militibus filij Alliti, spoliavit Muafficus exercitum ejus; ac salvavit Muhammedem, f. Zaheri, qui ferramentis gravatus erat. Hinc Muafficus persequutus est Iacobum f. Alliti, Safarum, qui solum de se salvando sollicitus erat. Eodem quoque anno praelia aliquot commissa sunt ab Habibo et Mutamido, in quibus victoria cessit Habibo.

Fugit Iacobus.

Cepit 24  
Septemb.  
A.C. 876.

Anno 263 pugna commissa est à militibus Habibi, et Ahmede f. Libona, Samarra primum, deinde in Ahwaza, qua superior evadens Ahmed, multos è militibus Principis Rihorum occidit. At hi deinde in insidijs collocati, cum illi iterum reverterentur, prodierunt contra eos, ut ne unus quidem eorum evaserit; et capita eorum miserunt ad Habibum. Ahmed autem f. Libona fuga se dedit.

Clades  
Ahmedis.

Cepit 13  
Septemb.  
A.C. 877.

Anno 264 milites Habibi ingressi sunt Wasitum, cujus civis aufugerant, eamque igne combusserunt, pradas nacti innumeras. Deinde praelia multa commissa sunt ab ijs, et militibus Mutamidi.

Cepit 3  
Septemb.  
A.C. 878.  
Antiochia  
capitur,

Anno 265 obsedit Praefectus Aegypti Ahmed f. Tuluni Antiochiam, in qua erat Sima Longus, neque ante discessit, quam

واسرة فبعث المعتمد الي بن واصل في اطلاق بن مفلح وتوجه الي اصطخر لحرب موسى بن نوحا فلما راي موسى شدة الامر وكثرة المتغلبين علي المشرق سأل الاعفا من اعمال المشرق فاعني وعزل نوابه عنها وقدم الي سرمر راي \* وفيها كانت وقعة بين محمد بن واصل ويعقوب بن الليث فهزم ابن واصل واخذ يعقوب قلعة له وكان فيها اربعمائة الف درهم.

قال وفي سنة اثنتين وستين ومايتي خرج المعتمد علي الله لقتال بن الليث وسببه ان ابن الليث كان قد تجبر وعصي وشق الارض حتي اتي واسط فدخلها في جمادي الاخرة فلما صار المعتمد بمبغداد ارتحل منها الي شيت وانتهض خلف بن الليث وولي عهده الموفق بالله فالتقيا في شهر رجب فانهزم اصحاب بن الليث واستباح الموفق عسكره وخلص محمدا بن نواهر وكان منقلا بالحديد وتوجه الموفق في اثر يعقوب بن الليث الصفار ولم يكن ليعقوب همة الا النجاة بنفسه \* وفيها كانت بين الحبيب صاحب الریح وبين المعتمد حروب كان الظفر فيها للحبيب. وفي سنة ثلاث وستين ومايتي كانت وقعة بين اصحاب الحبيب واحمد بن لبيونه بسرمر راي ثم بالاهوار كان الظفر فيها لاحمد وقتل من اصحاب صاحب الریح جماعة ثم انهم كمنوا فلما كروا راجعين خرج عليهم اصحاب الحبيب فلم يسلم منهم احد وبعثوا برسولهم الي الحبيب وهرب احمد بن لبيونه.

وفي سنة اربع وستين ومايتي دخل اصحاب الحبيب واسط وانهزم اهلها واحرقها الریح بالنار وغنوا اموالا كثيرة لا تحصى ثم كانت حروب كثيرة بينهم وبين اصحاب المعتمد. وفي سنة خمس وستين ومايتي حاصر صاحب مصر احمد بن طولون انطاكية وفيها سما الطويل فلم يزل بها حتي



فتحها وقتل سبها \* وفيها صارت جماعة من اصحاب الحبيب في بلد سمريه الى جبل فاغاروا عليها واخذوا اربع سفن مملوءة طعاما ثم دخلوا الى النجاشيه فاحرقوا سوقها واكثر منازل اهلها وسبوا ثم ساروا الى جرجرايا فسبوا ونهبوا واحرقوا ☩

وفي سنة ست وستين ومائتي دخل اصحاب الحبيب رامهرمز فاحرقوا جامعها وقتلوا مالا يحصى واكثروا منه السبي والنهب ☩

وفي سنة سبع وستين ومائتي ندب الموفق بالله ولده ابا العباس المعتضد بالله لحرب الحبيب باصحابه فخرج في عشرة الف فارس ورجال واصحابهم كانوا في اكثر من مائة الف فانهزموا من مواضعهم التي كانوا استولوا عليها وغنم من اموالهم ما لا يحصى واستنقذ من النساء المسلمات التي كن في اسره خمسة الف امرأة وردهن الي اهلهم سوي من ظفر بهن من الربيحات ثم وصل الي بلد الحبيب الذي بناه وسماه المبيعة فاخذ جمع ما فيها ثم هدم سورها ثم ظم خنادقها واحرق ما كان فيها من السفن ثم تبعهم الموفق بالله الي مدينه كانوا قد بنوها وحصنوها بخمس خنادق امام كل سور خندق وهيجهما وهزمهم منها واخذ منها من الاموال مالا يحصى ثم تبعهم في البلاد وقتل من اكابرهم مثل ابن السعراي وابن جامع وغيرهما من القواد ثم تبع الموفق بالله الحبيب صاحب الريح الي مدينته المسماة بالمحبارة وكان عدو الله الحبيب قد حصنها بالخنادق بالعدد والسلاح والابواب وهي فيها في ثلثمائة الف فبلا راي الموفق حصانة البلد علم انها لا تنفتح في مدة قريبة فابني مدينه بارايها سماها الموفقيه ودعا التجار اليها وبني بها الجامع وضرب الدنانير والدرهم فيها واقام على مصاهرة الحبيب

*eam cepit, & occidit Simam. Eodem anno excurrerunt aliquot de militibus Habibi Gjebulam, eamque adorsi sunt, & ceperunt quatuor naves plenas annona. hinc abierunt Numaniam, & combusserunt forum ejus, ac majorem domorum civium partem, & captivos etiam abduxerunt. Deinde perrexerunt Gjergjerajam, ubi captivos quoque nacti sunt, & prädatione atque incendio grassati.*

*Anno 266 ingressi milites Habibi Ramahormuzam, templum ejus incenderunt, innumeros mortales occiderunt, & multos captivos ac spolia nacti sunt.*

*Anno 267 hortatus est Muafficus Billa filium suum Mutadidum Billa Abulabbasem ad bellum inferendum Habibo, cum suis militibus. Is itaq; egressus cum decem mille equitibus, & peditibus, ad eos pervenit. erant autem illi plures quam centum mille numero: & aufugerunt ex locis suis que ceperant: unde ipse innumeras preδας est consequutus, & liberavit quinque mulierum Muslimarum, quae in carcere ejus erant, milia; easque suis restituit, exceptis ijs quas ex Ribis nactus erat. Deinde pervenit ad urbem Habibi, quam adificaverat, & vocaverat Mabiam, cepitque omnia*

*que in ea erant, hinc murum ejus diruit, ac fossas implevit, combustis quae in ijs erant navibus. Hinc persequutus eos est Muafficus ad urbem usque, quam adificaverant, & muniverant quinque fossis, ad singulos scilicet muros singulis factis fossis, eamque adorsus, illos ea expulit, & immensas opes est nactus. Post persequutus eos est per regionem, & principes aliquot eorum occidit, ut filium Saarabis, filium Gjamiij, & alios duces. tandem persequutus Habibum est ad urbem usq; nominatam Mahbaram, quam hostis ille Dei Habibus muniverat fossis, apparatu bellico, armis, & portis; & in qua ipse erat cum trecentis militum milibus. Videns autem Muafficus munitiorem urbis, animadvertit eam brevi tempore capi non posse: & urbem e regione ejus extruxit, quam nominavit Muaffikiam: & in eam vocavit mercatores. adificavit quoq; in ea templum, & aureos in ea atque stateres cudit, patienter, expectans Habibum,*

*Mabiam cepit & destruit.*

*Muafficus bellum infert Habibo.*

*Mahbara urbs Habibi.*

*Muaffikia conditur a Muaffico.*

Victoriae Habibi.

Cepit 23 Augusti. A.C. 879.

Cepit 11 Augusti. A.C. 880.

Muradidus bello persequitur Habibum.

Mabiam cepit & destruit.

Muafficus bellum infert Habibo.

Mahbara urbs Habibi.

Muaffikia conditur a Muaffico.

& consumptionem facultatum ejus. Hinc magna militum illius pars ad eum defecit. Facto autem Gjumada posteriori, milites Muaffici, labefactato muro, in urbem irruerunt, & pugnarunt cum militibus Habibi. duraruntque in ijs clades, & direptio, ad Sjaabanum usque. Restiterunt autem ijs diu, & à se eos propulsarunt, donec, impetu in eos facto, exercitus Muaffici eos abegit, à flumine, & in fugam vertit. Deinde Duces aliquot Habibi ad Muafficum transferunt.

Cœpit 1  
Augusti  
A.C. 881.

Anno 268 progressus est Muafficus ad Urbem Habibi, & multis ruinis murum ejus labefactavit, ac per singulas urbem ingressus est. Habibus autem & milites ejus in loco quodam urbis convenerunt, & se in eo defenderunt. at Muafficus multis eos vicibus oppugnavit, & victor semper evasit. Eodem anno manifestè rebellare cœpit Luluus domino suo Ahmedis f. Tuluni Præfetto Aegypti.

Cœpit 21  
Iulij A.C.  
882.

Anno 269 pugnas aliquot pugnarunt Muafficus & Habibus, ac vulneratus sagitta in pectore suo Muafficus, aliquamdiu à bello desistere coactus fuit: at sanatus deinde ad id redijt, & progressus ad urbem Habibi, murum ejus diruit, ac multos occidit, multosque cepit, & multos illesos reliquit.

Luluus ab  
Ahmede  
deficit.

Eodem anno scripsit Luluus servus Ahmedis f. Tuluni ad Muafficum, petens ab eo veniam ipsum adeundi, & Domino suo resistendi, certasque postulans condiciones, quas cum Muafficus ei concessisset, eum adiit. Et eodem anno precepit Muafficus uti in suggestis malediceretur Ahmedis f. Tuluni. cujus rei causa hæc fuit. Mutamidus Alalla constituerat Socium fœderis sui fratrem suum Muafficum Billa. at hic ilico major eo fuerat factus, neque relictum fuit Mutamido quidquam, cum eo, nisi solus titulus, & quod in suggestis oraret, nomenque ejus cuderetur super aureis, & stateribus. Gubernatio regni tota Muaffici erat, non illius. Mutamidus autem hoc anno profectus est in Aegyptum, apud Ahmedem f. Tuluni intercessurus pro fratre suo Muaffico, idque post epistolas aliquot ea de re ultro citroque scriptas inter Mutamidum

Muafficus  
excommu-  
nicat Ah-  
medem.  
ejus rei  
causa.

وَيَدُلُّ الْأَمْوَالَ فِهْرِبْ جَمَاعَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذُو الْحِجَّةِ نَلِمَ أَصْحَابَ الْمَوْفِقِ فِي سُوْرِ مَدِيْنَةِ الْحَبِيْبِ نَلْمًا وَدَخَلُوا فِيهَا وَقَتَلُوا أَصْحَابَ الْحَبِيْبِ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ وَالنَّهْبُ إِلَى شَهْرِ شَعْبَانَ فَوَثِقُوا عَلَيْهِمْ طَوِيلًا وَدَافَعُوا عَنْ نَفْسِهِمْ إِلَى أَنْ جَمَلُوا عَلَيْهِمْ جَبْشَ الْمَوْفِقِ فَسَكَّرُوْهُمُ مِنَ النَّهْرِ وَهَزَمُوْهُمُ وَصَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَوَانِ الْحَبِيْبِ إِلَى الْمَوْفِقِ ۞

وفي سنة ثمان وستين ومايتي رحف الموفق الي مدينة الحبيب فنلم في سورها نلما كثيرة ودخل الي المدينة من جميع النلم فانهم الحبيب واصحابه وانضموا الي مكان سيف في المدينة عصوا فيه وقاتلهم الموفق في دفعات كثيرة وكان الظفر فيها كلها للموفق \* وفي هذه السنة اظهر لولن الخلاف علي مولاه احمد بن طولون صاحب مصر ۞ وفي سنة تسع وستين ومايتي جرت حروب بين الموفق بالله وبين الحبيب صاحب الريح فاصاب الموفق سهم في صدره فاستنع بسببه مدة من القتال ثم برا واعاد القتال وزحف الموفق الي مدينة الحبيب وهدم سورها وقتل جماعة واسر جماعة واستامن جماعة ۞

وفيها كتب لولو مولو احمد بن طولون الي الموفق يستادنه في المصبر اليه ومقاومة مولاه وشرط لنفسه شروطا فاجاب الموفق اليها فتوجه لولن اليه \* وفي هذه السنة امر الموفق بالله بلعنه احمد بن طولون علي المنابر والسبب في ذلك ان المتعهد علي الله ولا اخاه الموفق بالله ولاية عهده فاستولي عليه الموفق ولم يبق للمتعهد معه الا مجرد الاسم والدعا علي المنابر وضرب اسمه علي الدنانير والدرهم فاما تدبير الملك فهو للموفق دونه فلما كان في هذه السنة توجه المتعهد علي الله يريد مصر ليكون عند احمد بن طولون مياينا لاخيه الموفق وذلك بعد مكاتبات جرت بين المتعهد



علي الله وبين احمد بن طولون في ذلك  
فلما بلغ الموقف ذلك وهو في قتال  
الحبيب صاحب الريح انفذ ورد المعتد  
علي الله كرها اليه سر مر راي  
ولي اسحق بن كنداج اعمال ابن  
طولون جمعها وقلده سيفين وسماه  
دا السيفين ولم يقدم عليه ذلك فلما  
بلغ ابن طولون ذلك وكان يدمشق  
كتب اليه مصر ان الموقف بالله  
قد نكت ببعة المعتد وامر جمع  
الفقهاء والاشراف بمسيرهم الي دمشق  
فصاروا اليه واتفقوا عليه خلع الموقف  
واقضى بذلك الابكار بن عبد الله  
قاضي مصر فانه قال لاجد بن طولون  
انت اوردت علينا كتابا من المعتد  
بان الموقف ولي عهده فاورد الان  
كتابا بانخلاعه فقال هو الان مغلوب  
مقهور وانا احبسك حتي ترد كتابه  
لا طلقتك فقيده وحبسه واسترجع  
منه ما كان دفعه اليه من جوايزه  
فوجدها في منزله نحو ائنها ستة  
عشر كيسا فيها ستة عشر الف دينار  
فبلغ الموقف ذلك فامر بلعنة احمد بن  
طولون عليه المنابر فلعن ببعدان وسائر  
العراق

قال وفي سنة سبعين ومايتي كان  
مقتل الحبيب صاحب الريح وذلك انه  
لما استولي الموقف عليه مدينته واخر  
قصره وهدمه واحتاط علي اهله وعائله  
ووجه بهم اليه سر مر راي هرب عدو  
الله بنفسه وخاصة فظفر به وقتله  
ونصب راسه علي قناة وطبغ به في  
البلاد ثم بعث به الموقف مع ابنه المعتد  
بالله الي مدينة السلام وطبغ بها ونصب  
علي باب الجسر وكان هذا الفتح من  
اعظم الفتوحات واجلها وكان مقتله  
يوم السبت لليلتين خلتا من صفر وكان  
خروج الحبيب لاربع بقين من رمضان  
سنة خمس وخمسين ومايتي فكان مدة  
سلطانه اربع عشرة سنة واربعه اشهر وستة  
ايام ولما قتل الحبيب تلقب الموقف

Abmedem f. Tuluni. quod cum intel-  
lexisset Muafficus; qui totus erat in oppu-  
gnando Habibo, Principe Rihorū, misit, &  
Mutamidū invitum reduxit Samarram.  
Praefecturis autem omnibus Ahmedis fil.  
Tuluni praefecit Ishacum f. Kendahi, quem,  
duobus ei datis gladijs, vocavit Dulseifei-  
num (id est Duos habentem gladios)  
quod in ejus potestate non erat. Filius au-  
tem Tuluni qui Damasci erat, hac re co-  
gnita, scripsit in Aegyptum, Muafficum  
irritum fecisse creationem Mutamidi, qua  
Socium faederis sui eum creaverat, & Da-  
mascum jusit venire Sapientes omnes &  
Nobiles; qui cum ad eum venissent, una-  
nimi consensu deposuerunt Muafficum, ex-  
cepto Abcaro f. Abdalla, Iudice Aegypti.  
hic enim Ahmedi f. Tuluni dixit, Tu mi-  
sisti ad nos epistolam Mutamidi, qua Mu-  
afficum Sociū faederis sui constituit: itaque  
& nunc epistolam nobis mitte, de ejus depo-  
sitione. Respondit Ahmed, Nunc Mutamidus  
victus est, & cogitur. Ego a. te in carcerem  
conijciam, ac non dimittam, donec reddas  
epistolam ejus. & compeditum eum in car-  
cerem conjecit, ac recepit ab eo dona omnia  
quae ei dederat, eaque in adibus ejus inve-  
nit, sedecim scilicet marsupia, in quibus  
sedecim erant aureorum millia. Hoc cum  
intellexisset Muafficus, jusit ei maledici  
in suggestis, & maledictum ei fuit Bag-  
dadi, & in reliqua Iraca.

Anno 270 occisus est Habibus Rihorum  
Princeps. cum enim Muafficus urbe ejus  
potitus esset, & arcem ejus diruisset, atque  
destruxisset, populūque ejus & familiam  
naetus esset, eosque misisset Samarram; fu-  
git hostis ille Dei, cum ijs quae ipsius erant:  
sed naetus eum est, & occidit Muafficus,  
caputque ejus lancea affixit, & circum-  
portari jusit, per regionem. Deinde  
autem id misit, cum filio suo Mutadido  
Billa, Salamam, ubi & circumportatum  
fuit; & Deinde affixum Porta pontis.  
Atque hac victoria maxima fuit, & in-  
signis. Occisus a. est die Sabbathi, secundo  
mensis Safari. Ac prodierat vigesimo sexto  
Ramadani, anno 255. ita ut dominatus  
fuerit annos 14, menses 4, & dies sex. Oc-  
ciso Habibo, cognominatus fuit Muafficus,  
Nasirue

Ishacus f.  
Kendahi,

Abcarus f.  
Abdalla,

Coepit 10  
Iulij A. C.  
883.

Habibi in-  
teritus.

Imperium.

*Nasrus Lidinilla, (id est Subueniens religioni Dei) prater cognomen ejus prius.*

Ahmedis  
f. Tuluni  
mort.

*Eodem anno vita excessit Ahmed f. Tuluni, idque die decimo octavo Dulhiggiæ, aut, ut alij volunt, decimo Dulkiada. Ajunt eum, cum mortem præsenteret, manibus sublatis ad calum, dixisse, O Domine, miserere ejus qui sui ipsius quantitatem ignoravit; & ostende quod gratus ei sis, dum moritur. Reliquit liberos mares triginta tres. Quod ad naturam ejus attinet, multa fuit justitia, & eleemosynarum. quin ajunt eleemosynas ejus singulis mensibus trecenta aureorum millia confecisse. Culina ejus singulis diebus destinati erant mille aurei. & personis ecclesiasticis, singulis mensibus, totidem quoque aureos largitus est. Quin & ipso Præfecturam Aegypti tenente, Bagdadum portati sunt, & hominibus probis, eruditis, egrotis, & pauperibus distributibus millies mille aurei, & ducenta aureorum millia. Reliquit autem in arario suo decies millies mille aureos. Servorum millia habuit septem, & totidem equorum; octo autem millia mulorum, & camelorum, ac trecentos equos bellicos. hæc omnia tanquam sua, & propria. Erat autem ejus tempore reditus Aegypti trecenties millies mille aureorum. Caterum crudelis fuit, & effusor sanguinis. ajuntq; numerum eorum quos interfecit, & eorum qui in carcere ejus mortui sunt, octodecim millium fuisse. Mortuo autem Ahmede f. Tuluni, filius ejus Hamarujas ijs omnibus potitus est, quæ in manu patris ejus fuerant in Aegypto, & Syria, idque die decimo Dulkiada anno 270.*

Cœpit 29  
Iunij A.C.  
884.

*Anno 271 obiit Turana filia Haseni, filij Sahali, uxor Almamonis, annos nata 84.*

Cœpit 8  
Iunij A.C.  
886.

Rex Hispaniæ.

*Anno 273 vita excessit Muhammed f. Abdurrahmanis, filij Hakemi, Rex Hispaniæ, Amawens: cui in imperio successit filius suus Mundirus f. Muhammedis, f. Abdurrahmanis, f. Hakemi.*

Cœpit 14  
Aprilis.  
A.C. 891.

Muaffici obitus, & natura.

*Anno 278 obiit Muafficus Billa, die Mercurij, vigesimo primo Safari. Ad naturam ejus quod attinet. animo fuit forti, prudens, peritus regiminis ac gubernationis,*

الناصر لدين الله مضافاً للقبه  
الاول

قال وفي هذه السنة كانت وفاة احمد بن طولون وذلك لعشر بقين من ذي الحجة وقبل لعشر خلون من ذي القعدة وقبل انه لما حسن بوفاته رفع يديه الى السماء وقال يارب ارحم من جهل مقدر نفسه وانظره حلكك عنه وقضي نجبه وخلف ثلاثة وثلاثين ولدا ذكورا \* سيرته كان كعبر البر والصدقات فقبل ان صدقاته في كل شهر ثلاثة الف دينار وكان مراتب مطبخه في كل يوم الف دينار وكان يجري على اهل المساجد في كل شهر الف دينار وحمل الي بغداد في مدة ولايته مصر ما فرغ علي الصالحين والعلماء وتصدق به علي الضعفاء والمساكين الف الف ومايتي الف دينار وترك في خزانته عشرة الف الف دينار وكان له سبعة الف مملوك وسبعة الف فرس وثمانية الف بغل وحمل برسم خاصة فلتمة فرس للحرب وكان خراج مصر في ايامه ثلثماية الف الف دينار \* الا انه كان ظالما سفاكا للدماء فيقال ان عدة من قتله ومن مات في محبسه ثمانية عشر الفا وما توفي احمد بن طولون فاستولي ولده حمارويه علي ما كان بيد والده من مصر والشام وذلك لعشر بقين من ذي الحجة سنة سبعين ومايتي

قال وفي سنة احدى وسبعين ومايتي توفت توران ابنة الحسن ابن سهل روجة المامون وكان عمرها اربع وثمانين سنة \* وفي سنة ثلث وسبعين ومايتي توفي محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم ملك الاندلس الاموي فبويع بالخلافة بعده ولده المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم

قال وفي سنة ثمان وسبعين ومايتي كانت وفاة الموفق بالله يوم الاربعاء لثمان بقين من صفر وسيرته كان ميمون النية صاحب رأي وتدبير وسياسة



وحزم وشهامة وكان شجاعا وسمحا  
 وكان يقول والله اني اري جلساي  
 بالعين التي اري بها اخوتي والله لو تهبها  
 لي لنقلت اسمهم من الندمان والجلساء  
 الي الاخوان والاصدقا والمهمات الموقفة  
 بالله قام بتدبير الملك بعده ولده  
 المعتضد بالله ابي العباس احمد وخلع  
 عليه في المعتد على الله وولاه عهده  
 بعد ان خلع ولده جعفر من ولاية عهده  
 وغاب المعتضد بالله على في المعتد  
 كما كان ابوه الموقف غالبا عليه .

وفي هذه السنة كان ابتدا امر  
 القرامطة وهم طائفة من الباطنية للملاحدة  
 وكان ابتدا امرهم ان رجلا من ناحية  
 السواد كان يظهر الزهد والنشغ  
 ويزعم ان الله تعالى افرض عليه خمسين  
 صلاة في اليوم والليلة فاشتهر ذلك عنه  
 ثم اعلم من كان معه انه يدعى الى  
 امام من اهل البيت ثم اقام بقريه  
 واستغوى اهلها وياخذ من كل واحد  
 منهم دينارا ويوهمهم انه ياخذهم للامام  
 ثم بعد ذلك مضى الى جميع القرى  
 المجاورة له ثم اخذ له اثني عشر نفسا وامرهم  
 ان يدعوا الناس الى دينه فاشتغل  
 اكثر اهل السواد عن اعمالهم بما افرضه  
 عليهم من الصلوات وكان للهيم في  
 تلك الناحية ضباغ فوقف على نقص  
 اكرته في العارة فعرف به دينهم  
 واهتمامهم الي هذا الرجل فقبض عليه  
 وحبس في بيت وقفله ووضع مفتاحه  
 تحت راسه واشتغل بالشرب وكانت  
 جارية الهيم سمعته يحلف لبقائه  
 ورقت له فلما نام الهيم اخذت المفتاح  
 من تحت راسه وفتحت الباب واخرجته  
 واغلقت الباب كما كان وردت  
 المفتاح الى موضعه فلما اصبح الهيم  
 اخذ المفتاح يفتح الباب فلما بجده  
 وشاع الخبر بذلك فتيقن الناس انه  
 قد رفع ثم ظهر لهم في موضع اخر  
 بعد مدة فسالوه عن قضيتهم فقال

alio in loco appareret, eumque interrogarent, quomodo id factum esset? ille respondit,  
 Fieri

animosus, audax, fortis, & liberalis.  
 Solitus erat dicere, Adspicio ego familiares  
 meos eo oculo quo adspicio fratres meos.  
 & per Deum! si liceret mihi, transferrem  
 nomina eorum à socijs & familiaribus, ad  
 fratres, & amicos. Mortuo autem Muaf-  
 fico successit ei in gubernatione regni. Ah-  
 med Abulabbas Mutadidus Billa, filius  
 ejus, cui & patruus suus Mutadidus di-  
 gnitatis vestem induit, constituens eum  
 socium fœderis sui, deposito ea dignitate  
 filio suo Gjafare. Mutadidus autem hic pa-  
 truo suo plus quoque polluit, uti pater ejus  
 illi polluerat.

Eodem anno cœperunt Caramite, genus  
 quoddam hominum ex Batinis hereticis,  
 quorum initium hujusmodi fuit. Vir qui-  
 dam è tractu Sawadæ simulabat jejunium  
 & vitæ asperitatem: ajebatque Deum  
 Opt. Max. injunxisse ipsi quinquaginta  
 orationes quotidie. atque id de eo divulga-  
 tum fuit. Deinde significavit eis qui ipsi  
 aderant, se vocaturum esse Principem è  
 domesticis. Hinc in pago quodam substitit,  
 ejusque incolas decepit, capiens à singulis  
 aureum unum, eisque persuadens se acci-  
 pere eum Principi. Postea abiit in omnes  
 pagos vicinos, & assumpsit homines duode-  
 cim, quibus præcepit uti populum ad reli-  
 gionem suam vocarent. Cumq; major inco-  
 larum Sawadæ pars orationibus, quas ipsis  
 injuxerat opera sua negligeret, Haidamus,  
 cui in illo tractu agri erant, animadvertit  
 agricolas suos in cultura deficere. & intel-  
 ligens eos homini huic deditos, ejusque stu-  
 diosos esse, eumprehendit, & domui cuida  
 inclusit, eamq; obseravit, & clavem capitè  
 suo supposuit; ac vino se ingurgitarvit.  
 Puella autè Haidami, cum audivisset eum  
 jurantem, fore ut illum occideret, miserta  
 illius est, & cum dormiret Haidamus,  
 clavem sub capite ejus cepit, januam ape-  
 ruit, eumque eduxit, & janua iterum  
 clausa, ut ante, clavem in locum suum re-  
 posuit. Haidamus cum tempus matutinum  
 advenisset, clave sumpta, januam aperuit,  
 atque eum non invenit. quod cum divul-  
 gatum esset, populus certo credidit eum  
 sublatum esse. At cum aliquanto post

Successor

Caramita lege Car-  
 mati seu  
 J. de Renaudot  
 in Hist. Patriarch. Alex.  
 p. 320. Carmatiani

Fieri non potest ut quis mihi noceat. atque ita major etiam ijs est visus. Cum autem sibi metueret, abiit in Syriam, neque scitur quid de eo sit factum. Ajunt autem nomen ejus fuisse Carmatum; atque inde vocatos illos esse Caramitas. Deinde dispersi Caramita creverunt in pagis Cusæ. Cumque ijs præesset Ahmed f. Muhammedis Tabæus, singulis tributum unius aurei imposuit.

Cœpit 3  
Aprilis.

A. C. 892.

Mutamidi  
obitus.

Forma.

Natura.

Anno 279 obiit Mutamidus Alalla, Bagdadi, decimo nono Regjebi, idque ex eo, quod in ripa multum edisset, & bibisset, ut imperaverat 23 annos, & dies tres, ac portatus est Samarram, atque ibi sepultus, annos natus quinquaginta. Quod ad formam ejus attinet. subfuscus fuit, pulchra facie, magno capite, justa statura, proluxa barba, in fronte varorum habens vestigia, & jam multa canicie, tum in capillis, tum in barba. Quod ad naturam. Gluto fuit, amans lusum & hilaritatem, ita voluptatibus deditus & studens, ut subditorum suorum gubernationem, & negotiorum regni sui inspectionem negligeret. unde totum imperium sibi assumpsit frater ejus Muafficus Billa; qui & optimè regnum administravit: ut & filius ejus Mutadidus post illum; sicuti ante exposuimus. neque fuit ipsis gubernantibus Mutamido quidquam præter nudum Chalife titulum. Quin ajunt, cum peteret aliquid id ei recusatum fuisse, eaque de re ipsum hoc carmen dixisse,

An non mirum hoc est, quod mei similis videt quod exiguum est recusari sibi?

Et cujus nomine totus mundus capitur is nihil habeat de eo in manu sua?

Officiales. Consiliarij ejus fuerunt Abdalla f. Chacani, deinde Suleiman f. Wahebi, deinde Hase-nus f. Muchalledi, tribus vicibus, deinde Saïdus f. Muchalledi, tandem Abufacarus f. Ismaelis f. Melici. Iudices, Hase-nus fil. Sahali, f. Abusjavaribi, & deinde Ahmed f. Alis, frater ejus. Ianitores, Muse f. Nuga, & deinde Gjafar f. Nuga Hamisaris. Symbolum sigilli ejus fuit, Felix est qui alterius exemplo eruditur.

Symbolū,

لا ٲكن احد ينالني بشر فعظم في اعينهم وخاف علي نفسه وخرج الي الشام ولم يعرف له خبر وقيل ان اسمه قرمط ولهذا سمو القرامطة ثم فشا القرامطة وكثروا بسواد الكوفة ووقف احمد بن محمد الطائي على امرهم فوصف على كل واحد منهم ديناراً

وفي سنة تسع وسبعين ومائتي كانت وفاة المعتمد على الله وذلك لاحدي عشرة ليلة بقيت من شهر رجب وكان سببه انه شرب على الشط شربا كثيرا ثم كانت مدة خلافته ثلاث وعشرين سنة وثلاثة ايام ببغداد وحمل الي سر مراري ودفن بها وكان عمره خمسين سنة وصغته كان اسمه رقيب السمرة حسن الوجه كبير الهامة تام القامة طويل اللحية بحبته اثر جدري وكان قد كثر الشيب في راسه ولحبهته \* وسيرته كان خلبعا محبا للهو والطرب مقبلا على اللذات واستغل بذلك عن تدبير مراياة والنظر في امر مملكته فغلب علي الامر كله اخوة الموقف بالله وقام بتدبير المملكة احسن قبام وبعده ولده المعتضد وقد ذكرنا ذلك ولم يكن للمعتمد معها الا مجرد اسم الخلافة ويقال انه كان يستدعي النبي فلا يجاب اليه فقال في ذلك شعرا

البس من العجايب ان مثلي يري ما قل متمنا عليه \*

ويؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شي في يديه \*

ومرارة عبد الله بن خاقان ثم سليمان بن وهب ثم الحسن بن مخلد ثلاث دفعات ثم ساعد بن مخلد ثم ابو الصقر بن اسمعيل بن ملبك قضائه الحسن بن سهل بن ابي الشوارب ثم اخوة احمد بن على حجابة موسى بن نوغا ثم جعفر بن نوغا الجبيري نقش خاتمة السعيد من وعظيمة

Chronologus



قال المورخ خلافة انقضت لتمام مايتي ثمان وسبعين سنة وستة اشهر وثمانية عشر يوما للهجرة ولتمام سعة الف وثلثمائة اربع وثمانين سنة وتسعة واربعين يوما شمسية للعالم.

والذي ورد تواريخ النصارى من الحوادث في ايام المعتمد على الله ان باسيل ملك الروم مات في سنة تسع وخمسين ومايتي للهجرة وملك بعده ابنه لاون وكان حكما فيلسوفا \* قال وفي السنة الثامنة من خلافة المعتمد وقبل السابعة وفي سنة ثلاث وستين ومايتي للهجرة قدم الاب ميخايل بطريرك كاهن الاسكندرية للقط البعاقبة في ايام احمد بن طولون اقام بطريركا خمس وعشرين سنة وتنجح في حادي وعشرين امشهر وقبل في العشرين من برمهات وصادرة احمد بن طولون في عشرين الف دينار وابع للصادرة رباغ الكنائس بالاسكندرية وارض الحبش مصر والكنيسة المجاورة للعلقة بقصر الشمع بمدينة مصر لليهود وقرر الديارية على كل نصراني قيراط في السنة وقام بالنصف من المقرر عليه ومات احمد بن طولون قبل ياخذ النصف الاخير \* وفي بطريركيتته قتل حارويه بن احمد بن طولون في سادس وعشرين طوبه سنة ستماية واثني عشر لدا ديانوس ومات البطريرك واقام الكرسي بغير بطرك اربع عشرة سنة.

Chronologus ait Chalifatum ejus finitum esse cum elapsi essent anni Hegire ducenti septuaginta octo, menses 6, & dies 18; anni autem solares mundi sex mille trecenti & octoginta quatuor, ac dies quadraginta novem.

Quod ad ea attinet quae Historia Christianorum narrant accidisse tempore Mutamidi. tradunt Basilium Imper. Rom. obiisse anno Hegire 259, eique successisse filium ejus Leonem, qui sapiens fuit, & philosophus. Anno autem octavo Chalifatus Mutamidi, aut, ut alij volunt, septimo, qui fuit Hegire 263, constitutus est Michael Patriarcha Alexandriae Aegyptijs Iacobitis, tempore Ahmedis f. Tuluni; seditque annos 25, & obiit die vigesimo primo Ansjiri, aut, secundum alios, vigesimo Barmahati. Huic Ahmed f. Tuluni tributum imposuit viginti millium aureorum. ob quod ille vendidit Judaeis quartam templorum Alexandria partem, terram Habasja, in Aegypto, & templum illud vicinum Malaca, in Casrosjama, in urbe Misra: & singulis Christianis tributum annuum Kirati unius imposuit: solvitque dimidium tributi sibi impositi. & Ahmed f. Tuluni vita excessit, antequam partem alteram persolveret. Hoc Patriarchatum tenente, occisus quoque fuit Hamarujas fil. Ahmedis, f. Tuluni, die vigesimo sexto Tuba, anni sexcentissimi duodecimi Diocletiani. Mortuo autem Patriarcha, vacavit sedes annos 14.

Imperatori Romano.

Patriarcha Alexandrinus.

L. mansiones de possessionibus Ecclesiarum vicinas ad easque pertinentes. Renaudot. Hist. Patriar. Alex. p. 327. & 328.

## CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

السادس عشر من الخلفاء العباسيين وهو السابع والثلاثون المعتضد بالله ابو العباس احمد بن الموفق بالله ابي احمد طلحة بن المتوكل

ولد اسماها ضرار بوبع له واما بالخلافة يوم توفي في ٤٤ المعتمد وذلك لاحدى عشرة ليلة عقبته من شهر رجب سنة

Decimus sextus Abbasidarum, & Chalifa trigessimus septimus AHMED ABVLABBAS MVTA-DIDVS BILLA, filius Talhae Abu-ahmedis Muaffici Billa, filij Mutewakkeli.



ATER ejus genitrix nomen habuit Daraca. Creatus fuit Chalifa eo die quo obiit Patrus ejus Mutamidus, die scilicet decimo nono Regjebi, anno Hegire 279.

& *Consiliarium assumpsit Abdallam f. Sulaimanis, f. Wahebi.*

*Mutadidus ducit filiam Hamaruja.* Eodem anno duxit Mutadidus Catrannadam filiam Hamaruja, filij Ahmedis, f. Tuluni, Praefecti Aegypti. quo sequens pertinet historia. Hamadanus quidam f. Hamduni, f. Hariti Adawei, Talabaus, Princeps erat à Principibus Arabum, in Diarrebis, & locis vicinis, filiosque habebat Huseinum, Abdallam, & Davidem; ex quibus Huseinus f. Hamadani hoc anno dedit se in ministerium Mutadidi Billa, qui copiarum aliquot ducem eum constituit.

*Historia Hamadani.* atque ita ministerio ejus vacavit. Hamadanus autem pater ejus in manu sua habebat arcem Maradina, cumque animus Mutadidi ab eo abalienatus esset, egressus est Bagdado Mausilum, & cepit Maradinam. Ille autem cum intellexisset intentionem Mutadidi contra ipsum, filium suum reliquerat Maradina, & fugerat in locum cui nomen Huseinia, quae arx erat magna, ac munita; & in qua vir erat nomine Sjadadus, cum decem militum millibus. Mutadidus autem Maradinam, castris ad eam positus, diem unum obsedit. Deinde ipse, portam arcis adiens, clamavit, O filij Hamadani. is autem ei respondit. & ille dixit, Aperi portam. cumque eam aperuisset Mutadidus in ea sedit, & iussit supellectilem omnem atque opes, quae in ea erant alio transferri, & deinde arcem dirui. Hinc misit quosdam petitem Hamadanum, ex Huseinia: qui arcem quoque illam destruxerunt, & captum Hamadanum ad Mutadidum adduxerunt. Mortuo autem Mutadido, & filio ejus Muctafi ad imperium evecto, in ministerium ejus se dedit Abdalla Abulhigja f. Hamadani, qui Seifudaulam genuit, idque anno 280: & is ducem copiarum aliquot eum constituit. Nos autem res eorum gestas omnes suis locis, volente Deo, explicabimus.

*Cœpit 2 Martij. A.C. 895.* Anno 282 venit Catrannada filia Hamaruja filij Ahmedis f. Tuluni Bagdadum, introducete eam Mutadido Billa, die vigesimo quarto Rabij posterioris.

*Hamarujas Rex Aegypti occiditur.* Eodem anno occisus fuit Hamarujas jam nominatus, mactante eum quodam familiarium ejus, in lecto ejus, die tertio Dulhiggia.

تسع وسبعين ومائتي للهجرة واستولى  
عبد الله بن سليمان بن وهب  
وفي هذه السنة تزوج المعتضد قطر  
الندا ابنة حماروية ابن احمد بن طولون  
صاحب مصر وكان من حديث  
ذلك ان حمدان وهو ابن حمدون بن  
الحارث العدوي العلبي وكان اميرا  
من امراء العرب بديار ببيعة وما والاها  
وكان له اولاد وهم الحسين وعبد الله  
وداود فوصل الحسين بن حمدان في  
هذه السنة الى خدمة المعتضد بالله  
فجعل له امير العساكر واستمر في خدمته  
وكان حمدون ابوة بيده قلعة ماردين  
فاستوحش منه المعتضد فخرج من  
بغداد الى الموصل فاخذ ماردين فلما  
علم حمدان مقصد المعتضد له ترك ولده  
ماردين وهرب الى مكان يقال  
له الحسينية وهي قلعة عظيمة حصينة  
وبالقلعة رجل يقال له شداد في عشرة  
الف رجل فنزل المعتضد بالله ماردين  
وحاصرها يوما واحدا ثم اتي الى باب  
القلعة بنفسه وصاح يا ابن حمدان فاجابه  
فقال افتح الباب ففتحه فقع المعتضد في  
الباب وامر بنقل ما في القلعة من اثاث  
واموال ثم امر فهدمت القلعة ثم بعث  
في طلب حمدان من الحسينية جماعة  
فهدموا القلعة وظفروا بحمدان فاتوا به  
الى المعتضد ولما توفي المعتضد وولي ولده  
المكتفي اتصل بخدمته ابن الهيجة عبد  
الله بن حمدان وهو ولد سيف الدولة  
وذلك في سنة ثمانين ومائتي للهجرة  
وجعله راس العساكر وسنذكر  
جميع امورهم في مواضعه ان شاء  
الله تعالى

وفي سنة اثننتين وثمانين ومائتي  
وصلت قطر النداء ابنة حماروية بن احمد  
بن طولون الى بغداد ودخل بها المعتضد  
بالله لخمس بقين من شهر ربيع الآخر  
وفي هذه السنة كانت مقتل حماروية  
المذكور وذلك انه وثب به بعض  
خواصه فدبحه في فراشه في ثلث خلون



من ذي الحجة فاقعد الجند بعده ولده  
حبش بن حماروية فوثب عليه جماعة من  
الجند وقالوا لا نرضي الا ببعك فقتل  
وهرمي راسه اليهم

وفي سنة ثلث وثمانين ومايتي وثب  
الجند على حبش بن حماروية فقتلوه  
فقتلوا امه وانتهبوا دارة واخر بوها وقام  
بالامرة مصر والشام بعده اخوه هرون  
بن حماروية والنزم ان يحمل اليه امير  
المومنين المعتضد بالله من مصر في  
كل سنة الف الف دينار

وفي سنة ست وثمانين ومايتي نزل  
المعتضد بالله علي امد فحاصرها وفيها  
احمد بن محمد بن شبح فاغلقوا ابوابها  
ومارعا وصبوا عليها المانجنيق مدة  
وطالب احمد الامان منه فامنه وخلع  
عليه وتسلمها المعتضد بالله

قال وفي هذه السنة كتب هرون  
بن حماروية امير مصر والشام الي  
المعتضد بان يتسلم اعمال قنسرين  
والعواصم وان يحمل اليه في كل سنة اربعمائة  
الف دينار وخمسين الف دينار ويسال  
تجديد الولاية علي مصر والشام فاجابه  
المعتضد الي ذلك وبعث اليه العهد والخلع  
وتسلم بولاية الخليفة قنسرين والعواصم

قال وفي هذه السنة ظهر رجل من  
القرامطة يقال له ابن سعيد الحماني واجتمع  
اليه خلق كثير واشتدت شوكته

ونازل هجر وفي مدينته البحر ومنزل  
سلطانها فلما لم يقدر عليها نزل بالاحسا  
وبينهما ميلان ثم اقطع اراضي هجر والاحسا  
وحاصر اهل هجر حصارا شديدا عشرين  
شهرا حتي اكلوا الكلاب المبتة ثم فتحها  
وقتل من فيها واخذ ما بها من الاموال

وفي سنة سبع وثمانين ومايتي للهجرة  
جهز المعتضد بالله العباس بن عمر لقتال  
القرمطي فالتقاء فاسرة القرمطي وحق  
من سبعماية رجل من اصحابه وقتل جماعة  
وهرب ولم يفلت منهم الا القليل

cui cum occurrisset, cepit eum Caramita, & circiter septingentos ex militibus ejus:  
multos autem occidit, & multi in fugam se dederunt, neque evaserunt ex ijs nisi pauci.

& in locum ejus collocarunt milites filium  
ejus Gjeifum f. Hamaruja. sed adorfi eum  
milites quidam dixerunt, Non volumus  
quemquam, nisi patrum tuum: unde ille  
patrum suum occidit, & caput ejus ad il-  
los projecit.

Anno 283 irruentes milites in Gjei-  
sum f. Hamaruja cum interfecerunt, &  
occiderunt quoque matrem ejus, atque di-  
ripuerunt, & destruxerunt domum ejus:  
factusque Imperator Aegypti & Syriae est  
post fratrem suum, Haron fil. Hamarujæ:  
qui pollicitus est quotannis ex Aegypto se-  
laturum Imperatori fidelium Mutadido  
mille & quingenta aureorum millia.

Anno 286 castris positis ad Amidam eam  
obsedit Mutadidus, eratque in ea Ahmed f.  
Muhammedis f. Sjeihi, qui, clausis portis, se-  
munivit. Sed applicatis ad eam aliquam-  
diu catapultis, petijt Ahmed ab eo securita-  
tem, quam ei concessit, vestem quoq; ei in-  
duens, atque ita Mutadidus urbem recepit.

Eodem anno scripsit Haron f. Hamarujæ  
Imperator Aegypti & Syriae ad Mutadi-  
dum, ut sibi traderentur Praefectura Kinna-  
srina & Awasima. id si fieret, se quotan-  
nis ei laturum quadringenta & quinquaginta  
aureorum millia. Petijt quoque, ut  
sibi renovaretur Praefectura Aegypti, ac  
Syriae. & morem ei gessit Mutadidus, mi-  
sitque ei pactum, & dignitatis vestem.  
atque ita Praefecturam, nomine Chalife,  
accepit Kinnafrina, & Awasima.

Eodem quoque anno prodijt Caramita  
quidam vocatus Abusaidus Hamaneus;  
cujus vires, multis ad eum congregatis, cum  
crevissent, obsedit Hagjaram, quod opidum  
est ad mare situm, & sedes domini ejus.  
Cum autem ei non prevaleret, obsedit Ah-  
sam distantem ab Hagjara duobus millia-  
ribus. hinc depopulatus est terras Hagja-  
rae, & Ahse; & arctissima obsidione cinxit  
ciues Hagjara, viginti menses, ita ut come-  
derent canes mortuos. Tandem eam cepit,  
ciuesque occidit, & quacunque in ea erant  
opes rapuit.

Anno 287 misit Mutadidus Billa Ab-  
basem f. Omaris oppugnatum Caramitam:  
cui cum occurrisset, cepit eum Caramita, & circiter septingentos ex militibus ejus:  
multos autem occidit, & multi in fugam se dederunt, neque evaserunt ex ijs nisi pauci.

Anno

Succedit  
Gjeifus.

Cœpit 19  
Februarij.  
A. C. 898.

Gjeifus  
occiditur  
quoque, &  
succedit  
Haron.

Cœpit 17  
Januarij.  
A. C. 899.  
Amida ca-  
pitur.

Haron  
Rex Ae-  
gypti emiz  
Praefectu-  
ras Kinna-  
srina & A-  
wasima.

Abusaidus  
Caramita.

obsidet &  
capit Hi-  
gjaram.

Cœpit 7  
Januarij.  
A. C. 900.

Mutadidi  
obitus.

Anno 289 vita defunctus est Mutadidus Billa Imperator fidelium, Bagdadi, die Luna, vigesimo secundo Rabij posterioris. Ajunt autem eum ex immoderata Venere obijisse. sunt tamen qui dicunt Ismaëlem f. Melici miscuisse ei venenum. Oravit pro eo Abuomar Iudex. Imperavit annos novem, menses 9, & dies quatuor, annos natus 46. Quod ad formam ejus attinet. macilento fuit corpore, fuscus, justa statura, jam incipiens canescere, raris mystacibus, barba anteriori parte longa, & tingebat se nigredine. Quod ad naturam. solers fuit atque ingeniosus, boni regiminis, boni & subtilis consilij, negotijs obortis, celeris, atque alacer: quin & singularis in rebus suis experientia atque ingenio. Ajunt in filijs Abbasi, post Almanforem, neminem ei similem exstitisse bonitate administrationis regni, & cura ejus. Exoneravit populum censu; & sustulit tributum quod sumebatur Meccæ & Medina. Cumque aliquando, ut ajunt, ad instructionem exercitus pecunia indigeret, arario eum deficiente, & significatum ei esset, Bagdadi Magum quendam esse valde opulentum, accersi eum jussit, pecuniam ab eo mutuaturus. At cum ille respondisset, Pecunia mea coram te est, cape de ea quantum velis, dixit Mutadidus, Quomodo confidis fore, ut ego eam tibi restituam? Ille autem respondit, Cum Deus Opt. Max. ô fidelium Imperator, concedat tibi servos suos, & terras suas, tuque fidelem te præstes & justitiam administres, egone tibi concedere timeam pecuniam meam? Ad hæc Mutadidus lacrymantibus oculis, Abi, inquit, nihil, (per Deum!) a te mutuabor, quin si quando te contingat indigentē esse, ea quæ nos habemus, tua erunt. Ajunt autem effusorem sanguinis eum fuisse, & ob leve delictum occidisse, & quotiescunque alicui è servis suis iratus erat, fodisse fossam, eumque, depresso capite, in eam demisisse, & terrâ superinjecta fossam implevisse. Consiliarius ejus fuit Abusacarus f. Ismaëlis, f. Melici: at hunc deinde apprehendit, & Consiliarium constituit Abdallam f. Suleimanis, f. Wahebi. deinde Ahmedem Abulabbasem f. Muhammedis. post Abuharimum Abdulhamidum, f. Abdulaçizi Selwai. tandem Iosephum f. Iacobi.

Forma.

Natura.

Officiales.

وفي سنة تسع وثمانين ومايتي توفي امير المؤمنين المعتضد بالله ببغداد وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من ربيع الآخر وقبل انه مات من كثرة الجاع وقبل ان اسمعيل بن ملبك سقاء سما وصلي عليه ابو عمر القاضي وكانت مدة خلافته تسع سنين وتسعة اشهر واربعة ايام وكان عمره ست واربعين سنة \* صفته نحيف الجسم اسمر معتدل القامة قد وخطه الشببي خفيف العارضين في مقدم لحيته طول يخضب بالسواد \* سيرته ذكيا فطنا حسن السياسة جيد الرأي ثاقب الرأي سريع النهضة عند الحوادث منفردا بالامور بتجربة وحيلة فيقال انه لم يكن في بني العباس مثله بعد منصور في حسن الاصطناع بتدبير المملكة والقيام بها ووضع عن الناس البقايا واسقط الماكوس التي كانت تؤخذ بالحرمين \* وقبل احتاج المعتضد في تجهيز جيش الي مال عجز عنه بيت المال فاخبر ان في بغداد مجوسا له مال عظيم فاحضره ليقترض منه مالا فقال له مالي بين يديك فخذ منه مهمما اردت فقال له المعتضد كيف وثقت ان ارد عليك فقال له يا امير المؤمنين الله تعالي امنك على عباده وبلادهم فتودي الامانة وتحكم بالحق فاخافك علي مالي قال قدمعت عينا المعتضد قال ادصرف والله لا نقرض منك شي ومتي كان لك حاجة فحاجنا مرفوع لك \* وقيل كان سفاكا للدماء والقتل علي الذنب اليسير وكان اذا غضب علي احد من غلمانه حفر له حفرة ودلاه علي راسه فيها وضم بالتراب عليه \* وزيارته ابو الصقر بن اسمعيل بن ملبك ثم قبض عليه واستنصر عبد الله بن سليمان بن وهب ثم ابو العباس احمد بن محمد ثم ابو حارم عبد الحميد بن عبد العزيز السلوي ثم يوسف بن يعقوب \*



حاجبه صالح \* بنقش خاتمه الاضطراب يربل  
الاختيار \* قال المورخ ان مدة خلافته  
تسع سنين وثمانية اشهر وتسعة وعشرين  
يوما اولها يوم الثلاثاء واخرها يوم الاثنين  
لثمة مائتين ثمان وثمانين سنة وثلاثة  
اشهر وثلاثة وعشرين يوما للهجرة ولتمام  
سنة الف ثلثاياه ثلث وتسعين سنة  
وسبعة اشهر وعشرة ايام شمسية للعالم  
والذي ورد تواريخ النصارى ان  
زوجة لاون ملك الروم توفت في سنة  
احدي وثمانين ومايتي للهجرة فاراد  
الترويج بغيرها فبعضه نيقولاوس بطريرك  
القسطنطينية وقال له انك شماس ان  
تزوجت لا تعد تدخل الهيكل وقال  
لاون اما اردت الترويج لبيكون لي  
ولد يرث الملك بعدي فلم يكنه  
وكتب الي البطاركة بجمع ممالك  
النصارى يعلمهم بذلك فورد الجواب  
بان يتزوج فتزوج ووزق ولدا وسماه  
قسطنطين ونفي نيقولاوس بطريرك  
القسطنطينية وصبر عوضه بطريركا  
قال وفي سنة اثنتي وثمانين ومايتي  
خرج جمارويه بن احمد بن طولون من  
مصر الي الشام فاقام بدمشق وبنى له  
قصرا تحت دير مسران على نهر لوزا  
وقبه قتل والذي تولى قتله ستة خدم  
وهم طاهر سابور لولى تطبق شغبع الراي  
الداوادي وقتلت الخدم الستة وجمعت  
مروسم الي مصر وصلبت اجسادهم  
بدمشق وجمعت جمارويه الي مصر ودفن  
في الجبل المقطم  
قال وفي سنة اربع وثمانين ومايتي  
لبلة الخميس ثامن وعشرين ربيع الاول  
حدث بمصر ريح شديدة صعبة هدمت  
المنازل وطرحت علي الناس مرملا احمر  
وكان يري في السماء اربعة اعمدة نار  
فلم يزل هذا الي الصباح ثم انكسرت  
الريح وصار الجن والارض والاشجار  
وكما يري احمر ثم صار اصغر الي  
نصف النهار ثم صار اسود الي نصف  
النهار الثاني ثم انحلت السواد

*Ianitor ejus fuit Salibus. Symbolum sigilli* Symbolus  
*ejus, Necessitas aufert arbitrium. Chrono-* Imperium  
*nologus ait eum imperasse annos 9, menses*  
*8, & dies 29; quorum initium dies fuit*  
*Martis, & finis, Luna: elapsis annis He-*  
*gira 288, mensibus tribus, & diebus 23.*  
*annis autem solaribus mundi 6393, mensi-*  
*bis septem, & diebus decem.*

*Tradunt Christianorum historia, uxorem* Res Chri-  
*Leonis Imperatoris Romanorum obijisse* tianorum.  
*anno Hegira 281, cumque aliam ducere*  
*vellet, Nicolaum Patriarcham Constanti-*  
*nopolitanum eum impediuisse, atque dixisse,*  
*Tu ministerium habes sacrum, itaque, si*  
*uxorem duxeris, ne revertere ut ingre-*  
*diaris templum. Respondit Leo, Vtique*  
*ego solum cupio uxorem ducere, ut sit mihi*  
*filius qui haeres fiat regni, post me. Verum*  
*cum ille id non permetteret, scripsit Impe-*  
*rator ad Patriarchas, in omnibus Christia-*  
*norum regnis, & rem ijs significavit; ac*  
*responsum accepit, ut uxorem duceret: quod*  
*cum fecisset, filium nactus est, quem vo-*  
*cavit Constantinum. Nicolaum autem Pa-*  
*triararcham Constantinopolitanum in exi-*  
*lium misit, & in locum ejus alium substituit.*

*Anno 282 abijt Hamarujas f. Ahme-* Hamarujas  
*dis, f. Tuluni, ex Aegypto in Syriam, sub-* Regis Ae-  
*stititque Damasci, ac adificavit sibi aulam* gypti ex-  
*infra Monasterium Mesrani, ad fluvium* decs.  
*Luzæ: atque in ea est interfectus. Occide-*  
*runt autem eum sex famuli, Taberus scil.*  
*Saburus, Luluus, Natifus, Sjafurras &*  
*Aldavadis, quorum omnium, cum morte*  
*multati essent, capita in Aegyptum missa*  
*sunt, trunci Damasci crucifixi. Hamarujas*  
*autem portatus fuit in Aegyptum, & se-*  
*pultus in monte Mucattamo.*

*Anno 284 die Iovis, vigesimo octavo* Tempe-  
*Rabij prioris, magnus & vehemens in Ae-* stas in Ae-  
*gypto ortus est ventus, adificia diruens, &* gypto.  
*in homines jaciens arenam rubram, appa-*  
*rentibus in celo columnis igneis. duravit-*  
*que hoc ad tempus usque matutinum, quo*  
*sedatus est ventus, sed facta sunt aer,*  
*terra, arbores, & quacunquē videbantur,*  
*rubra, & deinde flava, ad meridiem us-*  
*que, hinc nigra, ad meridiem sequentis*  
*diei, quo cessavit nigredo.*

Anno

Terra motus,

Anno 286 ortus est in Aegypto terra motus, die Mercurij, septimo Dulkiadae, inde à media nocte, ad auroram usque, & vehementer concussa sunt stella illa, quae vocantur flammae, & mota in ortum, occidentem, septentrionem, atque meridiem, ita ut non potuerit quisquam calum intueri.

وَمَا يَلِيكَ ان ينظر إلى السماء لاجل ذلك

قال وفي سنة ست وثمانين ومايحي حدث في مصر رحفة يوم الاربعاء لسبع خلون من ذي القعدة من نصف الليل الي الصباح واضطربت الكواكب التي يقال لها الشهب اضطرابا شديدا وكانت الشهب تنقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولم يكن لاحد طاقة



## CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

**Decimus septimus** Abbafidarum & Chalifa trigessimus octavus, Alis ABV-MVHAMMED MVCTAFIS BILLA, filius Mutadidi, f. Muaffici, f. Mute-wakkeli.

السابع عشر من الخلفا العباسيين وهو الثامن والثلاثون المكتفي بالله ابو محمد عيل بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل \*



**M**ATER ejus genitrix dicta fuit Chadia, aut, secundum alios, Hibaca. Creatus fuit Chalifa eo die quo obiit pater ejus, 22 Rabij posterioris, anno 289; quo tempore cum ipse esset Rakæ, Consiliarius ejus Casamus fil. Abdalla, f. Suleimanis, f. Wahabi, inaugurationem ejus procuravit Bagdadi; scripsitque ad eum, ut adveniret. cumque venisset Bagdadum, in Gjumada priori, renovata ei fuit inauguratio, & stabilitum imperium. Caterum Casamus ille filius Abdalla, Consiliarius, vivo adhuc Mutadido, statuerat Chalifatum avertere à filijs Mutadidi. quod cum Badirus Mutadidæus sciret, metuit Casamus ne id rescisceret Muctafis, eumque occideret. itaque hoc egit, ut periret Badirus; qui in Gjebela agebat, & inimicitiam posuit inter eum & Muctafism, quem & hortatus est, ut milites illius contra ipsum corrumpere. Vnde misit Muctafis plurimum pecuniæ, idque inter eos distribuit. Cum autem ex militibus Baderi multi eum desererent, contendit Wasitum. sed profectus est contra eum Muctafis, cum magno exercitu, eum oppugnatum. & misit Casamus Haramum Iudicem ad Badirum, cum libello securitatis, à Muctafis: cui confidens Badirus,

ام ولد يقال لها خاضع وامه وقيل حمكك بويغ له بالخلافة يوم توفي والده لسبع بقين من ربيع الاخر سنة تسع وثمانين ومايحي وهو يومئذ بالركة فاخذ له وزيره القسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب البيعة ببغداد وبعث الي المكتفي كتابا بالتهنئة فقدم المكتفي ببغداد في جمادى الاولى وحدث له البيعة واستوثق له الامر وكان القسم بن عبد الله الوزير في حياة المعتضد قد عزم عيل على صرف الخلافة من ولد المعتضد وكان بدير المعتضدي عالما بذلك فحاف القسم منه ان يطلع المكتفي عيل ذلك فيقتله فعمل القسم في هلاك بدير وكان مقيا في الجبل فسعي له في الوحشة بينه وبين المكتفي وحمله علي ان يفسد اصحاب بدير عليه فبعث اليهم المكتفي مالا كثيرا ففرق فيهم فقارق بدير منهم جماعة وتوجه بدير الي واسط وخرج المكتفي الي محاربته بعسكر سهر ديال وبعث القسم الحارم القاضي الي بدير بكتاب امان من المكتفي واطمان بدير

Casami strategema contra Badirum,



وامر عثمان بن عفان بنزع السلاح وتوجه هاربا  
الى بغداد فبعث القسمة من قتل بدير  
واناه براسه وعاد المكتفي

قال وفي هذه السنة ظهر رجل من  
القرامطة يقال له يحيى بن زكريا  
بن مهران فانضمت اليه جماعة كبيرة  
فقصدته شكر الديلمي وولي المكتفي  
يناحية الرصافة فقتله واحرق مسجد  
الرصافة وصار هو واصحابه الى الشام  
والبها طلع بن حنف من قبل هرون  
بن حمارويه بن احمد بن طولون فجهز  
اليه طلع جبوشا فزعمهم في وقعات  
متعددة ثم حاصر دمشق فبعث هرون  
الي طلع مددا الي بدير الكبير مولا بن  
طولون فاجمع هو وطلع على محاربة  
القرمطي فقاتلوه قريبا من دمشق  
فقتل يحيى القرمطي فولت القرامطة  
امبرهم اخاه الحسين بن زكريا وعمره  
اثنان وعشرين سنة وزعم انه احمد بن  
محمد بن اسمعيل بن جعفر الصادق  
واظهر شامة في وجهه زعم انها تشبه  
شامة ابيه وجاء الي حمص وحاصرها  
وفتحها ثم مضى الي دمشق فصالح  
اهلها على مال حملوه اليه ثم عاد الي  
حمص ثم الي حماة والمعرة وقتل من اهل  
البلاد ما لا يحصى كثرة ثم عاد الي  
بعلبك فقتل اكثر اهلها ثم سار الي  
ساجة فحاربه اهلها وامانعة ثم صالحوه  
فاعطاهم الامان ففتحوا له ابوابها فدخلها  
وقتل جميع من بها حتي صبيان والبهائم  
وخرج بها عين بطرق ثم سار الي  
القرى فقتل وسمي واحرق واخرب الشام  
جمعة

وفي سنة تسعين ومايتي جهز  
المكتفي بالله الاعر لحرب القرمطي  
وكان الاعر واصحابه قد نزلوا سبردون  
من الحسر ونزعوا ثيابهم فادركوا  
المطوق قايد جيش القرمطي في عشرة  
الف فقتل منهم خلقا كثيرا وافلت  
الاعر في نجر يسير من اصحابه الي حلب  
tanicum Ducem exercitus Caramita, cum decem millibus: sed hic plerosque eorum  
occidit, evasitque Alazus, cum paucis de militibus suis, seque recepit Halebum.

jusit milites suos arma deponere, & pro-  
fectus est Bagdadum. sed misit Casamus  
quendam, qui eum occidit, & caput ejus  
illi attulit. ac reversus est Mu'tafis.

Atque hoc anno prodijt Caramita qui-  
dam, nomine Iahja, f. Zacruna, f. Mabru-  
na, cui magna se multitudo adjunxit.  
Et profectus contra eum est Sjecrus Daila-  
mus Praefectus Mu'tafis, in tractu Rufase.  
sed occidit eum Iahja, & incendit tem-  
plum Rufase; atque abiit, cum militibus  
suis in Syriam, cui, nomine Haronis f. Ha-  
maruja, f. Ahmedis, f. Tuluni, praerat Taa-  
gjus f. Hanafi, qui copias aliquot contra  
eum misit, quas ille multis prelijs in fugam  
vertit. Deinde autem obsedit Damascum.  
Misitque Haron ad Taagjum subsidio  
Bederum majorem, servum filij Tuluni,  
qui, cum simul decrevissent bello adoriri  
Caramitam, eum oppugnarunt, prope Da-  
mascum, ubi occisus fuit Iahja Caramita.  
At Imperatorem suum designarunt Cara-  
mita fratrem ejus Huseinum fil. Zacruna,  
annos natum viginti duos, qui Ahmedem  
se dicebat esse fil Muhammedis, f. Ismaelis,  
f. Gjafaris Iusti, ostendens & maculam in  
facie sua, quam ajebat referre maculam  
patris sui. adijtque Emissam eamque  
obsedit, & cepit. Deinde abiit Damascum,  
cujus cives, pecunia ad eum allata, pa-  
cem ab eo redemerunt. hinc reversus est  
Emissam. Postea abiit Hamatam, & Ma-  
arram, ac innumeros incolas occidit.  
Deinde reversus est Balabecum, & majo-  
rem civium ejus partem interfecit. hinc  
adijt Selmiam, cujus incolae bellum pri-  
mum ei moverunt, eique restiterunt, sed  
deinde pacem cum eo fecerunt, deditque  
ijs libellum securitatis; unde portas urbis  
ei aperuerunt. at ingressus omnes qui  
in ea erant interfecit, etiam pueros, &  
bestias. Hinc pagos adijt, multosque occidit,  
& captivos avexit, totamque Syriam in-  
cendit atque vastavit.

Anno 290 misit Mu'tafis Billa Alazum  
bellum illatum Caramita. Cumque Alazus  
Sirdunum descendisset, cum militibus suis,  
vestes suas exuerunt, & assequuti sunt Mu-  
tanicum Ducem exercitus Caramita, cum decem millibus: sed hic plerosque eorum  
occidit, evasitque Alazus, cum paucis de militibus suis, seque recepit Halebum.

Iahja Ca-  
ramita.

Ejus victo-  
ria,

& inter-  
tus,

Huseinus  
Caramita,

Ejus victo-  
ria,

Et perfu-  
dia,

Cœpit &  
Decemb.  
A.C. 902.

Huseinus  
Alazum in  
fugam ver-  
tit.

Et Mutawicus quoque Halebum petijt: sed restitit ei Alazus, cum ijs quos reliquos habebat militibus, et civibus urbis, ita ut eum repellerent. Cum autem Muṭafis hæc intellexisset, Rakam abiit, et complures exercitus misit contra Caramitam, exercitum post exercitum.

Cœpit 24  
Novemb.  
A. C. 903.  
Caramita  
vincuntur.

Anno 291 prælium commissum est à militibus Muṭafis et Caramita, quo in fugam versi sunt Caramita, et multi eorum capti, qui portati Bagdadum manibus primum et pedibus, deinde capite truncati sunt.

Cœpit 13  
Novemb.  
A. C. 904.  
Haronis  
Regis Aegypti  
ces.

Anno 292 occisus fuit Haron fil. Hamaruja, filij Ahmedis, f. Tuluni, Dominus Aegypti, die undecimo Safari: eique successit Senanus f. Ahmedis, f. Tuluni.

Muṭafis  
Aegyptum  
capit.

Eodem anno misit Muṭafis Muhammedem f. Suleimanis, Scribam, cum numerosissimo exercitu, in Aegyptum; isque eam subegit, et nactus est opes filiorum Tuluni, ipsosque cepit, et omnia misit ad Muṭafim, mense Safaro hujus anni.

Cœpit 2  
Novemb.  
A. C. 905.

Muhammed f. Alis  
debellatur.

Anno 293 misit Muṭafis Fanicum Mutadideum et Badirum Hamameum in Aegyptum, oppugnatum Muhammedem f. Alis Halibum (qui Aegyptum occupaverat, multosque seduxerat, et prodierat contra Imperatorem, jamque multos collegerat milites) et aliquot commissis prælijs, plurimi de Halibi militibus ceciderunt, Fustata; ipseque victus fuit, et cum aliquot ducibus suis portatus ad Muṭafim, qui compedibus eos constrinxit, et in carcerem conjecit. Aegypti autem gubernationi præfecit Isam fil. Muhammedis Bosiræum.

Zacrunas.  
Caramita,  
ejusque vic  
toriz.

Eodem anno prodijt Zacrunas f. Muhruna Caramita pater Disiase, multisque ad eum cõgregatis Arabibus, contendit cum ijs Basram, et Adriatam, earumque cives interfecit, et opes eorum rapuit. Hinc Damascum abiit, cui nomine Muṭafis præerat Keigalagus; sed hic ab urbe aberat, bellum gerens in Aegypto, cum Halibo (cujus ante facta est mentio) et Vicarium suum in ea constituerat Salihum f. Fadli, quem occiderunt Caramita. at hos in fugam verterrunt milites qui in urbe erant, ita ut capere eam nequiverint, ob multitudinem populi.

ثم رحف المطوق إلى حلب فحاربته الأعراب من بقي معه وباهل البلد حتى بردوه وبلغ المكتفي ذلك فخرج إلى الرقة وسرح الجيوش لقتال القرمطي جيشا بعد جيش.

وفي سنة احدى وتسعين ومايبي كان وقعة بين اصحاب المكتفي والقرمطي فانهم اصحاب القرمطي واسر منهم جماعة كبيرة فحملوا إلى بغداد وقطعت ايديهم وارجلهم ثم ضربت اعناقهم.

قال وفي سنة اثنتين وتسعين ومايبي قتل هرون بن حماروية بن احمد بن طولون صاحب مصر لاحدي عشرة ليلة خلت من صفر فقام بالامر بعده سنان بن احمد بن طولون.

وفي هذه السنة سبر المكتفي مجددا من سليمان الكاتب في جيش كثيف إلى مصر ففتحها واحتوي على اموال بني طولون واسباهم وبعث بذلك إلى المكتفي في صفر في هذه السنة.

قال وفي سنة ثلث وتسعين ومايبي سبر المكتفي فانك المعتضدي وبدير الحامي إلى مصر لمحاربة محمد بن علي لحاميج الذي قد تغلب على مصر واستغوي جماعة وخرج علي السلطان فكثرت جمعة فكان بينهم حروب قتل فيها خلق كثير من اصحاب الخليج بالقسطاط وظفرية وحمل معه إلى المكتفي فقيدهم وحبسهم وولي المكتفي مرة مصر عيسى بن محمد البوسري.

وفي هذه السنة ظهر حركونه بن مهرونه القرمطي والد ذي السياسة فانضمت اليه جماعة من العرب وسار بهم إلى بصرى وادمرعات فقتل اهلها واستغفي اموالهم وسار علي دمشق وعاملها كبغلع من قبل المكتفي الا انه كان غايبا عنها فصر لمحاربة الخليج المقدم ذكره وكان فايبا عنه بها صالح بن الفضل فقتلت القرامطة صالح وهرموة الجند بدمشق ولم يتركهم اخذها لكثرة اهلها

Vnde



فقد نركونه واصحابه طبرية فلقبهم  
يوسف بن ابرهم عامل الاردن فجهز  
لهم المكتفي جيشا من العراق وجيشا  
من الشام فهممهم وادخلهم البرية  
وتبعوهم الى موضع يعرف بالصوان  
فقاتلوهم فانهم اصحاب المكتفي اجمع  
هزمت واستباح القرامطة عسكرهم  
وقتلوا منهم عددا كبيرا ٥

قال وفي سنة اربع وتسعين وماي  
اعرض نركونه الحاج قتل الرجال  
واسر النساء واستباح كلما كان في  
القافلة \* وانقض المكتفي بالله  
جماعة من القواد لحرب القرامطة فكان  
الظفر لاصحاب المكتفي واستاسروا  
نركونه وجماعة من اهل بيته واحتوا  
علي جميع ما في عسكره وبعد خمسة  
ايام مات نركونه لان الذي  
استاسره ضربه علي دماغه فات من  
ذلك ورمي ما في باطنه وحمل الى  
بغداد فادخل وعلي راسه الريش وامراته  
بين يديه ويومئذ والاسري معها ثم قتلوا  
عن اجرهم ٥

قال وفي سنة خمس وتسعين وماي  
توفي امير المؤمنين المكتفي بالله  
ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي  
القعدة فكانت مدة خلافته ست  
سنين وستة اشهر وعشرين يوما وكان  
عمره احدى وثلاثين سنة وشهورا \*  
صغته كان قصيرا احسن الوجه رقيق  
السمرة اعين واقر اللحية \* سهرته حسن  
العقبة كارها لسفك الدماء  
فكانت امواله جمعة وعساكرة كثيرة  
اليه وسلك طريق ابيه \* وكان المكتفي  
مايلا الي ولد علي بن ابي طالب رضي  
الله عنه \* وزيرة القنم بن عبد الله بن  
سليمان بن واهب ثم توفي فوثر له  
العباس بن الحسن بن لوب \* قضائه  
ابن حارم يوسف بن يعقوب ثم ابن عمر  
ثم علي بن ابي الشوارب حاجبه حبيب  
السمر قندي نقش خاتمه بالله علي بن  
احمد ينف ٥

Vnde Zacrunas cum suis contendit Tyberiam, ubi occurrit eis Iosephus f. Ibrabimi, cui Muçtafis misit legionem unam ex Iraca, & alteram ex Syria, qua in fugam eos verterunt, atque adegerunt in desertum, ad locum qui appellabatur Sawanum, ubi, pugna commissa, turpissima se fuga mandarunt milites Muçtafis, & Caramite castris eorum potiti sunt, magnumque eorum numerum occiderunt.

Anno 294 adorsus Zacrunas agmen peregrinantium viros occidit, mulieres captivas abduxit, & quidquid in agmine erat rapuit. Hortatus autem cum esset Muçtafis Billa duces aliquot ad oppugnationem Caramitarum, victoria militibus ejus cessit, ceperuntque Zacrunam, & multos ex domesticis ejus, ac rebus omnibus, qua in castris ejus erant, potiti sunt. Post quinque autem dies mortuus est Zacrunas, qui enim eum ceperat, ictu cerebrum ejus laeserat, atque ex eo vulnere obiit. Intestinis autem ejus exemptis, portatus est Bagdadum. cumque in urbem inferretur, capiti ejus imposita erant pluma, atque uxor ejus ante eum incedebat. & comitabantur eos captivi, qui deinde interfecti sunt, uti meruerant.

Anno 295 vita excessit Imperator fidelium Muçtafis Billa, Bagdadi, die decimo tertio Dulkiade, ut imperaverat annos sex, menses sex, & viginti dies, annos natus 31, & aliquot menses. Quod ad formam ejus attinet, brevis statura fuit, pulchra facie, subtili rubedine, magnis oculis, & proluxa barba. Quod ad naturam, religiosus, abhorrens ab effusione sanguinis, & liberalis. divitias autem habuit magnas, & exercitus multos. Incessit via patris sui: & bono affectu fuit erga filios Alis f. Abutalibis, felicis memoriae. Consiliarius ejus fuit Casamus fil. Abdalle, fil. Suleimani, fil. Wahebi, quo vita defuncto, Consilium suum constituit Abbasem fil. Hafeni, fil. Iobi. Iudices ejus fuerunt Iosephus Abuharimus fil. Iacobi, hinc Abuomar, deinde Alis fil. Abusjamaribi, Ianitor, Hafifus Samarcandens. Symbolum sigilli ejus, Alis fil. Ahmedis confidit in Deum.

Cœpit 22  
Octobris  
A.C. 906

Zacrunas  
vincitur.

Cœpit 12  
Octobris.  
A.C. 907.

Muçtafis  
obitus.

Forma.

Natura.

Officiales.

Symbolum.

Chronologus

Imperium. *Chronologus ait eum obiisse die Sabbathi, elapsis annis Hegira 294, mensibus undecim, & diebus octo. annis autem solariibus mundi 6399, mensibus undecim, & diebus viginti.*

Saleucia à Saracenis capitur. *Narrant Historia Christianorum urbem Seleucia, in Regione Romanorum captam fuisse mense Rabio posteriori anni 290; captivos autem in Aegyptum intraductos mense Regiebo hujus anni.*

Abuabdalla Muhtafibus. *Eodem anno prodijt in Occidente quidam dictus Abu Abdalla Muhtafibus, fugavitque exercitus filij Aglabi, & milites ejus occidit, ac dominatus est in Occidente: & multi ab eo fugerunt.*

Defectus Nili. *Eodem anno Nili incrementum, in Aegypto, attingit tredecim cubitos, & duos digitos, neque amplius: & egressi homines cujuscunque religionis, aquas à Deo petiverunt, at nihilo plus Nilus est auetus.*

قال المورخ وكانت وفاته يوم السبت لثام مايي اربع وتسعين سنة واحد عشر شهرا وثمانية ايام للهجرة ولثمة ستة الف وثلثمائة تسع وتسعين سنة واحد عشر شهرا وعشرين يوما للعالم شمسية. والذی ورد تواریخ النصرانی ان مدینة صلوقیه من بلاد الروم فتحت فی شهر ربیع الاخر سنة تسعین ومایي ودخلوا بالسبي الی مصر فی رجب من هذه السنة \* وفيها خرج بالامغرب رجل یقال له ابو عبد الله المحتسب فهرم جبوش ابن الاغلب وقتل اصحابه وملك المغرب وانهرم منه زيادة. وفي هذه السنة بلغ نبل مصر ثلاثة عشرة دراعا واصبعین لا غیر وخرج الناس علی اختلاف مذاهبهم واستسقوا ولم یزداد شی عن ذلك.



## CAPVT DECIMVM NONVM.

*Decimus octavus Abbasidarum, & Chalifa trigessimus nonus, GJAFAR ABVLEADLVS MVCTADIRVS BILLA, f. Mutadidi, f. Muaffici, f. Mu-tewakkeli.*

**M**ATER ejus genitrix nomen habuit Saafa. Creatus fuit Chalifa Bagdadi, eo die quo obiit frater ejus Muhtafis, die scilicet decimo tertio Dulkiada, anni 295; quo tempore annorum erat tredecim, & aliquot mensium. neque ante eum quisquam imperium adeptus est annis eo minor.

Mundirus Rex Hispaniae moritur. *Eodem anno vita excessit Mundirus f. Muhammedis, fil. Abdurrahmanis, fil. Hacemi, Amawcus, Rex Hispania: eique in Chalifatu successit filius ejus Abdalla f. Mundiri.*

Cœpit 30 Septemb. A.C. 908. *Anno 296 depositus fuit Muhtadirus, & inauguratus Abdalla fil. Mutazzi, cognominatus Abulabbas; cujus mater appellabatur Habana. idque in hunc modum accidit. Milites irruentes in Abbasem fil.*

الثامن عشر من الخلفاء العباسيين وهو التاسع والثلاثون المتقدم بالله ابي الفضل جعفر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل \*

ولد يقال لها سعف واما بويغ له بالخلافة ببغداد يوم توفي اخوه المكنفي لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومایي وعمره يومئذ ثلث عشرة سنة وشهورا ولم يتولي الخلافة قبلة من هو اصغر سنا منه.

وفي هذه السنة توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الاموي ملك الاندلس فبويغ بالخلافة بعده ابنه عبد الله بن المنذر.

قال وفي سنة ست وتسعين ومایي كان خلع المتقدم وتبعه عبد الله بن المعتز ويكني ابا العباس واما ام ولد يقال لها حبان وكان من حديث ذلك ان الجند وثبوا على العباس ابن



الحسن وزير المقتدر فقتلوه واحضروا  
عبد الله بن المعتز فبايعوه بالخلافة  
بعد ان شرط عليهم ان لا يكون في  
ذلك حرب ولا سفك دم ولقبوه المرتضى  
بالله فلما بويع كتب اليه المقتدر  
بالله يلزم دمار ابن طاهر بوالدته  
وجواريه وخدمه وامر ابن المعتز الحسين  
بن عمر صاحب الشرطة ان يصبر الي  
دار المقتدر فخرج اليهم الغلمان  
ورمواهم بالنشاب وجرت بينهم حروب  
شديدة اخرها ان اصحاب المقتدر  
طهروا عليهم وانهم ابن المعتز وتفرقوا  
اصحابه واستتر ابن المعتز عند ابن  
الخصاص ولم يتم له الامر غير يوم وليلة  
وعاد المقتدر بالله الي خلافته وقتل  
ابن المعتز حنقا واطهروا انه مات حتف  
انفه واخرج مبتلى من دار السلطان يوم  
الخميس ثاني ربيع الاخر وسلم الي  
اهله ودفن بانرا داره وعمره خمسين  
سنة وكانت البعثة يوم السبت لعشر  
بقيين من ربيع الاول \* سبرته كان  
شاعرا فاضلا فصيحاً وهو صاحب  
التشبيهات التي ابدع فيها ولم يتقدمه  
من سبق فيها عبارة ويقال انه لما  
اختفي حين طلب للقتل راي طائرا  
فقال

يانفس صبرا العل الخبر عقباك \*  
حانك من بعد طول الامر  
دنباك \*  
مرت بنا صحرا طيرا فقلت لها  
طوباك \*  
ياليتني اياك طوباك \*  
ان كان قصدك شرقا فالسلام  
علي \*  
وادي الصراة ابلي ان كان  
مراك \*  
من موتف بالمانيا لا فكاك  
له تبكي الدما علي الف له  
باكي \*  
ورب امنة خانت شبيها ورب  
مطلقة من بين اشراك \*

*Haseni, Consiliarium Muṭadiri, eum ne-  
caverunt; & adductum Abdallam f. Mu-  
tazzi crearunt Chalifam: ut conditionem  
hanc ab ijs obtinuerat, quod propterea nec  
belli moveretur, nec sanguis effunderetur.  
& cognominarunt eum Murtadim Billa.  
Creatus autem Chalifa scripsit ad Muṭa-  
dirum Billa, ut contineret se in adibus filij  
Taberi, cum matre sua, puellis suis, & fa-  
mulis: jussitque Huseinum f. Omaris Præ-  
fectum præsidij, ut occuparet domum Mu-  
ṭadiri. Sed egressi ad eos milites, telis eos  
petiverunt, & acerrimis aliquot commissis  
prælijs, tandem superiores evaserunt mili-  
tes Muṭadiri, & in fugam versus est  
filius Mutazzi, qui, militibus ejus dispersis,  
delituit apud filium Hasasi; neque impe-  
rium obtinuit, nisi diem unum, & unam  
noctem, quibus elapsis, Muṭadirus Chali-  
fatum recepit. Cumque strangulatus esset  
filius Mutazzi, simularunt eum morte na-  
turali extinctū; & exportatus fuit ex arce  
imperiali, die Iovis, secundo Rabij postero-  
ris, suisq; traditus, & sepultus, è regione do-  
mus sua. Natus erat annos 50. & creatus  
fuerat Chalifa die Sabbathi, vigesimo Rabij  
prioris. Quod ad naturam ejus attinet.*

Abdalla f.  
Mutazzi  
creatur  
Chalifa.

Prælijs  
contendit  
cum Mu-  
ṭadiro.

Vin citur.

Necatur.

Ejus na-  
tura.

O anima patiens esto, fortassis bo-  
nus erit finis tuus.

Calamitas tua post longitudinem  
negotij evanescet tibi.

Transijt nos manè avis, cui dixi,  
O te felicem!

Vtinam ego tu sim, O te felicem!

Si tu in Orientem tendis, pax su-  
per me.

Fluvium Euphratis fac advenire, si  
rationem habes

Ejus, qui obstrictus est morti, cui-  
que non est quo se liberet:

Flet sanguis super debili, quem ne-  
mo deflet.

Interdum fidelitatis decipit simili-  
tudo: interdum ipsa dimittitur  
ex laqueis.

Opinor

Opinor hunc ultimum esse diem  
ætatís meæ.

Et væ tibi hodie, si defleat me deflēs.  
Cumque ad locum supplicij ejus eum addu-  
xissent, dixit.

Dic gaudentibus malo nostro, Ex-  
spectate; ante vos quoque adver-  
sa sunt, & magna.

Inter alia autem Abdalla f. Mutaʒzi In-  
ventoris carmina & hoc est, de vino,

Vinum vetus perijt locus quietis  
capitis ejus, coronæ margarita-  
rum: quod ordine connecten-  
dum est non habet filum.

Transcunt motus venti super quie-  
te ejus. & liquefcit, sicuti lique-  
fcit aurum, quod mundat fusio.

Cum autem occideretur filius Mutaʒzi,  
occisus quoque fuit cum eo Consiliarius ejus  
David f. Alharabi, & Saudarus f. Hafafi,  
qui absconderat eum, pro summa sedecim  
mille millium aureorum.

Cœpit 19  
Septemb.  
A.C. 909.

Obitus Iſe  
Imp. Ac-  
gypti.

Cœpit 9  
Septemb.  
A.C. 910.

Initium  
Fatimida-  
rum.

Muham-  
med Ma-  
hadis.

Anno ducentesimo nonagesimo septimo  
obijt Isa f. Muhammedis, Busaraus, Impe-  
rator Aegypti, die decimo Sjaabani: &  
præfecit Muçtadirus Billa Aegyptio Iakinum  
Hararaum.

Anno 298 cœperunt florere Fatimide:  
quorum primus fuit Muhammed Mahadis,  
qui prodijt Segilmessa, qua ditionis Cair-  
mani est, in occidente. & is hoc anno salu-  
tatus est Imperator fidelium. Deinde abijt  
Raccadam, dicens se esse oriundum ab Ali  
f. Abutalibis, genusque suum illi infixum.  
qua de re, volente Deo, post dicemus. Aedi-  
ficavit quoque hoc anno Mahdiam, atque  
in ea habitavit, imperans Africa, Sicilia,  
& provincijs Occidentis. Natus autem fuit  
Selmia, aut, ut alij volunt, in Iraca, anno  
269 Hegira; & profectus in Occidentem,  
imperio se ingessit. multisq; prælijs conten-  
dit cum filijs Aglabi, donec eos ejecit, anno  
Hegira trecentesimo secundo, quo & ipse  
obijt, & successit ei in imperio filius ejus

Kaijmus. Kaijmus, cui mortuo successit filius suus Al-  
Almanfor. mansor, quo vita defuncto, imperium ade-  
Muazzus. ptus est filius ejus Muaʒzus Lidinilla; qui  
primus fuit Chalifa Aegyptiacus, ex Fati-  
midis: sicuti, volente deo, commemorabi-  
mus suo loco.

اظنه آخر الايام من عمري  
ودوسك اليوم ان يبكي  
الباكي \*

ولما قدموه لموضع قتله قال  
فقل للشامتين ما مرويدا \*  
امامكم المصابي والخطوب \*  
ومن جملة شعر عبد الله بن المعتز البديع  
قوله في لخم  
معنقة ضاع المراح لراسها كالكليل  
در ما لمنظومه سلك \*  
جرت حركات الريح فوق سكونها  
فدايت كدوب التبر احلاصه  
السبك \*

ولما قتل المعتز قتل معه وزيره داود بن  
الحراح وصور بن الحصاص الذي ستره  
علي جملة ستة عشر الف الف دينار  
قال وفي سنة سبع وتسعين ومايي  
توفي عيسى بن محمد البوسري امير مصر  
في عاشر شعبان فولي المقتدر بالله امرة  
مصر يكنى الحرري \*

قال وفي سنة ثمان وتسعين ومايي  
كان ابتدا الدولة الفاطمية كان  
اولهم محمد المهدي وكان ظهوره  
بمسجده من اعمال القيروان بالمغرب  
في هذه السنة وسلم عليه فيها امير  
المؤمنين ثم مضى الي رقادة وكان يزعم  
انه من ولد علي بن ابي طالب ونسبه  
مطعون فيه وسباني ذكر هذا بعد ان  
شا الله تعالى \* وفي هذه السنة بني  
المهدية واستقر بها وملك افرقية وسقلية  
واعمال المغرب وكان مولده بسقلية  
وقبل بالعراق سنة تسع وثمانين ومايتي  
ودخل الي المغرب ودعي الي نفسه  
وجرت له حروب كثيرة مع بني الاغلب  
الي ان اخرجهم سنة ائنتي وثلاثماية توفي  
فيها وصار الامر الي ابنه القايم ولما مات  
القايم ولي ابنه المنصور ومات المنصور  
ولي ابنه المعز لدين الله ففتح مصر  
واستولي عليها وهو اول خلفاء مصر  
الفاطمين وسنذكر ذلك في موضعه  
ان شاء الله تعالى \*



قال وفي سنة ثلثمائة توفي عبد الله بن عبد الله بن طاهر وكان اميرا جليليا شجاعا كريما فصيحاً

وفي هذه السنة توفي عبد الله بن المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الاموي ملك الاندلس فبويغ بالخلافة بعده اخوة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن المنذر وهو اول من سلم عليه منهم بامير المؤمنين ولم يبلغني خبر احد منهم بعد عبد الرحمن وكان زوال دولتهم بعد سنة اربعمائة للهجرة

قال وفي سنة احدى وثلثمائة كان مقتل ابي سعيد الجاني القرمطي وكنا قد ذكرنا استيلاء علي هجر ومحاربتة لجيش المعتضد بالله وكسرة لهم فلما كانت هذه السنة قتله خادم له وهو بالجام فولت القرامطة امرهم الي سعيد ولده فقرض لهم الخادم الذي قتل اباة بالمقاريض حتي مات

وفي سنة اثنتي وثلثمائة قدم حباسة في جماعة من المغاربة الي الاسكندرية فغلبوا عليها وشخص مونس الخادم من بغداد الي مصر لمحاربة حباسة فانهم هو واصحابه وقتل من اصحاب المقتدر بالله سبعة الف رجل ودخل من بقي من اصحاب المقتدر الي الاسكندرية \* وفيها عزل مونس الخادم يمين عن امرة مصر \* وفي سنة ثلاث وثلثمائة قدم دكا الاعور الي مصر والبا عليها من قبل المقتدر بالله عوض يمين

الحربي  
قال وفي سنة تسع وثلثمائة امر المقتدر بالله بقتل الحسين بن منصور الحلج فقتل وصلب ببغداد لان الفقهاء اقتوا بقتله لاشبا سعت منه منها قوله مرحت مروحك في مروحي كمرج الخمر بالماء الزلال \*  
يمني مسك شي فاذا انت انا في كل حال \*  
سبحان من اظهر ناسوته مرسنا لاهوته الماقب \*

Anno 300 obiit Abdalla f. Abdalla, f. Taberi: qui Imperator fuit egregius, strenuus, humanus, & eloquens.

Cœpit 17 Augusti. A. C. 912.

Eodem quoque anno obiit Abdalla f. Mundiri, f. Muhammedis fil. Abdurrahmanis, f. Hakemi, Awamaus, Rex Hispania, cui successit in imperio frater ejus Abdurrahman Nasir-Lidinilla, filius Mundiri, qui primus fuit inter eos salutatus Imperator fidelium. Post hunc Abdurrahmanem nihil ego de illis intellexi. Desierunt autem florere post annum Hegira 400.

Abdurrahman Rex Hispania. *era 300*

Anno 301 occisus fuit Abusaidus Hamanaus, Caramita, quem ante meminimus occupasse Hagjaram, & bellum gessisse cum exercitu Mutadidi, eumque fuisse. cum enim hic annus ageretur, interfecit eum quidam minister ejus, existentem in balneo, & præfecerunt Caramita imperio suo Saidum filium ejus, qui carnem ministri illius, qui patrem ejus occiderat, forcibus discerpsit, donec expiravit.

Cœpit 7 Augusti. A. C. 913. Abusaidæ cædes.

Anno 302 contendit Habasas cum multitudi Magaribarum Alexandriam; quam & ceperunt. venitque Maunasus Alchadimus Bagdado in Aegyptum, bello persequitur Habasam: sed in fugam versus est, cum militibus suis. & ceciderunt militum Muçtadiri septem millia: qui autem reliqui erant Alexandriam ingressi sunt. Eodem anno deposuit Maunasus Alchadimus Iakinum gubernatione Aegypti. & anno 303 venit Dacaius Alawarus in Aegyptum, Præfectus ejus futurus, nomine Muçtadiri Billa, loco Iakini Hararæi.

Cœpit 17 Julij. A. C. 914. Habasas capit Alexandriam.

Anno 309 jussit Muçtadirus mortem plecti Huseinum fil. Mansoris Hallagum. interfecit autem fuit, & crucifixus, Bagdadi; quod Sapientes censuissent mortem afficiendum esse, ob quadam quæ ab illo audita fuerant, inter quæ & dictum hoc ejus,

Cœpit 12 Maij. A. C. 921.

Huseinus f. Mansoris Poeta.

Mixtus est spiritus tuus cum spiritu meo, sicuti miscetur vinum cum aqua dulci.

Et cum prehendo quidquam, ecce tu ego, in omni statu.

Laus ei qui manifestavit humanitatem suam, celavit inter nos divinitatem suam permeantem,

Donec

Donec cœpit in creatura sua apparere, sub specie edentis & bibentis.

Iamque aspexit eum creatura ejus, sicuti supercilium oblique respicit supercilium.

itemque hoc

Ligatus est spiritus tuus cum spiritu meo, sicuti ligatur ambra cum musco puro.

Cumque prehendo quidquam, ecce tu ego non separamur.

*Qui quidem versus videntur innuere descensum, unionem, affixionem, atque ordinationem divinitatis ad hominem. Sed Deus Opt. Max. novit virum hunc, & an non intenderit aliud ab eo quod verba ejus præ se ferunt. Ajunt quoque eum, cum iret ad supplicium, dixisse.*

Comptor meus nihil plane in se habet iniquitatis.

Bibendum mihi dedit simile ejus quod bibit: fecit hospitem in hospite.

Cumque in orbem ivissent calices, vocavit lectum, & gladium.

Sic qui bibit vinum cum dracone, in ætate.

*Eodem anno depositus est Iakinus Hararæus gubernatione Aegypti, & præfuit ei Abufanusus quinque dies, ac deinde iterum Iakinus dies paucos, & hoc deposito, Halalus f. Iezidi.*

*Anno 310 vita defunctus est Muhammed Abugjafar f. Hariri, f. Muajadi, Tabarita, auctor Historiæ; fuitque princeps eruditus, & magna potentia. misereatur ejus Deus.*

*Anno 311 removit Muçtadirus Billa Halalum f. Iezidi gubernatione Aegypti, præficiens ei Ahmedem fil. Keigalagi, & hoc deposito, Iakinum Hararæum, qui non desijt ei præesse, donec occisus fuit Muçtadirus.*

*Eodem anno crevit potentia Abutaheri Caramita. Licet enim pater ejus Abusaidus jusset, ut imperium traderetur filio suo Saïdo, donec adolesceret Abutaherus; hic tamen imperio se ingessit: & multi se ei adjunxerunt.*

حتي بدأ في خلقه ظاهر ا في صورة  
الاكل والشارب \*  
حي لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب  
للحاجب \*

وقوله ايضا

حبلت بروحك في روعي كما  
بحبل العنبر بالمسك الفيك \*  
فاذا امسك شي فاذا انت ابالا  
فتفرق \*

فقلت ظاهر هذا الشعر يشعر بالحلول  
والاتحاد واثبات وصف الالهية للبشر  
لكن الله تعالى عالم بهذا الرجل فلعله  
قصد غير ما ظهر من لفظه \* ويروي  
انه لما قدم للقتل قال

فدعني غير منصوب الي شي من  
الحب \*  
مقاني مثل ما يشرب فعل الضيف  
بالضيف \*

فلما دارت الكاسات دعا بالمطع  
والسيف \*

كذا من يشرب الراح مع التبين  
في الصيف \*

قال وفي هذه السنة عزل يكين  
الحريري عن امرة مصر وولي ابو فانس  
خمسة ايام ثم عزل ثم تولى يكين اياما  
يسيرة ثم عزل وولياها هلال بن يزيد \*  
وفي سنة عشر وثلاثماية توفي ابو  
جعفر محمد بن حريم بن موييد الطبري  
صاحب التاريخ وكان اماما عالما  
كبير القدر رحمه الله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي هذه السنة اشتدت شوكة  
ابي طاهر القرمطي فان ابا سعيد اباه  
كان اوصي بان يسلم الامر الي  
ابنه سعيد الي ان يكبر ابي طاهر فدعا  
الي نفسه فاجتمع اليه خلق كثير  
وسوا محاربه اعتقدوها معجرات

في سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

وفي سنة احدى عشرة وثلاثماية عزل  
المقتدر بالله هلال بن يزيد عن امرة  
مصر وولياها احمد بن كبلغ ثم عزله  
وولي يكين الحريري ولم يزل واليا  
عليها الي ان قتل المقتدر بالله \*

Nimirum Huseinus illes in  
Dominum Deum credebatur, quod  
Elmacinus hic fateri non au-  
sus est. V. Muller in Com-  
mentario ad Alomum. Sinicum,  
pag. 81. col. 2. Abul-Pha-  
roj. Dynast. IX. pag. 188.  
& 189. ed. Latinae, et  
Herbolot in voce HALLAGE,  
pag. 423.

Petrus Vattier qui hunc librum  
Gallice interpretatus est duos  
ultimos versus sic vertit.  
Après plusieurs tours de verres, il  
a parlé de la verdure du rivage.  
Ainsi qui boit en est le vin avec son  
amy.

Cœpit 1  
Maij. A. C.  
922.

Abugjafa-  
ris Histori-  
ci obitus.

Cœpit 20  
Aprilis.  
A. C. 923.

Abutaher-  
us Carami-  
ta, ejus-  
que victo-  
ria.



فأبوه انه يعلم الغيب ولما كفر جمعة  
قصد البصرة في الف وسبع مائة ففتحها  
وقتل من ظفر به من اهلها واحرق  
المسجد الجامع واقام فيها سبعة عشر  
يوما ثم رحل عنها بعد ان استصفي ما  
كان بها من الاموال

وفي سنة اثني عشرة وثلاثمائة اعترض  
ابن طاهر القرمطي الحاج في رجوعهم  
بالنهر فقتل منهم مقتلة عظيمة وكان  
صاحب مدرفه الحاج الامير ابو الهيجا  
عبد الله بن حمدان واند سيف الدولة  
وكان عمل الموصل وديار ربيعة  
والدينور والجبال من بلاد فارس  
والكوفة اليه فتقاتلا قتالا عظيما فكانت  
الكسرة للقرمطة فاسروا ابا الهيجا  
وجماعة من اصحاب المقتدر واستولوا على  
اموال الحاج جميعا واسروا اكثر النساء  
والاطفال \* ثم سار ابن طاهر الي هجر  
وترك باقي الحاج بغير نراد ولا راحلة فبات  
اكثر الحاج بالعطش والجفا وكان  
سن ابي طاهر يومئذ تسع عشرة سنة  
وحصل لابي طاهر من الاموال ما يناهز  
الف الف دينار ومن الامتعة والطيب  
مثلها واستاسروا من الرجال الف ومائتي  
وعشرين رجلا ومن النساء خمسين امرأة  
قال وفي هذه السنة اطلق ابن طاهر  
القرمطي الامير ابا الهيجا عبد الله بن  
حمدان وجماعة من الاسري وقدم رسوله  
الي بغداد فسأل المقتدر الافراج له عن  
البصرة والاهواز فلم يجب الي ذلك  
واكرم رسوله واخلع عليه

وفي سنة ثلث عشرة وثلاثمائة قدم  
ابن طاهر القرمطي الي الكوفة فنهب  
وقتل وسبي فكان من جماعة ما اخذ  
من الثياب الوسي اربعة الف ثوب من  
الرتب ثلثماية راوية واشبا لا تحصى  
وفي سنة اربع عشرة وثلاثمائة اخذت  
الروم ملطية عنوة فقتلوا اهلها وسبوا  
واقاموا بها اياما

وفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة كان  
ابتداء ظهور الديلم وكان اول

ajebar autem abscondita quaeque se scire.  
& magna multitudine auctus contendit  
Basram, cum centum & septem militum  
millibus, eamque expugnavit, & occidit  
quoscumque in ea nactus est opidanos, ac  
templum incendit: utque in urbe substitit  
dies 17, eam reliquit, pecuniam omnem  
ejus adeptus.

Anno trecentesimo duodecimo adorsus  
est Abutaherus Caramita agmen peregrin-  
antium, in Nahara, cum reverterentur,  
& magnam ijs cladem intulit. Praerat  
autem praesidio itineris eorum Abulhigja  
Abdalla fil. Hamadani, pater Saifuddaula,  
Praefectus Mausila, Diarrebja, Dainawara,  
ac Gjebala Persidis: & magno contende-  
runt praelio: quo cum vicissent Caramita,  
ceperunt Abulhigjam, & multos de mi-  
litibus Muçtadir: atque opes omnes  
peregrinantium sunt nacti, & majorem  
partem mulierum, ac puerorum ceperunt.  
hinc abiit Abutaherus Hagjaram, & reli-  
quit ceteros peregrinantes sine viatico, &  
camelis; unde & plerique eorum siti perie-  
runt, atque erroribus. Erat autem tum  
temporis Abutaherus natus annos 19.  
& nactus est pecunias, circiter mille aureo-  
rum millia, & tantundem valentia impe-  
dimenta, atque bona. in servitutem autem  
abduxit viros bis mille, ducentos, & vi-  
ginti, ac mulieres 50.

Eodem anno dimisit Abutaherus Impe-  
ratorem Abdallam Abulhigjam f. Hama-  
dani, & multos captivos. misitque Lega-  
tum Bagdadum, rogatum Muçtadirum  
ut sibi daret Basram & Ahwazam, id quod  
ei recusavit, honorans tamen legatum &  
veste eum donans.

Anno 313 venit Abutaherus Caramita  
Cufam, eamque diripuit, & incolas occidit,  
atq; in servitutem abduxit. Inter alia au-  
tem quae cepit, panni colorati erant qua-  
tuor mille, & tria camelorum millia, ref-  
que alia innumera.

Anno 314 vi ceperunt Romani Mala-  
tiam, incolasque partim occiderunt, par-  
tim ceperunt & dies aliquot in ea manserunt.

Anno 315 ceperunt innotescere Dai-  
lami; quorum primus Rex fuit quidam  
nomine

Cæpit 9  
Aprilis.  
A.C. 924

Cæpit 29  
Martij.  
A.C. 925

Melita ca-  
pitur à Ro-  
manis.

Dailamo-  
rum origo,  
& primi  
Reges.

*nomine Wahsjudanus f. Marzabani, cujus regni sedes fuit Sjabristana. hoc mortuo regnum adeptus est filius ejus Hasanus, qui bellum gessit cum Huseino f. Alis, Fatimida, cognominato Nasirulhaco. sed hunc Hasanum frater suus Alis f. Wahsjudani adorsus est, atque occidit. & deinde socer Hasani, dictus Muhammed f. Musafiri, hunc Alim f. Wahsjudani interfecit: & successit ei filius ejus Mahadis, quem bello quoque persequutus est, & in fugam vertit Muhammed f. Musafiri: qui Rex Dailamorum est factus. Mahadis autem confugit ad Asfarum. Deinde autem timuit sibi ab eo Asfarus, & cepit Kazwinam, ejusque incolas vehementer afflixit: & praelijs aliquot certavit cum Casimo f. Huseini, Alawao, Aldai, & Mahcano, filio Malis. Deinde contendit Asfarus Gjorgjanam, eamque expugnavit: & ducem exercitus sui constituit quendam dictum Mardawigum f. Ramazi fil. Mardansjahi, cum quo Adais Alawaus praelijs aliquot contendit. & occiso Aldai, crevit potentia Mardawigi, & auctum est imperium ejus. Hinc misit Asfarus bellum ei illatum Muhammedem fil. Musafiri, cujus ante mentio facta est. at obsedit eum aliquamdiu, in arce ejus, Mardawigus, ad quem Muhammed f. Musafiri obsessus misit, significans ei quomodo regnum Asfari expugnaret: id quod fecit, ita ut potitus sit ijs omnibus que in manu illius erant, ditio- nibus scilicet Rajae, Kazwinae, Abharae, Gjorgjanae, & Tabristanae. Deinde abiit Mardawigus Hamadanam, eamque cepit, & cives interfecit, ac mulieres violavit, occiditque omnes qui in ea erant. Ajunt autem jusse eum, ut quicumque in ea occisi erant veherenter in Dailamam, quorum numerus erat triginta millium. Hujus rei rumor cum Bagdadum pervenisset, misit Muctadirus Billa contra eum magnum exercitum, duce Harone f. Arabi. Concurrentibus autem exercitibus inter Hamadanam & Kazwinam, in fugam versus est exercitus Muctadiri. atque haec omnia gesta sunt anno trecentesimo decimo nono. Hinc Mardawigus expugnavit Isfahanam. Deinde autem inimicitia orta est inter Mahcanum fil. Malis, & Mardawigum,*

ملوكهم رجل اسمه وهشودان بن المرزبان وكان مقر ملكه شهرستان فلما مات ملك ابنه حسان وجرت له حروب مع الحسين بن علي الفاطمي الملقب بناصر الحق ثم وثب علي حسان اخوه علي ابن وهشودان فقتله ثم وثب صهر حسان يقال له محمد بن مسافر علي بن وهشودان فقتله فلما ملك حارث محمد بن مسافر قابل اخيه فقتل حر وفبرور وملك بعده ولده مهدي فقتله محمد بن مسافر فهزمه واستولي محمد بن مسافر علي ملك الديلم واما مهدي فانه التجي الي اسفار سيرته ثم خاف منه اسفار ثم غلب اسفار علي قزوين وعسف اهلها عسفا كبيرا وجرت له حروب مع القاسم ابن الحسين العلوي الداعي ومعه كان بن مالي ثم قصد اسفار جرجان فغلب عليها وجعل قايده جيشه رجلا يقال له مرداويج بن رمان ابن مردان شاه فجرت بينه وبين الداعي العلوي حروب فقتل الداعي وقوي مرداويج وعظم امرة ثم جهز اسفار لمحاربة محمد بن مسافر المقدم ذكره فحاصره مرداويج في قلعته مدة فبعث اليه محمد بن مسافر وهو محصور يشهر اليه بان يغلب علي ملك اسفار فغلب واستولي علي ما كان يبده وهو اعمال الري وقزوين وابههر وجرجان وطبرستان ثم سار مرداويج الي همدان ففتحها واستباح دما اهلها وفروج نسايمهم وقتل من كان بها فبقال انه امر بحمل من قتل بها في الديلم وكانت ثلاثين الف نكبه وجاء الخبر بذلك الي بغداد فجهز المقننم بالله لقتاله جيشا عظيما مع هرون بن عرب فالتقياب بين همدان وقزوين فانهمز جيش المقننم وكل ذلك في سنة تسع عشرة وثلاثماية ثم غلب مرداويج علي اصفهان ثم فسدت الحال بين مهكان بن مالي وبين مرداويج

postquam



بعد مهادنة كانت بينهما وجرى  
 بينهما حروب وكان عماد الدولة  
 ابن الحسن علي بن بويه يومئذ من جملة  
 اصحاب مهكان وكان في تلك  
 الحروب سنة احدى وعشرين وثلاثماية  
 واثنين وعشرين وكان الظفر فيها  
 لمرداويج فلما امد وطبرستان وعظمت  
 مملكته واقام بها مطهر اطاعه عامل  
 الخليفة بخراسان ثم انفق ان مهكان  
 انهزم من مرداويج في بعض حروبه  
 فانجس عماد الدولة بن بويه الي مرداويج  
 فاكرمه وولاه المرح اقام بها مدة علي  
 اجمل سيرة حتي قويت حاله ثم وقعت  
 وحشة بينه وبين مرداويج بعد مدة  
 فرحل بجيش كثيف الي اصبهان  
 فاخذها فبعث مرداويج لخرجه اخاه  
 وسهكن ولم يكن لعاد الدولة بحرية  
 طاقه فرحل عن اصبهان الي ارجان  
 فملكها وملك جميع فارس \* وهذه  
 الحوادث وقع اكثرها بعد هذه السنة  
 انما ذكرناها لاجل سباقه الحديث  
 لئلا ينتشر وسنذكر ان شاء الله بقية  
 اخبار ملوكهم الي نهايتها \*  
 وفي هذه السنة سبر المقتدر بالله  
 يوسف بن ابي النجاج الي محاربة ابي  
 طاهر بن ابي سعيد القرمطي فاسر يوسف  
 وانهزم اصحابه وقتل منهم خلق كثير  
 واستولي القرمطي علي الكوفة وخاف  
 اهل بغداد منه ولم يشكوا ان يقصدها  
 ويملكها فاشار علي بن عيسى الوزير  
 علي المقتدر بانفاق الاموال واستخدام  
 العساكر فانفق من بيت المال ثلثمائة  
 الف دينار واخذ من والدته خمسمائة  
 الف دينار وجهز ل حرب القرمطي عشرة  
 الف فارس ثم عادوا من غير حرب وبلغ  
 ابي طاهر الانبار ثم عاد عنها فتصدق  
 المقتدر والسبدة امة وعلي بن عيسى الوزير  
 بخمسين الف دينار شكرا لله تعالي  
 ثم قصد القرمطي هيت وعاد منصرفا  
 عنها فتصدق المقتدر بمائة الف درهم \*  
 quaginta aureorum millia. Deinde contendit Caramita Hitum, à quocum etiam rece-  
 deret, Muçtadirus centum mille stateres pauperibus donavit. Anno

postquam pacē coluissent : & prælijs aliquot  
 certarunt. eratque eo tempore Alis Abulha-  
 senus Amadudaulas f. Boja unus è militibus  
 Mahcani. Commissa a. fuerunt hæc prælia  
 annis 321 & 322, & vicit ijs Mardawigus:  
 qui & Amidam cepit, & Tabristanam, qui-  
 bus regnum ejus crevit. Fuerat autem in  
 Tabristana Mutahhar Atas, Præfetus  
 Chorasana, nomine Chalifa. Deinde con-  
 tigit Mahcanum in fugam verti à Marda-  
 wigo, in quibusdam prælijs ejus. & tran-  
 sijt Amadudaulas f. Boja ad Merdawigum,  
 qui eum honoravit, & Margje præfecit, in  
 qua & aliquamdiu mansit, optimè se ge-  
 rens; donec status ejus confirmatus fuit:  
 tunc enim inimicitia orta est, inter eum,  
 & Mardawigum; abiitque cum numeroso  
 exercitu Isfahanam, eamq; cepit. Marda-  
 wigus autem fratrem suum Wasmakinum  
 misit bello eum persequutum. at Amadu-  
 daulas vires non habuit quibus bellum ei  
 moveret. Deinde Isfahana abiit Argja-  
 num, eoque potitus est, uti & tota Perside.  
 Gesta autem sunt hæc pleraque post hunc  
 annum, & propter filum orationis hic so-  
 lum à nobis tacta, ne dispergantur. reliqua  
 autem ad Reges eorum pertinentia, ad finem  
 eorum usque, volente Deo, post com-  
 memorabimus.

Eodem anno misit Muçtadirus Billa Io-  
 sephum f. Abunnabahi oppugnatum Abu-  
 tatherum f. Abusaidi, Caramitam: sed ca-  
 ptus fuit Iosephus, & milites ejus in fugam  
 versi, plurimis interfectis. Potitus quoque  
 est Caramita Cusa: & timuerunt eum ci-  
 ves Bagdadi, neque dubitarunt quin ipse  
 quoque eam adiret, & subjugaret. Suasit  
 autem Alis f. Isa Consiliarius Muçtadiro,  
 ut pecunias erogaret, & copias conscri-  
 beret. itaque ex arario erogavit trecenta  
 aureorum millia: & à matre sua accepit  
 quingenta aureorum millia. misitque ad  
 oppugnandum Caramitam decem mille  
 equites. qui deinde, nullo commisso prælio,  
 reversi sunt. Pervenit autem Abutatherus  
 ad Ambarum, à quo cum deinde recessisset,  
 Muçtadirus, & Domina mater ejus, itemq;  
 Alis f. Isa Consiliarius, Deo Opt. Max. gra-  
 tias agentes, pauperibus largiti sunt quin-  
 quaginta aureorum millia. Deinde contendit Caramita Hitum, à quocum etiam rece-  
 deret, Muçtadirus centum mille stateres pauperibus donavit. Anno

Abutaheri  
 Caramita  
 victoriæ.

Cœpit 25  
Februarij.  
A.C. 928.

Anno 316 adorsus est Caramita Raha-  
bam, atque in opidanos gladio sevijt. Civēs  
autem Karkisæ securitatem ab eo petie-  
runt, quam & ijs concessit. Deinde abiit in  
urbem suam Hagjaram, atq; adificavit in  
ea domum, quam Hagjaratam nominavit,  
appellatur tamen & Mahadis. auctumque  
est imperium ejus, & multiplicati assecle.

Cœpit 15  
Februarij.  
A.C. 929.  
Muçtadiri  
deposito,  
ejusque  
causa.

Anno 317 Chalifatu depositus fuit Mu-  
çtadirus, & successit ei Kahirus Billa: idque  
hoc modo factum est. Maunasus Alchadimus  
servus Mutadidi cognominatus Mutaffa-  
rus, ex relatione audiverat, Muçtadirum  
cogitare de eo in vincula conijciendo. erat  
a. Maunasus hic Dux exercitus Muçtadiri,  
& multos habebat servos. cumq; intellexis-  
set Muçtadirus id relatam esse ad Mauna-  
sum, juravit ei id falsum esse. Sed Maunaso  
nihilominus persuasum mansit quod audi-  
verat. Cumque dies advenisset Veneris 14  
Muharrami, venit Maunasus in aulam  
imperialem, cum duodecim equitibus. &  
ingressus ad Muçtadirum, eumprehendit,  
cum matre ejus, & portavit eos domum  
suam. Milites autem diripuerunt aulam.

Cahiri  
Billa Cha-  
lifatus.

Officiales.

& facto die Sabbathi, medio Muharrami,  
adduxit Muhammedem f. Mutadidi Billa,  
cognominatum Kahirum Billa, quem mili-  
tes salutarunt Chalifam. Hic Consiliarium  
constituit Abualim fil. Mucla: Ianitorem  
autem Barucum, aut, ut alij volunt, Ab-  
dallam Abulhigjam filium Hamadani, pa-  
trem Saifuddaule. & direpta fuit aula  
Muçtadiri, matricque ejus erepta sexcenta  
aureorum millia. Caterum Muçtadirus  
ipsum se Chalifatu abdicavit, atque ejus rei  
testes appellavit. & misse in omnes pro-  
vincias literæ sunt de Chalifatu Cahiri.  
Cum autem advenisset dies Solis, secundus  
imperij ejus, rebellarunt contra eum milites,  
petentes stipendia sua: atq; irruentes in Ba-  
rucum Præfectum cohortis prætoriana, eum  
occiderunt, & clamaverunt O Muçtadire,  
O adjute! Hinc in fugam se dedit Consilia-  
rius, filius Mucla: venitq; Muçtadirus Billa  
& solium occupavit. ac jussum adesse fra-  
trem suum Cahirum Billa sedere coram se  
jussit, atq; osculatus frontem ejus, dixit, O frater mi, nulla tibi est culpa. Cahirus au-  
tem respondit, Deus, Deus est in anima mea, O Imperrator fidelium. Et juravit ei Mu-  
çtadirus Billa, dicens, Nihil unquam à me tibi veniet mali. Hinc reversus filius Mucla  
scripsit in provincias de Chalifatu Muçtadiri.

Muçtadi-  
rus impe-  
rium recu-  
perat.

قال وفي سنة ست عشرة وثلاثمائة  
هجم القرطبي الرحبه ووضع السيف في  
اهلها وطلب اهل قرقيسبا منه الامان  
فامسهم ثم عاد الي مدينته هجر وبني بها  
دارا سماها الهجرة وتسمي بالمهدي  
وعظم امره وكثر تباعه  
وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة كان  
خلع المقتدر وتبعه القاهر بالله وذلك  
ان موسى الخادم مولي المعتضد الملقب  
بالمظفر نقل اليه ان المقتدر قد عزم علي  
اعتقاله وكان هذا موسى مقدم جيش  
المقتدر وله مماليك كثيرة فلما بلغ المقتدر  
ما نقل الي موسى حلف علي بظلان ذلك  
وبقي في قلب موسى ما سمعه فلما كان  
يوم الجمعة رابع عشر المحرم وفي موسى دار  
الخلافة في اثني عشر فارسا ودخل علي  
المقتدر وقبض عليه وعلي والدته وجماعها  
الي داره ونهب الجند دار الخلافة فلما  
كانت ليلة السبت نصف المحرم احضر  
محمد بن المعتضد بالله ولقب القاهر  
بالله وسلم عليه الجند بالخلافة واستوزر  
ابا علي بن مقله واستحجبت باروك وقيل  
استحجبت ابا الهجما عبد الله بن حمدان  
والد سيف الدولة ونهب دار المقتدر  
واخذ لوالدته ستمائة الف دينار وخلع  
المقتدر نفسه من الخلافة واشهد عليه  
وذلك ونفذت الكتب الي الافاق بخلافة  
القاهر فلما كان يوم الاحد ثاني يوم  
خلافته شعنت الجند عليه يطلبون اوراقهم  
وهجوا علي باروك صاحب الشرطة فقتلوه  
ونادوا يا المقتدر يا منصور فانهم الوزير  
بن مقله والحجاب والجسم وجاء المقتدر  
بالله فجلس واحضر اخاة القاهر بالله  
واجلسه بين يديه وقبل جبهته قال يا  
اخي لا دنب لك فجعل القاهر يقول الله  
الله في نفسي يا امير المؤمنين فحلف له  
المقتدر بالله لا جري عليك مني سوء  
ابدا وعاد بن مقله فكتب الي الافاق  
بخلافة المقتدر



وفي هذه السنة قتل عبد الله بن حمدان رهاه رجل من الجند بسهم فذبحه \* وفي هذه السنة هجم ابن طاهر القرمطي صاحب هجر مكة يوم التروية فقتل الحاج في المسجد الحرام وقلع الحجر الاسود وقلع قبة زمزم وغزا الكعبة ثم رجع إلى بلدة ومعه الحجر الاسود فبقي الحجر الاسود في ايديهم اثني وعشرين سنة الا شهرا ثم رده علي يدين سبعمائة وخمسة خلون من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وكان يحكم قد بدل لهم في ردة خمسة الف دينار فلم يفعلوا وقالوا انا اخذناه بلا امر ولا ردة بامر ﴿

وفي هذه السنة فوض المقتدر بالله ديار بكر وامد ومبافارقين إلى ناصر الدولة ابي محمد بن ابي الهيجا بن حمدان وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة وقبل كان ذلك سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ﴿

قال وفي سنة عشرين وثلاثمائة كان مقتل المقتدر بالله وذلك ان المظفر مونس بلغه ان المقتدر قد دبر على حبسه وغضب وصعد الي الموصل فملكها ثم جيش الجيوش واقبل إلى بغداد فخرج المقتدر بالله لقتاله فوقع الحرب بينه وبين اصحاب مونس فاحتاط به جماعة من البربر فقتله رجل مهم واخذ راسه وسلبه ثيابه ومضى براسه الي مونس ومر مقتدر رجل من الاكراد فستر سوته بخيش ثم حفر له ودفنه وكان مقتله في الساعة الرابعة من يوم الاربعاء ليلة بقبت من شوال فكانت خلافته اربع وعشرين سنة واحد عشر شهرا واربعة عشر يوما من حملتها يومان وثلاثة ليلي خلع فيها مرتين الاولى فوبه بويج لابن المعتز والثانية نوبة القاهر وقد ذكرناها وكان عمه ثمان وثلاثين سنة وشهرا وخمسة ايام \* صفته كان مربع القامة جميل الوجه ابيض بحمرة حسن الخلقة والعين مدور الوجه كثير الشيب في

*Eodem anno occisus fuit Abdalla f. Hamadani, tactus sagitta militis cujusdam, qui & eum mactavit. Abutaherus quoque Princeps Hagjara, Caramita, hoc anno adorsus est Meccam, die octavo Dulhiggia, & peregrinos, in templo ejus, occidit, Lapidem nigrum, & tectum putei ZemZemi evulsit, ac templum vastavit. Hinc reversus est in urbem suam, auferens Lapidem nigrum, qui in manibus eorum mansit annos duodecim, minus uno mense. Deinde eum reddiderunt, die scilicet quinto Dulkiade anni Hegira 339. Obtulerat autem ijs pro eo Iabcamus quinque aureorum millia; at noluerant, dicentes, Nullius jussu eum cepimus, & nullius jussu eum reddemus.*

Abdalla f. Hamadani interitus. Abutaherus templum Meccanum vastat.

*Eodem quoque anno concessit Muçtadirus Billa Diarbecram, Amidam, & Majafarikinam Abumammedi Nasruddaulo filio Abulhigja, f. Hamadani, & certam ei pecunie summam imposuit, quam in singulos annos afferret. ajunt tamen quidam id factum fuisse anno 318.*

*Anno 320 occisus fuit Muçtadirus Billa. idque hoc modo accidit. Maunasus Mutaffarus intellexerat, Muçtadirum cogitare de eo in carcerem conjiciendo. itaque iratus ascendit Mauslam, eamque occupat, & collecto exercitu, contendit Bagdadum. at Muçtadirus eum oppugnatum prodit, commissoque praelio, à Barbaris aliquot cingitur; quorum quidam eum occidit, capite truncat, & vestibus spoliat: caput autem mox fert ad Maunasum. Cum autem Muçtadirum prateriret Scytha quidam, pudendum ejus crassa tela operuit, & deinde sepulchrum ei fodit, eumque sepelivit. Occisus fuit hora quarta diei Mercurij, qui vigesimus octavus erat Sjewali, ut imperaverat annos viginti quatuor, menses undecim, & dies quatuordecim: annumeratis etiã duobus diebus, & tribus noctibus, quibus bis imperio depositus fuit; succedente ei, priori vice, filio Mutazzi, altera autem, Cahero, sicuti ante commemoravimus. Annos natus erat 38, mensem unũ, & dies quinq;. Quod ad formam ejus attinet. me-*

Cœpit 13 Januarij. A. C. 932

Muçtadiri cades.

Actas. Forma.

*diocri fuit statura, pulchra facie, candidus, sed rubedine tinctus, egregia proportione & oculis, rotunda facie, multa caniciei in capillis,*

Natura.

capillis, & barba. Fuit autem vir insignis, multi jejuni, & eleemosyna, & Chalifatui prefectus, atate adhuc puer, res tamen magnas gessit. Scribasque, Gubernatores, & Consiliarios multos constituit. Caterum negotia ejus magnam partem administrant mulieres & puella, ita quidem ut puella quadam ejus, cui nomen erat Iameca, vacaverit facinoribus dijudicandis, & advocata ferè fuerit à Iudicibus, &

Qua rara eius tempore contigerint.

Doctores. Contigerunt autem ejus tempore quaedam quae nunquam ante contigerant. qualia sunt, quod viginti quinque annis Chalifatui praesuerit, id quod nemini ante eum contigit. quod duodecim Consiliarios creaverit, & quod peregrinatio Meccana cessaverit, ex quo scilicet Abutaberus Meccam erat ingressus, & lapidem nigrum sustulerat. Ajunt quoque eum donatione alienasse plura quam septuaginta mille aureorum millia: quod plus est quam coraserat Rasjidus. Quin & largitus est hominibus gemmas Chalifatui, & thesauros ejus, quibus antecessoribus ejus ne in mentem quidem venit ut liberalitatem exercerent, cum thesaurum in ijs sperarent. Gemmas, inquam multas distribuit, & majorem quidem earum partem puellis: unguenti etiam & zibethi plura quàm 63 grana puellis, & alijs distribuit. Consiliarij ejus fuerunt Abbas fil. Haseni, Hasenus f. Farati tribus vicibus, Muhammed f. Abdalle f. Chacani, Alis f. Isae, bis, Hamidus f. Abasi, Casamus Chacanus, Ahmed f. Abdalle f. Suleimanis f. Wahebi, & Fadlus f. Gjasaris f. Alcarani. Iudices, Iosephus fil. Iacobi, hinc filius ejus Muhammed, deinde Abdalla f. Abusjavaribi, post filius ejus Muhammed f. Ahmedis, f. Ishaci Bahlulus, deinde Omar fil. Muhammedis, f. Iosephi, hinc Hasenus f. Alis, & tandem Omar f. Haseni, f. Abusjavaribi. Ianitores Sausus servus Muetafis, Nasrus Casureus, Iacutus Mutadideus, & Ibrahimus fil. Muham-

Officiales.

medis fil. Rajci. \*Symbolum sigilli ejus. Laus Deo, cui nulla res est similis, quique creator omnium rerum est. Chronologus ait finitum fuisse imperium ejus, cum elapsi essent anni Hegirae trecenti & novemdecim, menses novem, & dies viginti octo, anni autem solares mundi, sex mille, quadringenti, & viginti quatuor, & dies sexaginta quatuor.

Symbolū.

رأسه ولحيته وكان كريما كثير  
الصوم والصدقة ولي الخلافة وهو صغير  
السن فدبر الامور الكبار والكتاب  
والامرا والوزرا وغلب امره النساء  
والجوارى حتى ان جارية له كان  
اسمها يمك تجلس للظالم ويحضرها القضاة  
والفقهاء وكانت في ايامه امور لم يكن  
مثلا منها انه ولي خمس وعشرين سنة لم  
يكن مان قبله ومنها انه استوزر اثني عشر  
وزيرا ومنها ان الحج بطل في ايامه من  
حين دخل ابو طاهر مكة وقام الحجر  
الاسود \* ويقال ان المعتذر يترك  
قبضه وسبعين الف دينار وذلك  
اكثر مما جمعه الرشيد وبدل للناس  
من جواهر الخلافة ودخايرها ما لم تسمح  
به نفس احد من الخلفاء من تقدمه  
وطمع فيه خزانه ففرق جواهر كثيرة  
واكثر ذلك فرقه علي الجوارى  
وفرقت من الطيب والغالبه نيف وستين  
حبا علي الجوارى وشهرهن \* وزراوة  
العباس بن الحسن وعيل بن الفرات  
فائذ وقعات ومحمد بن عبد الله بن خاقان  
وعلي بن عيسى وقعتين وحامد بن  
العباس والقاسم الخفاني واحمد بن عبد الله  
بن سليمان بن وهب والفضل بن جعفر  
بن القران قضائه يوسف بن يعقوب ثم ابنه  
محمد ثم عبد الله بن ابي الشوارب ثم ابنه  
محمد بن احمد بن اسحق البهاول ثم عمر  
بن محمد بن يوسف ثم الحسن بن عيل  
ثم عمر بن الحسن بن ابي الشوارب حجاب  
سوس مولي المكنفي ونصر القسوري  
وياقوب المعتضدي وابراهيم بن محمد بن  
رايق \* نقش خاتمه الحمد لله الذي  
ليس كمثل شي وهو خالق كل  
شي \* قال المورخ وكان انقضا  
ملكته لثمة ثلثمائة وتسع عشرة سنة  
وتسعة شهور وثمانية وعشرين يوما للهجرة  
ولتمام ستة الف واربع مائة وعشرين سنة  
واربعة وستين يوما شمسبة للعالم



والذي ورد تواريخ النصراني  
في خلافة المقتدر بالله ان كنيستهم  
التي تسمى القميشا بالاسكندرية وهي  
الهيكل الذي بنته اكلابطرة على  
اسم رجل احترقت يوم الاثنين ثالث  
شوال سنة ثلثمائة للهجرة

وفي سنة احدى وثلثمائة قدم  
البطرك ابنا عبريال في السنة السابعة  
من خلافة المقتدر اقام احدى عشرة سنة  
وتنبح في حادي وعشرين امشير وقبل  
انه احدث الديارية على الرجال والنساء  
قال وفي سنة احدى عشرة وثلثمائة قدم  
قسما بطركا لليعاقبة علي الاسكندرية  
اقام اثني عشرة سنة ومات

قال وفي سنة تسع وثلثمائة مرض  
لاون ملك الروم واشرف على الموت  
قا حضر نيقولاوس البطرك الذي كان  
فغاه عن كرسيه واعاده الي كرسيه  
وتحلل منه وعزل او ثيمپوس الذي جعله  
عوضه فضي الي بعض الديارة اقام سنتين  
ومات وبعد ذلك مات لاون ملك الروم  
وملك بعده اخوه الاسكندروس على  
الروم سبع سنين ومات

قال وفي هذه السنة ثار المسلمون بدمشق  
واحرقوا كنيسة مرهم وكانت كبيرة  
حسنة ونهبوا منها اواني ذهب وفضة  
ونحاس والآت بجلة عظيمة ونهبوا دير  
النساء الذي الي جانب الكنيسة وشعثوا  
كنايس البعاقبة والنساطرة يوم السبت  
نصف رجب سنة اثني عشرة وثلثمائة  
حاشية

قال المورخ وقع منال هذه الواقعة  
في اواخر رمضان سنة ثمان وخمسين  
وسقاية عند هروب التمر من دمشق بعد  
كسرتهم بعين حالود في ايام الملك  
المظفر وقتل كيبوغا مقدمهم

وفي سنة ثلاث عشرة وثلثمائة كتب  
الوزير عبد الله بن محمد بن خاقان الي  
علي بن عيسى وكان بمكة بان يسير الي  
مصر ويشكف احوالها فدخل القسطنطينية  
مستهل رجب سنة ثلاث عشرة وثلثمائة

*Narrant Christianorum historia, du- Templum  
rante Chalifatu Muṭadiri, templum Alexandrinum ar-  
eorum Camsja dictum, delubrum nempe det. lege  
illud quod Cleopatra edificaverat, Alex- القساييد  
andria conflagrasset, die Luna, qui Caesarea, ut habet Eu-  
terius erat Sjewali, anno Hegira trecent- tychius Tom. 2. p. 502.*

*Anno 301 constitutus est Patriarcha Patriarch.  
Abuna Gabriel, anno septimo Chalifatus chuz.  
Muṭadiri; seditque annos undecim, &  
obijt die vigesimo primo Amsjiri. atque  
hic edificasse dicitur monasteria viris &  
mulieribus.*

*Eodem anno trecentesimo primo consti-  
tutus est Cosma Patriarcha Iacobitarum,  
Alexandria, qui cum annos sedisset duode-  
cim, vita excessit.*

*Anno 309 agrotavit Leo Romanorum Leonie  
Imperator: cumque propinquus morti esset, Imperat.  
adesse iussit Nicolaum Patriarcham, quem Romani  
cathedra sua expulerat, eumque in locum moribus,  
suum restituit, deposito Euthymio, quem ei  
suffecerat. abijt q. Nicolaus in monasterium  
quoddam, in quo cū duos fuisset annos, obijt.  
deinde vita excessit Leo Imperator, & obitus.  
succesit ei frater ejus Alexander, qui cum  
septem imperasset annos, mortuus est.*

*Eodem anno Muslimi tumultum excita- Muslimi  
runt Damasci, & combusserunt templum feviunt in  
Mariae, quod magnum erat, & pulchrum; Christianos Da-  
ac diripuerunt vasa ejus aurea, argentea, masci.  
& aenea, aliaque instrumenta plurima.  
Diripuerunt quoq. monasterium femina-  
rum, quod à laterē illius templi erat: &  
diruerunt templa Iacobitarum, & Nesto-  
rianorum, die Sabbathi, medio Regjebi,  
anno 312.*

## Annotatio.

*Chronologus ait idem quoque accidisse  
in fine Ramadani anni sexcentissimi quin-  
quagesimi octavi, cum Tatarī Damasco  
aufugerent, & fusi essent Ainhalodi, re-  
gnante Mutaffaro, ac Dux eorum Keibugas  
interfectus esset.*

*Anno trecentesimo decimo tertio scri- & in Ae-  
psit Consiliarius Abdalla f. Muhammedis f. GYP<sup>to</sup>.  
Chacani, ad Alim f. Isa, qui Mecca erat, ut  
in Aegyptum veniret, negotia ejus ordina-  
tum: & ingressus Fustatam, initio mensis  
Regjebi, anno trecentesimo decimo tertio,  
negotia*

*negotia ejus ordinavit, atque imposuit monachis, Episcopis, & egenis tributum, qui & id solverunt. sed profecti quidam ex monasterijs in Iracam, levamen petiverunt à Muftadiro Billa: qui scripsit, ne sumeretur à monachis, Episcopis, & pauperibus tributum, sed relinqueretur ijs privilegium, ab Auctore vocationis ijs concessum.*

Cometa.

*Eodem anno apparuit in Aegypto stella quaedam magna, radios habens, & scintillas eiciens; ac sequebatur eam flamma magna, terribilis in aëre, valde rubicunda, tendens à septentrione in orientem, hastas circiter triginta longa, & lata duas, ac torta, instar serpentis; idque post occasum solis, die Mercurij, 24 Gjumadae posterioris: cum autem durasset tres horas, extincta est.*

Annotatio.

Alius.

*Chronologus ait idem contigisse in Rabio priori anni 675, qua stella quoq; apparuit magna, radios habens, & scintillas eiciens, quamque tres flammæ sequebantur, idque hora 4 noctis, qua lucida erat, diei instar.*

Expeditio Romano- rum contra Muflimos.

*Anno 314 ceperunt custodes ostiorum Nili cata scopium quoddam, in quo vir erat indutus veste serica, qua decem aureis aestimabatur; qui, cum examinaretur, confessus est, exploratorem se esse: hostemque adventurum, cum mille navibus militaribus. unde Gubernator ilico advocavit artifices, qui suaserunt obstructionem stationum navium, inter Alexandriam, Damiatam, & Rasjidum. factæque sunt turres, & impositæ rotis ferreis, mobilibus. cum autem turris una absoluta esset, jamque in structura secunda versarentur, ecce tempestas navem quandam, de navibus Romanorum, in litus eiecit, ex qua duo egressi viri significarunt, Imperatorem jam ante annum, exploratū in Aegyptum misisse quendam suum propinquum: & constitit ilico, eum fuisse virum illum, qui inventus fuerat in cata scopio illo. Ajunt autem tempestatem exortam in classē illam Romanam, plures quam trecentas ejus naves militares perdidisse, omnibus qui in ijs erant pereuntibus; reliquas domum reversas esse. Muflimi a. interim in structura illa turrium pergebant. sed cum vehemens exortus ventus primā illam turrim fregisset,*

فكشف احوال البلد واخذ الرهبان والاساقفة والضعفا بادا الجزية فاخذت منهم وخرج قوم من الديارات الى العراق واستغاثوا الي المقتدر بالله فكتب ان لا يؤخذ من الرهبان والاساقفة والضعفا جزية ويجري على العهد الذي قرره صاحب الدعوة.

وفي هذه السنة ظهر كوكب عظيم له شعاع وشرار يتبعه شهاب كبير هائل بالجو شديد الحرارة واخذ من جهة الشمال الي نحو الشرق يكون تقدير طوله قريبا من ثلاثين رمحا وعرضه قريبا من ربعين معوج كالحية وكان ذلك من غروب الشمس يوم الاربعاء لخمس بقين من جمادى الاخرة اقام ثلاث ساعات وانطلقا \*

حاشية

قال المورخ ان وقع مثل ذلك في امر الكوكب الذي طلع في ربيع الاول سنة خمس وسبعين وستماية وظهر كوكب عظيم له شعاع وشرار يتبعه ثلاثة شهب وكان ذلك الرابع من الليل وكان يضي مثل النهار.

قال وفي سنة اربع عشرة وثلاثماية مسك شيوخ الدروب فاعلا في وسطه رجل عليه ثكبة حريم قيمتها عشرة دنانير فقروه فاقر انه جاسوس واخبر ان العدو واصلبن في الف قطعة مقاتلة وللوقت احضر الناييب المهندسين فاشاروا بسد الامر بسببة بين اسكندرية ودمياط ورشيد فعملت ابراج قائمة علي بكرات حديد ثم حفر فعمل البرج الاول وشرعوا في الثاني وادا الهوا رمي مركبا من مراكب الروم فطلع منه رجلان واخبروا ان الملك سهر بعض قرابينه جاسوسا الي مصر من مدة سنة فعلم انه ذلك الرجل الذي كان في القاعل وذكر ان الهوا طلع على مراكب الروم وانكسر منها اكثر من ثلاثماية قطعة وهلك كلن فيها فرجع البقية الي بلادهم واستمروا علي الاهتمام بعمارة الابراج فقوي الهوا علي الاول فافسخته

B b 3

atque



واسقطه فبطلوا عمل الابراج وكتب  
النائب بمصر الى الشام ويستدعي  
الجيش الى مصر

وفي سنة سبع عشرة وثلثمائة وقع بمصر  
من الجراد ما لا يوصف كثرتة حتي انه  
منع شعاع الشمس ان تقع على الارض  
واكل الكروم والفواكه والغلال  
وفي سنة تسع عشرة وثلثمائة مات  
الاسكندروس ملك الروم وملك بعده  
قسطنطين بن لاون وهو بن ثلاث وعشرة  
سنة وكانت امه تدبر المملكة واسمها  
اوغسطه وسير ملك البرغر الي قسطنطين  
ملك الروم يخطب اخته لابنه فلم يجبه  
الي ذلك فوقع بين الروم وبين البرغر  
حروب كثيرة فنظر نيقولاوس البطرك  
افصال الحروب وخاف ان يتعاونوا فاشار  
ان يكون رمانس مقدم العسكر مع  
قسطنطين ملك الروم في تدبير المملكة  
وان يثروج قسطنطين ابنة رومانس  
ويكون اخر سطفورس معهم ايضا في  
تدبير المملكة ففعلوا ذلك واروج  
رومانوس ابنته الاخرى اخت التي  
تزوجها قسطنطين ملك البرغر وهدى  
الحرب بينهم

atque evertisset, structuram desolaverunt.  
Gubernator autem Aegypti in Syriam  
scripsit, & copias aliquot in Aegyptum ve-  
nire iussit.

Anno 317 tanta locustarum multitudo  
in Aegypto fuit, ut radij solares terram  
attingere nequirent, & consumpserunt vi-  
neas, fructus, atque frumenta.

Locustae in  
Aegypto.

Anno 319 obiit Alexander Imperator  
Romanorum, & successit ei Constantinus  
filius Leonis, puer tredecim annorum, cu-  
jus mater, nomine Augusta, regnum admi-  
nistravit. Et misit Bulgarorum Rex ad  
Constantinum Imperatorem, ut sororem  
suam desponderet filio ejus: quod cum ei  
recusavisset, praelia multa commissa sunt,  
à Romanis, & Bulgaris. Videns autem Ni-  
colaus Patriarcha vehementiam praelio-  
rum, & metuens ne sese mutuo perderent,  
auctor fuit, ut Romanus, Praefectus exerci-  
tus, in Imperatorem Romanorum Constanti-  
no adjungeretur, & ut Constantinus duc-  
ceret filiam Romani in uxorem, Christo-  
phorus autem una cum illis imperium ad-  
ministraret. atque id factum fuit. & de-  
dit Romanus filiam suam alteram, sororem  
ejus quam duxerat Constantinus, Regi  
Bulgarorum in uxorem. atque ita quievit  
inter eos bellum.

Alexandro  
Imperatori  
Romano-  
rum succe-  
dit  
Constantinus.

Romanus



## CAPVT VIGESIMVM.

التاسع عشر من الخلفاء وهو الامير يعون  
القاھر بالله ابن المنصور محمد  
بن المعتضد بن الموفق بن  
المتوكل \*

Decimus nonus Abbasida-  
rum, & Chalifa quadragesimus  
MVHAMMED ABVLMAN-  
SOR KAHIRVS BILLA fi-  
lius Mutadidi, f. Muaffici,  
f. Mutewakkeli.

ام ولد يقال لها فنون  
بويج له بالخلافة ببغداد  
وامه  
لليلة بقت من شوال  
سنة عشرين وثلثمائة  
وفي سنة احدي وعشرين وثلثمائة  
قبض القاھر بالله على ابن اخيه احمد  
بن المكتفي واقام في بيت وسد عليه  
بالاجر والجبس ثبات \* وفيها توفت  
ام المقدم بالله وكان القاھر قد



MATER ejus genitrix appel-  
lata fuit Fenuna. Creatus est  
Chalifa Bagdadi, 28 Sjewali,  
anno 320.

Anno 321 prehendit Cahirus Billa fi-  
lium fratris sui Ahmedem fil. Muçtasis,  
qui in domum quandam immisus, obstru-  
ctâ lateribus & gypso janua, præ dolore  
expiravit. Eodem quoque anno obiit ma-  
ter Muçtadiri Billa. Cahirus enim cum  
pecuniam

Cœpit 1  
Januarij.  
A.C. 933.

Cahiri cru-  
delitas.

pecuniam ab ea peteret, neque ipsa ei indicaret nisi centum aureorum millia, manu sua eam percussit, multisque tormentis afflixit, & suspendit, capite in terram demisso, ita ut urina ejus totum ejus corpus perflueret. Illa autem ei dixit, Ego mater tua sum, secundum scripturam Dei, teque vice prima à filio meo liberavi: affligis autem me hoc tormento, cum nihil pecunie mihi sit reliquum. At Cahirus testatus est contra eam, de venditione regni ejus, testes duos. Deinde, post hæc omnia, illa obiit.

Eodem etiam annoprehendit Cahirus Governatorem Alim f. Telici, & Maunsum Mutaffarum, eosque occidit, quod intellexisset, eos hoc agere, ut ipsum prehendarent.

Iakinus  
Gubernator  
Aegypti  
mori-  
tur.

Vita quoque excessit eo anno Iakinus Hararans, Prefectus Aegypti, cui Cahirus prefecit Abubecrum Muhammedem filium Taagi, cognominatum Achsjidum, & deinde, hoc deposito, Ahmedem f. Keigalagi.

Cœpit 22  
Decemb.  
A.C. 933.  
Cahirus  
deponitur.

Anno 322 imperio depositus fuit Cahirus, idque in hunc modum factum est. Insurrexerunt contra eum milites, & equis ad domum ejus vecti, per omnes portas eum adorsi sunt: is autem fugit in tectum balnei cujusdam, atque ibi sese abscondidit; sed illi nacti eum sunt, & prehensum in carcerem conjecerunt, quendam custodia ejus preficientes. Hinc direptum fuit Bagdadum. Facto autem die Mercurij, sexto Gjumada prioris, Chalifatu depositus fuit, cum imperasset annum unum, menses sex, & dies septem: & Chalifa creatus est Ahmed f. Muçtadiri Billa, qui cognominatus fuit Arradis Billa. primusque eum Chalifam salutavit ipse Cahirus: qui in arce imperiali mansit, donec eum ejecit Muttakis, in Rabio posteriori, anni 333, quo domum suam reverti eum jussit: ubi cum aliquamdiu mansisset, templum adiit, die Veneris, & stans significavit populo quis esset, petijtque ab eo eleemosynam. Astans autem ei filius Abumusæ Hasjemans dedit ei mille stateres. quin narrat quidam dicens. Eram in templo Almanforis, die quodam Veneris; & ecce homo quidam indutus toga rubra, cujus pannus exterior jam consumptus erat

Mendicat.

طلبها بالاموال فلما تقر له الا بماية الف دينار فضربها ببدنه وعذبها بانواع العذاب وعلقها منكبته حتى كان مجري هولها على جميع جسدها وهي تقول له ادا امك في كتاب الله وانا خلصتك من ابي في الدفعة الاولى وتعاقبني هذه العقوبة ولم يبق عندي مال فاشهد عليها القاهر ببيع ملكها شاهدين ثم ماتت عقيب ذلك

وفي هذه السنة قبض القاهر بالله على الامير علي بن يلبق وموسى المطرف فقتلهم لانه بلغه عنهم تدبيرهم في القبض عليه

وفي هذه السنة توفي يكر بن الحريري امير مصر فولاه القاهر ابا بكر محمد بن طنج المعروف بالاخشيدي ثم عزلهم ولاها احمد بن كبلنج

قال وفي سنة اثنتي وعشرين وثلاثماية كان خلع القاهر وذلك ان الجند شعنوا عليه وركبوا اليه داره فهجموا عليه من ساير الابواب فهرب القاهر الي سطح حمام واستتر فيه فطفروا به وقبضوا عليه وحبس ووكل به من يحفظه ونهبت بغداد يومئذ ولما كان يوم الاربعاء لست خلون من جمادى الاولى خلع من الخلافة وشملت عيناه فعمي وارترك منه امر عظيم لم يسمع بمثله فكانت خلافته سنة واحدة وستة اشهر وسبعة ايام وبويع بالخلافة لاحمد بن المقدمر بالله ولقب الراضي بالله واول من سلم عليه بالخلافة القاهر ولم يزل القاهر مقيا في دار السلطان الي ان اخرجته المتقي في شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماية وورده الي داره واقام مدة وخرج الي الجامع يوم الجمعة وقام يعرف الناس بنفسه وطلب منهم صدقة فاقام اليه بن ابي موسى الهاشمي واعطاه الف درهم وحكي بعضهم قال كنت في جامع المنصور في يوم جمعة واد ابا نسان عليه جبة عباقي قد ذهب وجهها وبقيت بطانتها وبعض القطن

subdicti-



وهو يقول ايها الناس تصدقوا علي  
بالامس كنت خليفتمك وانا اليوم من  
فقرايكم قال وكانت وفاته في ايام  
المطيع لله ليلة الجمعة لثلاث خلون من  
جمادى الاولى سنة تسع ثلاثين وثلثمائة  
ودفن في دار بن طاهر وكان عمره  
انتي وخمسين سنة \* وسبرته كان ظالما  
سبي الرأي اخرج سفاكا للدماء قبيح  
السياسة محبا لجمع المال \* وهرزاهه علي بن  
مقله ثم محمد بن القاسم بن عبد الله ثم احمد  
بن عبد الله الحصي حجابته علي بن يلقف  
ثم سلامة الطولوني

قال المورخ مدة خلافته سنة واحدة  
وستة اشهر وخمسة ايام اولها يوم الخميس  
واخرها يوم الاربعاء لثمة ثلثمائة واحدي  
وعشرين سنة ومائة وثلاثة وعشرين يوما  
للهمزة ولتمام ستة الف واربعمائة  
وخمس وعشرين سنة وماي  
ومائة وثلاثين يوما  
شمسبة للعالم

*subductitius autem, cum parte aliqua gos-  
syij reliquus, dicebat, O homines eleemo-  
synam mihi date, fui ego nuper Chalifa ve-  
ster, nunc autem sum unus pauperum ve-  
strorum. Obijt tempore Mutij Lilla, die  
Veneris, tertio Gjumada prioris, anni 339,  
& sepultus est in adibus filij Taheri, annos  
natus 52. Ad naturam ejus quod attinet.  
Iniquus fuit, pravi consilij, temerarius,  
crudelis, mali regiminis, & collectioni pe-  
cuniae studens. Consiliarij ejus fuerunt Alis  
f. Mucla, deinde Muhammed f. Casami f.  
Abdalla, & hinc Ahmed f. Abdalla Hafa-  
naus. Ianitores, Alis f. Ialici, & deinde  
Salamas Tulumens.*

Ejus obi-  
tus.


Natura.

Officiales;

*Chronologus ait eum imperasse annum  
unum, menses sex, & dies quinque, quorum  
initium dies fuit Iovis, finis Mercurij,  
elapsis annis Hegira trecentis & viginti  
uno, & diebus centum & triginta tribus,  
annis autem solaribus mundi sex mille,  
quadringentis, & viginti quin-  
que, & diebus ducentis &  
triginta octo.*

Imperium;

## FINIS LIBRI SECUNDI.






# SARACENICÆ HISTORIAE

Liber Tertius,

DE

*Imperij Saraceni distractione.*

CAPVT PRIMVM.

*Vigefimus Abbasidarum,*   
Chalifa quadragesimus primus AH-  
MED ABVLABBAS ARRADIS  
BILLA f. Muftadiri, f. Mu-  
tadidi, fil. Mu affici, fil.  
Mutewakkeli.

العشرون من الخلفاء العباسيين وهو  
الحادي والاربعين الراضي بالله  
ابو العباس احمد بن المقتدر  
بن المعتضد بن الموفق  
بن المتوكل \*



AT FR ejus geni-  
trix dicta fuit Ta-  
luma. Creatus est  
Chalifa eodem die  
quo imperio deposi-  
tus fuit patruus ejus  
Cahirus, die videli-  
cet sexto Gjumada prioris, anni 322: &

Consiliarium suum constituit Abualim f.  
Mucla, ac dimisit omnes illos qui in car-  
cere Cahiri detinebantur.

Mahadis  
Rex Afri-  
canus obit.

Eodem anno vita excessit Abdalla Abu-  
Muhammed Mahadis, Fatimides, qui re-  
rum potitus erat Cairawani, cujusque  
imperij initium jam ante explicuimus.  
Obijt autem decimo quarto die Rabij prio-  
ris, cum imperasset annos viginti qua-  
tuor, menses tres, & dies sex, atque annos  
natus esset quinquaginta tres. Mortuo  
autem Mahadi creatus est Chalifa, Ma-  
hadia, Casamus Abuabdalla Caymus Bi-  
amrilla, filius Mahadis, avus Muazzi  
Lidinilla, Domini Aegypti.

Succedit  
ei Caji-  
mus.

ام ولد يقال  
لهما طلوم بويج له  
بالخلافة في اليوم  
الذي خلع عمه  
القاهر ذلك لست  
خلون من جمادي



الاولي سنة اثنتي وعشرين وثلاثماية  
واستون ابا يعلى بن مقله واطلق  
كلن كان في حبس القاهر  
قال وفي هذه السنة توفي المهدي  
ابن محمد عبد الله الفاطمي المتغلب  
بالقيروان وقد ذكرنا ابتدا امرة  
وكان وفاته لاربع عشرة ليلة مضت من  
ربيع الاول وكانت مدة خلافته اربع  
وعشرين سنة وثلاثة اشهر وستة ايام وعمره  
ثلاثين سنة ولما توفي المهدي بويج  
بالخلافة بالمهدية ولده القائم بامر الله  
ابن عبد الله القاسم بن المهدي وهو جد  
المعز لدين الله صاحب مصر

Cc

Origo



ابتدا دولة بني بويه \*

كان بويه صيادا ضعيفا من الديلم ويكنى ابا شجاع وتشبه ما ذكر ينتهي الي سابور ذي الاكتاف الملقب كرمان شاه بن سابور بن اردشهر ملك الفرس وبين بويه هذا وبين حيدر مرت الذي هو عند الفرس آدم عليه السلام تسعة وتسعين جبلا وكان لبويه ثلاث اولاد ابن الحسن علي وابن علي الحسن وابن الحسن احمد فخذوا اجنادا وترقت حالهم الي ما كان وكنا ذكرنا مردوايچ ملك الديلم وما انتهى اليه امره وانضمام عماد الدولة ابي الحسن علي بن بويه اليه ثم خروجه بعد ذلك عليه ثم ان عماد الدولة بعد ذلك ملك همدان واصبهان وقوي امره ثم سار الي كازرون بلد سابور فلكها وقوي امره وقويت شوكته وكنا قد ذكرنا في سنة خمس عشرة وثلثمائة مسيره وسمكن اخي مردوايچ الي اصفهان وترحله عماد الدولة بن بويه عنها وبعد ذلك ورد كتاب من القاهر بتقليد مردوايچ علي الري ومرقب وزنجان وابهر علي ان يفرج له عن اصفهان فاجاب الي ذلك مردوايچ وامر اخاه بالرحيل عن اصفهان فبينما مردوايچ علي ذلك ان ورد عليه الخبر بخلع القاهر وخلافة الراضي فرد اخاه الي اصفهان وجهر اخاه وسمكن الي الري والاهواز وفارس ثم انه عزم علي مناجرة عماد الدولة بن بويه فرأي قومه وكثرة جيوشه فاحجم عن ذلك وصالحه علي انه يخطب له جميع اعماله بشرط انه يسير اليه رهينة تكون عنده

قال وفي سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة كان مقتل مردوايچ ملك الديلم وذلك انه وثب عليه جماعة من غلانه في الحمام فقتلوه علي غلته من اهله ثم هربوا فلم يظفروا بهم وخلص الله المسلمين من مردوايچ لانه كان ظالما شجاعا مقداما سيحا

Origo Nobilitatis filiorum Bojæ.

*Fuit Bojæ piscator pauper, Dailamus, vixitque primum venatione piscium, cognominatus Abusjugjais, & videtur, uti ajunt, genus ducere à Saburo Dulactaso cognominato Kirmansjaho filio Saburi, f. Ardsjiri Regis Persarum. atque inter hunc Bojam & Hajurmaratum, qui Persis est Adam f. m. generationes fuerunt centum. Habuit autem Bojæ filios tres, Alim Abulhasenum, Hasenum Abualim, & Ahmedem Abulhasenum: qui ministrabant militibus, adeo vilis erant conditionis. Commemoravimus autem supra quomodo Mardawigus ad imperium pervenerit, atque ei se adjunxerit Alis Abulhasenus Amaduddaulas fil. Bojæ, & quomodo hic contra illum deinde rebellaverit. Postea cepit Amaduddaulas Hamadanam, & Isfahanam, crevitque imperium ejus: & adijt Cazerunam urbem Sabura, eaque est potitus, & imperio atque viribus auctus. Diximus quoque cum ageremus de anno 315; Wasmakinum fratrem Mardawigi adijisse Isfahanam, atque abegisse ab ea Amaduddaulam, f. Bojæ. Deinde autem allata sunt litera à Cahiro, quibus Mardawigo obtulit Rajam, Marcabam, Zangjanam, & Abharam, ea lege ut is ipsi relinqueret Isfahanam: quam conditionem accipiens Mardawigus, jussit fratrem suum discedere Isfahana. Cumque in eo jam esset, ecce nuncius venit, de Cahiri depositione, & Chalifatu Arradis; itaque fratrem suum ilico remisit Isfahanam. ablegavit quoque eum Rajam, Ahwazam, & in Persidem. Deinde statuit fortiter oppugnare Amaduddaulam f. Bojæ. verum cum populum ejus considerasset, & multitudinem copiarum ejus, institutum mutavit, & pacem cum eo fecit; ea lege, ut relinqueret ei omnes ditiones ejus, isque ei pignus mitteret.*

*Anno 323 occisus fuit Mardawigus Dailamorum Imperator. idque hoc modo accidit. Irruerunt in eum aliquot ejus servi, in balneo, eumque occiderunt, negligentibus eum suis, & in fugam se dederunt, neque prehensi sunt. Atque ita Deus liberavit Muslimos à Mardawigo; qui iniquus erat, strenuus, & audax, pronus ad illicita;*

Bojæ genus.

Liberi:

Mardawigus.

Cum Amaduddaulo pacem facit.

Moritur. Cœpit 11 Decemb. A.C. 934.

illicita; & deditus paganismo, uti ajunt, quod an verum sit, Deus novit.

Abutaher-  
rus.

Eodem anno exijt Abutaberus Caramita Princeps Hagjaræ contra peregrinantes, & magna eos clade affecit, ac spoliavit, & incolumis reversus est.

Saifuddau-  
las.

Eodem quoque anno tradidit Imperator Hasenus Abumammed Nasiruddaulas filius Abdalle, f. Hamadani, fratri suo Abulhaseno Saifuddaulæ Majafarikinam, & Diarbecam. Et eodem etiam anno abijt Abubecrus Achsjidus f. Taagi, qui Syria potitus erat, in Aegyptum, eamque ingressus est, mense Ramadano, & subjugavit quoque, ita ut Aegyptum simul & Syriam possideret.

Achsjidus

Cœpit 30  
Novemb.  
A.C. 935.  
Filius Rai-  
jici consti-  
tuitur Im-  
perator.

Anno 324 ad se venire jussit Arradis Billa Imperatorem Muhammedem f. Rajici, qui Wasiti erat, atque ibi dominabatur; cogente ad id eum necessitate, propter perturbationem imperij, & ineptitudinem Consiliarij ad eam dignitatem. Venit itaque filius Rajici Bagdadum, & constituit eum Arradis Imperatorem Imperatorum, commisitque ei administrationem regni, & jussit eum pro se concionari, super suggesto. induit quoque ei vestem dignitatis; ac dedit ei vexillum. Venit autem Bagdadum vigesimo quinto Dulhiggia, & Scribam constituit Ahmedem f. Alis, Cus eum; curavitque ea omnia quæ curare soliti erant Consiliarij. Atque ab eo tempore dignitas Consiliarij Bagdadi obsolevit, neque remansit nisi nomen ejus; potestas autem omnis cecit Imperatoribus, qui rerum potiebantur. atque id duravit, donec florere desierunt Salgjuki, Bagdadi.

Cœpit 19  
Novemb.  
A.C. 936.

Distractio  
Imperij.

Ineunte itaque anno 325 mundus in manibus erat Principum, qui Imperio se ingesserant, & Reges terræ erant. Quicumque enim urbem aliquam nanciscebatur, Regem se ejus nominabat, alios omnes arcens. Erant g. Basra, Wasitum, & Ahwaza in manu Abu Abdallæ Baridæ, & fratrum ejus. Persia in manu Amaduddaulæ f. Bojæ, Dailami; & Wasmakini, fratris Mardawigi. Mausila, Diarrebba, & Diarbeca in manu filiorum Hamadani. Aegyptus, & Syria in manu Muhammedis Achsjidi, filij Taagi. Occidens, & Africa in manu Cajimi f. Mahadis,

للحرمات مبطناً لمذهب المجوس كما

ذكروا والله اعلم

قال وفي هذه السنة خرج ابن طاهر القرمطي صاحب هجر على الحاج فقتل منهم مقتلة عظيمة ونهبهم وعاد سالماً

وفي هذه السنة سلم الامير ناصر الدولة ابن محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان الي اخيه سيف الدولة ابن الحسن على مبافارقين وديار بكر \* وفي هذه السنة قدم الاخشيد بن طمع الي مصر وكان مغلبا على الشام فدخلها في رمضان وغلب عليها واجتمع له مصر والشام

قال وفي سنة اربع وعشرين وثلاثماية استدعي الراضي بالله الامير محمد ابن رايق الذي كان بواسط مغلبا عليها لان الضرورات التجأت الي ذلك لاضطراب الامر عليه ولضعف من يلي الوزارة عن القيام بها فقدم بن رايق بغداد وجعله الراضي بالله امير الامرا وفوض عليه قدبير المملكة وامر ان يخطب له علي المنابر وخلق عليه واعطاه اللوا وكان قدومه لخمس بقين من ذي الحجة واستكتب احمد بن علي ونظر فيها كان الوزير ينظرون فيه ومن ذلك اليوم بطل امر الوزارة ببغداد ولم يبق الا اسمها والحكم للامرا المتغلبين وبقي الامر كذاك الي ان انقرضت الدولتان الموبهية والسلجوقية ببغداد

ودخلت سنة خمس وعشرين وثلاثماية والدنيا في يد المتغلبين وهم ملوك الارض وكل من في يده بلد ملكه ومنع عنه \* البصرة واسط والاهواز في يد ابي عبد الله البريدي واخوته وفارس في يد عماد الدولة بن هوية الديلمي وسهكين اخي مردويج والموصل وديار ربعة وديار بكر في يد بني حمدان ومصر والشام في يد الاخشيد محمد بن طمع والمغرب واقربقبة في يد القائم بن المهدي



والاندلس في يد بني أمية وخراسان في يد نصر بن احمد الساماني واليمامة والبحرين وجزر في يد طاهر القرمطي وطرسستان وجرجان في يد الديلم ولم يبق في يد الخليفة وابن رايق غير بغداد وبطلت دواوين المملكة بالحصار ونقص لذلك قدر الخلافة وضعف ملكها وعمر الحراب لذلك وصارت الاموال تحمل الي خزائن الامرا فبامرون فيها ويطلقون النفقات السلطانية علي حكم اخبارهم وعطلت ببوت الاموال

وفي هذه السنة انحدم الراضي الي واسط وتبعه الامير محمد بن رايق لقتال ابي عبد الله البريدي ثم وقع الصلح بينهما علي ثلثمائة الف وستين الف دينار يجعلها في كل شهر ثلاثين الف دينار وان يسلم الجيش الذي معه الي من يومر بتسليمه اليه ثم عاد الراضي وابن رايق الي بغداد ثم توجه ابن عبد الله البريدي الي البصرة ملكها واستولي عليها

وفي هذه السنة دخل ابي طاهر القرمطي الي الكوفة ووقع الاتفاق بينه وبين رايق علي ان يحمل الي القرمطي كل سنة من بغداد مائة وعشرين الف دينار

وفيها سبر ابي بكر بن رايق بحكم التركي في جيش كئيف لقتال البريدي فهرب البريدي واستولي بن رايق علي البصرة والاهواز فصاهر البريدي الي عماد الدولة مستصرحا فبعث معه عماد الدولة اخاه معين الدولة احمد بن بويه لفتح الاهواز فحصنها بن رايق وضها ليحكم بشرط ان يحمل اليه كل سنة ثمانية وثلاثين الف دينار وفي سنة ست وعشرين وثلثمائة غلب الامير معين الدولة بن بويه علي الاهواز وبقيت البصرة بيد البريدي واستقر يحكم بواسط وجمع بن رايق اطرافه ببغداد

*Hispania in manu filiorum Omnia. Chorrasana in manu Nasri f. Ahmedis, Samanai. Iamama, Bahraina, & Hagjara, in manu Taheri Caramita. Tabristana, & Gjorgjana, in manu Dailamorum. neque mansit in manu Chalife, & filij Rajci quidquam, prater Bagdadum. & abolita sunt telonia regni: unde & potentia Chalifatus diminuta est, & debilitatum regnum; & rapinae viguerunt. Pecunia autem omnis portata est in gezophylacia Imperatorum, qui, pro libitu suo, de ea disponebant, & impensas imperiales omnes faciebant. ac evacuata sunt araria*

*Eodem anno descendit Arradis Wasitum (sequente eum Imperatore Muhammede f. Rajci) oppugnatum Abuabdallam Barideum. sed pacem deinde fecerunt, ea lege, ut Abuabdalla trecenta & sexaginta aureorum Chalife afferret millia, triginta scilicet millia singulis mensibus; utque eum, quem apud se habebat, exercitum, illi traderet, cui eum tradere juberetur. Hinc reversi sunt Arradis, & filius Rajci Bagdadum. at Abuabdalla Barideus deinde profectus Basram, eam cepit, & dominium ejus acquisivit.*

Barideus pacem redimit ab Arradi.

Rebellat.

*Eodem anno ingressus est Abutaherus Caramita Cufam, & pacem fecit cum filio Rajci, ea lege, ut quotannis Bagdado ad se afferrentur centum & viginti aureorum millia.*

Abutaherus.

*Eodem quoque anno misit Muhammed Abubecrus f. Rajci Iahcamum Turcam, cum numerofo exercitu, bello persequutum Barideum: qui cum in fugam se dedisset, nactus est filius Rajci Basram, & Ahwazam. Recepit autem se Barideus ad Amaduddaulam, opem ab eo petens. misitque Amaduddaulas cum eo fratrem suum Ahmedem Muinuddaulam, f. Boje, ad capiendam Ahwazam, quam filius Rajci muniverat, dederatque Iahcamo pro triginta octo aureorum millibus, in singulos annos.*

Iahcamus fugat Barideum.

*Anno 326 expugnavit Imperator Muinuddalas f. Boje Ahwazam. mansitque Basra in manu Baridei. & commoratus est Iahcamus Wasiti. filius autem Rajci vires suas collegit Bagdadi.*

Cæpit 8 Novemb. A.C. 937.

Eodem

Abualis  
f. Mucla.

Dextra &  
lingua mu-  
tilatur.

Moritur.

Ter sepe-  
latur.

Auctor  
fuit scrip-  
turae Ara-  
bicæ.

*Eodem anno iussit Arradis præcidi manum & linguam Abuali filio Mucla; quod ad Arradim scripsisset, uti prebenderet filium Raijci, & vocaret Iahcamum Turcam. Iudices itaque convocati, & hac de re consulti, censuerunt manum ei amputandam esse, quod Reip. detrimento stuidisset. itaque dextra ei abscissa est, & post aliquot dies lingua quoque. hinc diu mansit in vinculis, in loco quodam subteraneo arcis Imperialis. Ajunt autem illic apud eum fuisse puteum, cumque minister ei non esset, hausisse eum aquam manu sinistra, funem autemprehendisse ore suo. mortuus est mense Sjewalo anni 329, & sepultus in arce Imperiali. sed effossus deinde suis traditus fuit, & sepelivit eum filius ejus Abulhasenus, domi sue. Hinc uxor ejus illum effodit, & domi sue sepelivit. atque ita mortuus ter sepultus fuit. Ajunt autem eum, cum Consiliarius esset, septem ictibus percussisse filium Sibudi, Lectorem, propter lectionem inconcinnam ei visam, atq; illum imprecasse ei, ut manu mutilaretur: id quod contigit. Dicitur quoque, cum manus ei abscinderetur, dixisse, Manus hæc, qua tribus Chalifis ministravi, & Alcoranum descripsi, amputatur, tanquam manus latronis. Atque hic filius Mucla Auctor fuit celebris hujus scripturae. & primus traduxit scripturam Cufensem extraneam ad usum Arabum. sequutus autem eum est filius Bawabi, qui adjiciens aliquid, ad perfectionem eam perduxit. fecit autem Abualis hic bona carmina, quorum unum hoc est.*

Cum venerit mors ad tempus ei præfinitum, recede à dictis Medicorum.

Et si abierit in quo tu speraveras, spes is sit, qui fecit prudentes.

Nullum amarum in re ulla hominis amarius est amissione amicorum.

*Eodem anno contendit Iahcamus Turca Bagdadum. sed bellum ei intulit Muhammed Abubecrus f. Raijci, qui cum in fugam versus esset, cepit Iahcamus Bagdadum. Possederat, autem filius Raijci Imperatoriam dignitatem, annum unum, menses decem, & dies 16. & Iahcamus ingressus Bagdadum, dignitatis veste ab Arradi*

Iahcamus  
f. Raijci  
imperio  
pellitur.

وفي هذه السنة امر الراضي بقطع يد الوهبر ابي عيل بن مقله واسانه وسببه انه راسل الراضي علي القبض علي بن رايق واستدعا يحكم التركي فاحضرت القضاة واستفتوا فيه فافتوا بقطع يده لسعيه في الفساد في الارض فقطعت يده اليه وبعد ايام قطع لسانه وبقي مدة طويلة معتقلا في موضع غامض في دار السلطان ويقال انه كلفه درب ولا خادم له وكان يستقي الماء بده البصري ويمسك الخيل بقمه ومات في شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ودفن في دار السلطان ثم لبثت ودفن عيل الي اهله فدفنه ابنه ابو الحسن في داره ثم لبثت زوجته ودفنته في دارها فدفن ثلاث دفعات بعد موته \* ويقال انه ضرب بن مقله ابن سببوت القاري سبع درر في ايام وزارته لاجل قراة انكرت عليه فدعا عليه بقطع اليد وكان كذلك ويقال انه لما قطعت يده قال يد خدمت بها الخلفا ثلاث مرات وكتبت بها القران تقطع كما تقطع يد اللصوص وابن مقله هذا هو صاحب الخط المشهور وهو اول من نقل الخط الكوفي المولد الطريقة العربية الحسنة ومعانيها وجاء بعده ابن البواب فزاد في تعريبه وبلغ الغاية فيه ولاي علي بن مقله شعر جيد من جملته

ادا اتا الموت لميقانه فعد عن قول  
الاطبا \*

وان مضي من انت صب به فالصبر  
من فعل الالبا \*

ما مر بشي من بي ادم امر من فقد  
الاحبا \*

وفي هذه السنة قصد يحكم التركي بغداد فقاتله ابو بكر بن محمد بن رايق وانهزم بن رايق واخذ يحكم بغداد وكانت مدة اماره من رايق سنة وعشرة اشهر وستة عشر يوما ولما دخل يحكم بغداد خلع عليه الراضي



وسماه امير الامرا واستقر له الامر  
واسمكيب يحكم محمد بن يحيى  
بن شبرزاد تدبير الاحوال فقام مقام  
الوزير من غير تسمية الوزارة

قال وفي هذه السنة كانت هدية  
بين المسلمين والروم وحصلت المفاداة  
فخاص من الفريقيين خلق عظيم من  
الاسر

وفي سنة سبع وعشرين وثلثمائة خرج  
الراضي والامير يحكم واصحابه واقبل  
هو وناصر الدولة فانهم ناصر الدولة  
وتبعه يحكم الي الموصل ثم بلغ نصيبين  
ومضي ناصر الدولة علي وجهه الي امد  
وسار الراضي حتي وصل الموصل ونزلها  
فظهر بوبكر بن رايق ببغداد وكان  
مستترا بها فصالح يحكم ناصر الدولة  
بن حمدان علي ان يحمل اليه ناصر الدولة  
ثمماية الف دينار وعاد الراضي  
ويحكم الي بغداد وجرى بينهم وبين  
بن رايق مراسلات اخرها ان الصلح  
وقع علي ان يعطي بن رايق طريق  
الفرات وجند قنشرين والعوام

وفي هذه السنة حج الناس من  
طريق الفرات وكان الحج قد بطل  
بسبب القرامطة من سنة تسع عشرة  
وثلثمائة فمرل ابن طاهر القرمطي في  
هذا السنة بدره الحاج علي خمسة  
وعشرين الف دينار فاجيب الي ذلك  
وفي سنة ثمان وعشرين وثلثمائة سار  
الامير الاخشيد ابوبكر بن رايق الي حمص  
فلكها ثم الي دمشق ثم الي الرملة ثم الي  
عريش مصر فلقبه الامير الاخشيد محمد  
بن طعج صاحب مصر والشام فتجار بوا  
يوم الاربعاء نصف رمضان فانهم الاخشيد  
واشتغل الناس في النهب فخرج عليهم  
كعين الاخشيد فوقع بينهم وهمهم  
وقتل منهم جماعة وافلت بن رايق في  
سبعين رجلا وصار الي دمشق  
وكانت وقعة بين بن رايق وبين  
ابي نصر اخي الاخشيد باللجون في ذي  
القعدة فانهم ابن نصر وقتل اكثر اصحابه

indutus fuit, & Imperator Imperatorum  
nominatus: cesitque ei Imperium. & Scri-  
bam constituit Muhammedem f. Iahja, f.  
Sjirazadi, ad gerenda negotia, ita ut pro  
Consiliario esset, licet ita non vocaretur.

Eodem quoque anno pax facta est à  
Muslimis & Romanis. contigitque captivos  
dimitti, quorum magnus admodum nume-  
rus utrimque liberatus fuit.

Anno 327 exijt Arradis, cum Impera-  
tore Iahcamo, & militibus ejus, ac bellum  
gesit cum Nasiruddaulo, quem in fugam  
versum, persequutus est Iahcamus, Mausila-  
m versus, deinde pervenit Nasibinum, &  
abijt Nasiruddaulas Amidam. Arradis au-  
tem perrexit donec venit Mausilam, eam-  
que obsedit. Interim prodijt Abubecrus f.

Rajci, Bagdadi, ubi latuerat. & pacem fe-  
cit Iahcamus cum Nasiruddaula f. Hama-  
dani, ea lege, ut ei afferret Nasiruddaulas  
quingenta aureorum millia. Deinde re-  
versus est Arradis cum Iahcamo Bagda-  
dum; multisque ab ijs & filio Rajci ultro  
citroque missis literis, tandem pax facta  
est, ea lege, ut filio Rajci daretur Via  
Euphratis, Provincia Kinnastrina, &  
Awafima.

Eodem anno peregrinati iterum sunt  
homines è Via Euphratis, cum peregrinatio  
religiosa jam cessavisset, propter Carami-  
tas, inde ab anno 319. Abutaherus autem  
hoc anno peregrinantium presidio nihil se  
damni illaturum promisit, pro viginti  
quinque aureorum millibus.

Anno 328 abijt Abubecrus fil. Rajci  
Emissam, eamque cepit, hinc Damascum,  
deinde Ramlam, post Arisjam Aegypti; ubi  
occurrit ei Muhammed Achsjidus f. Taagi  
Princeps Aegypti & Syria: commissoque  
pralio die Mercurij, medio Ramadani, in  
fugam versus est Achsjidus. cumque mili-  
tes jam toti essent in direptione, prodijt ex  
insidijs quidam militum ejus, eosque de  
improviso adorsus est, & in fugam vertit,  
non paucis interfectis. evadens autem fi-  
lius Rajci, cum 70 viris, se recepit Da-  
mascum. Hinc pugna commissa est à filio Raj-  
ci, & Abunasro fratre Achsjidi, in Lagjuna,  
mense Dulkiada: & in fugam versus est  
Abunasrus, majore militū ejus parte casa.

Deinde

Inducit  
Muslimo-  
rum cum  
Romanis.

Cœpit 28  
Octobris  
A.C. 938.

Filius Ra-  
jici emer-  
git.

Pacificitur  
cum Iah-  
camo.

Abutaher-  
rus.

Cœpit 18  
Octobris.  
A.C. 939.

Deinde pacem fecerunt filius Raijci, & Achsjidus, ea conditione, ut filius Raijci traderet Achsjido Ramlam, reliquam autem Syriam ipse possideret; & Achsjidus quotannis ei ferret 140 aureorum millia.

Cœpit 6  
Octobris.  
A.C. 940.  
Arradis  
obitus.

Anno 329 mortuus est Arradis Billa ex hydropo; potissima tamen causa morbi ejus fuit frequentia Veneris. obiit autem die Sabbathi, decimo sexto Rabij prioris, cum imperasset annos sex, menses decem, & dies decem; & natus esset annos triginta, & aliquot menses. Naturam ejus quod attinet. munificus fuit, & liberalis, eruditus, & poeta magna eloquentia, & gaudens presentia & conversatione eruditorum, ac multis virtutibus præditus. Inter alia ejus carmina & hoc est

Natura.

Ne reputa mihi honorem meum,  
supra nobiles. lucrum laudum  
merces est nobilium.

Curro, ac si ego sim hominibus ante-  
cessor, & extruo quod stabili-  
verunt majores.

Etenim ego de populo illo sum cui  
affociatur interitus & successio.

Item & hoc longe elegantissimum.

Palescit facies mea, cum intuentur  
eum oculi mei, rubescit autem  
gena, pudore.

Ita ut qui in rotundo genæ est san-  
guis, de corpore meo eò transfe-  
ratur,

Fortuna.

Administratio imperij tota fuit penes  
Præfectos ejus, quos ille sorte dirimebat.  
Atque hic Arradis multas res ultimus in-  
ter Chalifas præstitit. Nam ultimus egre-  
gios fecit versus: ultimus sua solius aucto-  
ritate de exercitibus, & pecunijs disposuit.  
ultimus concionatus est, in suggesto, die  
Veneris. ultimus sedit cum sedentibus,  
& pœnitentiam egit cum pœnitentibus.  
ultimus impensas fecit, munera dedit, ser-  
vos & culinas habuit, more antecessorum  
suorum. Nam qui post eum Chalifatui præ-  
fecti sunt, ad tempora usque Moctafis, eos  
scito nihil habuisse in Iraca, atque alijs pro-  
vincijs, præter nudum titulum; regimen  
autem omne fuisse penes Reges illos, qui  
imperio potiti sunt. Consiliarij ejus fuerunt  
Abualis f. Mucla: at hunc deindeprehendit, & tractavit, sicuti ante dictum est.

Officiales.

ثم وقع الصلح بين بن رايق والاشيد  
علي ان يسلم بن رايق الاشيد الرمله  
ويكون باقي الشام لابن رايق ويحمل  
اليه الاشيد كل سنة مائة الف  
واربعين الف دينار

وفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة توفي  
الراضي بالله بعلة الاستسقاء وكان  
اقوى سبب علته كثرة النكاح وكانت  
وفاته ليلة السبت لأربع عشرة ليلة  
يقبت من ربيع الاول فكانت مدة  
خلافته ست سنين وعشرة اشهر وعشرة  
ايام وكان عمره اثني وثلاثين سنة  
وشهورا \* سيرته سمحا جوادا دينيا شاعرا  
كثير الفصاحة يحب معاداة العلماء  
ومخالطهم ذا فضائل جمّة ومن جملة شعره  
لانعدلي كرمي علي الاشراف ربح

الحامد متيجر الاشراف \*

اجري كافي للخلايق سابقا  
واشهد ما قد وثقوا الاسلاف \*

اني من القوم الذين الفهم معتادة  
الابلاف والاخلاف \*

ومن شعره ايضا وهو معني بديع الي الغاية  
يصغر وجهي اذا تامله طرفي فبحر  
خده خجلا \*

حي كان الذي بوجنته من دم  
جسمي اليه قد نقلا \*

وكان اولياه مستندين بامور المملكة  
وهو يضرب بيهم بسهم وختم الراضي  
الخلافة في امور عدة منها انه اخر  
خليفة له شعر مدون واخر خليفة انفر  
بمدبير الجيوشن والاموال واخر خليفة  
خطب علي منبر يوم الجمعة واخر خليفة  
جالس الجلسا ونام الندما واخر  
خليفة كانت نفقته وجوايزه وخدمه  
ومطابخه علي ترتيب الخلفاء المتقدمين  
واعلم ان من ولي الخلافة بعد الراضي  
الي زمن المقتفي لم يكن لهم بالعراق  
وغبرها الا مجرد الاسم والتدبير  
للملوك المتغلبين \* ورواه ابن علي  
بن مقله ثم قبض عليه وفعل به ما تقدم

Hinc



ذكرة وتغاب بن رايق ثم يحكم  
التركي وصار اليها تدبير الملك  
وطبالت الوزارة ولم يبق الا اسمها من  
يومئذ حجاب محمد بن ياقوت ثم دكا  
مولاة \* قال المورخ مدة خلافته ست  
سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام اولها يوم  
الخميس واخرها يوم السبت لثمة ثلثماية  
وثمان وعشرين سنة وخمسة وسبعين يوما  
للحجرة ولتقام ستة الف واربعمائة اثني  
وثلاثين سنة ومائة وثلاثة عشر يوما شمسة  
للعالم

والذي ورد تواريخ النصارى  
من الحوادث في ايام الرازي انه  
حدث في مصر زلزلة عظيمة لاحدى  
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة وفي  
هذا اليوم اضطربت الكواكب التي  
تسمى الشهب اضطرابا شديدا من نصف  
الليل الي الصباح \*  
حاشية

وقع مثل ذلك في ملكة الملك الصالح  
نجم الدين ايوب بن الملك الكامل  
يذكر في موضعه بعد ذلك

قال وفي سنة ثلاث وعشرين وثلثماية  
في خلافة الرازي بالله قدم للبعاقبة  
بطرك علي الاسكندرية يسمى مقاري  
اقام عشرين سنة وتبع

وفي سنة خمس وعشرين وثلثماية  
تار المسلمون ببنت المقدس ودخلوا  
كنيسة القيامة واحرقوها واخربوا  
ونهبوا ما قدروا عليه

وفي سنة ثمان وعشرين وثلثماية مات  
سعيد بن بطريق صاحب التاريخ وكان  
بطرك الملكة علي الاسكندرية يوم  
الاثنين سلخ رجب منها اقام في البطركية  
سبع سنين وستة اشهر وكان في ايامه  
شقاق كثيرة وشر متصل بينه وبين  
شعبه وادي ذلك الي ان سبر محمد بن  
طنج صاحب مصر قايدا من قواده يكي  
ياي الحسن وضم اليه جماعة من الجند الي  
مدينة تنيس فحتم علي كنايسهم وما بها  
من الالات والضباعات كانت كثيرا جدا

*Hinc imperio potitus est filius Rajci; & post hunc Iahcamus Turca, penes quos fuit tota regni administratio, abolita dignitate Consiliarij, & solo ejus nomine, inde ab eo tempore, remanente. Ianitores habuit Muhammedem fil. Iacuti: & deinde Dacuum servum suum. Chronologus ait eum imperasse annos sex, menses decem, & dies decem; quorum initium dies fuit Iovis, finis autem Sabbathi. elapsis annis Hegira 328, & diebus 75, annis autem solaribus mundi mille quadringentis & triginta duobus, ac diebus centum & tredecim.*

*Quod autem ad ea attinet, quae Christianorum Historia tradunt accidisse tempore Arradis. ajunt in Aegypto magnum extitisse terra motum, die undecimo Dulkiada, atque eo die concussas quoque fuisse stellas illas, quae vocantur flamma, concussione vehementi, inde à media nocte, ad auroram usque.*

## Annotatio.

*Accidit idem quoque imperante Iobo Nazmuddino Rege bono, filio Regis perfecti, uti post dicitur, suo loco.*

*Anno 323 imperante Arradi, Patriarcha Iacobitarum Alexandria factus est Macarius, qui, cum 20 sedisset annos, obiit.*

*Anno 325 tumultum excitantes Muslimi, Hierosolymae, ingressi sunt templum resurrectionis, idque incenderunt, & vastaverunt, diripientes quaecunque poterant.*

*Anno trecentesimo vigesimo octavo vita excessit Saidus filius Batrici, historicus, qui Patriarcha erat Orthodoxorum Alexandria, die Luna in fine mensis Regjebi, cum Patriarcha sedisset septem annos, & sex menses. Hujus tempore multa fuerunt dissidia, & continuum odium inter ipsum, & populum ejus: id quod duravit donec Muhammed fil. Taagi Dominus Aegypti Ducem quendam suum, cognominatum Abulhasenum, cum militibus aliquot, misit Tinnisum, qui templa eorū confiscavit, uti & quaecunque in ijs erant vasa, atque instrumenta, quae plurima erant,*

*ita*

Imperium

Terra motus

Macarius Patriarcha Iacobit.

Templum Hierosolymae incenditur.

Obitus Saidi f. Batrici Historici

Christiani templa sua & vasa amittunt.

eaque re-  
cuperauerant.

& inter se  
reconcilia-  
antur

Templum  
Acalonis  
vastatur.

ita ut aurum eorum, atque argentum, ob multitudinem, ponderarentur magna libra. ea autem omnia coniecit in cistas, & vexit ad Achsjidum. Sed Episcopus Tinnisi adiit Scribas quosdam, in Aegypto, qui intercedentes apud Achsjidum hoc effecerunt, uti pro quinque aureorum millibus sua illis supellex restitueretur. itaque de facultatibus ecclesie vendiderunt quantum ad summam illam consociendam requirebatur: eamque attulerunt ad Achsjidum. qui cum intellexisset Episcopum possessiones illas nimis vili pretio vendidisse, ut qui iniquus erat, misit Tinnisum, petijtque ab emptoribus id quod iusto pretio deerat, & summam aliam ab ijs accepit. Cum itaque viderent Christiani dissidia sua huius rei causam esse, pacem fecerunt, & convenerunt in uno templo.

Eodem anno tumultum excitarunt Muslimi, Acalone, atque irruerunt in templum quoddam magnum quod ibi erat, vocatum Templum viride Maira, idque destruxerunt, & diripuerunt quaecunque in eo erant, opem ijs ad hoc ferentibus Iudaeis, qui ligna accensa rotis in tetrum traxerunt, ita ut totum deflagrauerit. Episcopus autem fugit Ramlam, atque ibi mansit donec obiit.

حي ان ذهبها وفضتها وزنت بالقبار لكنرتها وعبي القايد جميعها في الاقفاص وتوجه بها الي مصر الي الاخشيد فاضي اسقف تنيس الي جماعة الكتاب فتوسطوا الحال مع الاخشيد علي خمسة الف دينار وبعاد اليهم موجودهم فاجاب الي ذلك واباعوا من الوقوف والعمارات التي للكنائس بقية المبالغ وحمولة البه وبلغ الاخشيد ان الاسقف اباع الاملاك بدون قيمتها وكان ظالما فارسل الي تنيس وطالب المشترين بتفاوت الثمن واخذ منهم جملة اخري فلما علموا ان شقاقتهم اوجب هذا اصطالحوا واجتمعوا في كنيسة واحدة

وفي هذه السنة تار المسلمون بعسقلان علي كنيسة بها كبيرة تعرف بكنيسة مريم الخضراء فهدموها ونهبوا جميع ما فيها وعاضدوهم اليهود على ذلك وكان اليهود يشعلون النار في الاحطاب ويجرونها بالبكرات الي السقوف حتي احترقت جميعها وهرب الاسقف الي الرملة واقام بها لان مات

C A P V T S E C V N D V M.

Vigésimus primus Abbasi-  
darum & Chalifa quadragesimus  
secundus I B R A H I M V S A B V -  
I S H A C V S M O C T A F I S

BILLA, f. Muçtadiri, f. Mu-  
radidi, fil. Muaffici, fil.  
Mutewakkeli.



ATER ejus genitrix dicta fuit Haluta. Creatus est Chalifa eo die quo obiit frater ejus Arradis Billa, die scilicet decimo septimo Rabij prioris, anni 329: quo tempore regnum administrabat Iahcamus Turca. neque cessat Moctafi quidquam, prater nudum Chalifa nomen.

Eodem anno exijt Iahcamus venatum, & occurrit Schythib quibusdam iter

الحادي والعشرين من الخلفاء العباسيين وهو الثاني والاربعون المقتفي بالله ابي اسحق ابراهيم بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق

بن المتوكل \*

ام ولد يقال لها حلوت وامة اخوه الراضي بالله لاربع عشرة ليلة بقت من ربيع الاول سنة تسع وعشرين وثلاثماية وتدبير الملكة يومئذ ليحكم التركي ولبس المقتفي الاسم الخلافة

وفي هذه السنة خرج يحكم الي الصيد فلقى قوما من الاكرام ماشيين  
D d facientibus



فشرة الى اموالهم مستهيناً بهم وكانوا في عدد يسير فهرجوا بين يديه فتبعهم فدار رجل من خلف قطعته بالرمح ولا يعرفه فقتله وذلك لسبع بقين من شهر رجب فكانت مدة امارته سنتين وثمانية اشهر وتسعة ايام ولما توفي يحكم فوض المقتفي تدبير المملكة الى كوتلين ثم كتب المقتفي الى ابي بكر بن رايق وهو بالشام يستدعيه فقدم الى بغداد وفوض اليه تدبير المملكة وكانت مدة امارته كوتلين ثمانين يوماً

وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة عزم البريديون على قصد دار الخلافة والاستيلاء على بغداد وهؤلاء قوم كان ابوهم صاحب البريد وقد تقدم ذكر ابي عبد الله البريدي الذي تغلب على البصرة والاهواز في خلافة الرازي فخاف منهم المقتفي وخرج هاربا الى الموصل فتلقاه الامير سيف الدولة ابو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان الى تكريت وكان مع المقتفي ابي بكر بن رايق وابو الحسن بن علي بن مقله فجلهم سيف الدولة الى الموصل وخدمهم واهدى لهم الاطاف والاموال والدواب وقام ناصر الدولة ابو محمد الحسن بن علي بن عبد الله بن حمدان لخدمة المقتفي بالله احسن قيام ولقبه المقتفي ناصر الدولة ولم يكن لقبه قبل ذلك فقال

يعض الشعراء

من كان شرفه فيها مضي لقباء

فناصر الدولة من شرف اللقباء \*

دعوك ناصرهم لما نصرتهم

واعجز العجم ما حاولت والغرباء \*

ثم بعث ناصر الدولة اخاه ابا الحسن علي الى البريديين فهزمهم عن بغداد ففتحها ثم خرج اليهم وقد جمعوا جماعها فقاتلهم وكسروهم وهزمهم اقبح هزيمة واسر منهم ما ينبغي عن الفين من الديلم فاحسن اليهم وبعث بهم الى اخيه ناصر الدولة ..... علي

facientibus, eorumque opibus inhiavit, parvi eos faciens, quod pauci numero essent. illis autem coram eo fuga sese dantibus, is persequutus illos est. sed quidam eum circumvixit, & ignotum à tergo hasta transfixit, & occidit, idque die vigesimo quarto Regjebi; cum imperium tenuisset annos duos, menses octo, & dies novem.

Iahcamus occiditur.

Mortuo autem Iahcamo, commisit Moctafis administrationem regni Cutelino. sed postea scripsit ad Abubecrum f. Raijci, qui in Syria erat, eumque advocavit. cum autem Bagdadum venisset, commisit ei administrationem regni, cum Cutelinus id jam administrasset dies 80.

& succedit ei Cutelinus

huic autem Abubecrus f. Raijci.

Anno 330 statuerunt Baridai adoriri arcem imperiale, & occupare Bagdadum.

Cœpit 25 Septemb. A.C. 941.

(Erant autem hi populus oriundus à Praefecto veredariorum. & jam supra meminimus Abdalle Baridai, qui Basram & Ahmazum occupavit, imperante Arradi) Ab his cum sibi timeret Moctafis, fugit, seq. recepit Mausilum. & occurrit ei Alis Abulhasenus Saifuddaulas fil. Abdalle, f. Hamadani, prope Tecritā. comitabantur autem Moctafim Abubecrus f. Raijci, & Abulhasenus f. Alis f. Mucla. duxitque eos Saifuddaulas Mausilum, iisque ministravit, & dedit munera, pecunias & jumenta. Optime quoque ministravit Moctafi Hasenus Abumuhammed Nasiruddaulas f. Abdalle, f. Hamadani. qua de causa & Moctafis eum nominavit Nasiruddaulam: non enim ante habebat hoc cognomen. unde Poëta quidam.

Baridorum origo & conatus,

Quem in eo quod præterijt nobilitavit cognomen?

Nasiruddaulas ex ijs est quos nobilitavit cognomen.

Vocarunt te Adjutorem suum, postquam adjuvisti eos.

Inertes facit Barbaros quod animo concipis & exteros.

Deinde misit Nasiruddaulas fratrem suum Alim Abulhasenum contra Baridæos, quibus Bagdado depulsis, urbem ipse cepit. Cum a. deinde magnum exercitum collegissent, eos oppugnavit, fudit, & turpi fuga fugavit, ac plures quam bis mille Dailamos cepit, quos bene tractavit, & misit ad fratrem suum Nasiruddaulam. Insurgens autem Nasiruddaulas contra Abube-

& elades.

Abubecri  
cedes.

*Abubecrum f. Rajci eum occidit & eo se apud Moctafim excusavit, quod eum non occidisset, nisi postquam cognovisset, quod non amplius bene erga illum affectus esset. quam ejus excusationem Moctafis accepit. Hinc reversus est Moctafis Bagdadum, comitante eum Imperatore Nasiruddaula f. Hamadani, cui jam commiserat administrationem regni. Cumque victor reversus esset Alis Abulhasenus, cognominavit eum Moctafis Saifuddaulam, qua de re Poeta quidam.*

Successor  
Nafirud-  
daulas.

Vtique Chalifa non nominavit te gladium suum, donec probavit te, & fuisti acutus gladius.

Cum quiescit, es margarita coronæ ejus: cum autem obsignat, gemma sigilli ejus.

Almansor  
f. Moctafis  
ducit filiam  
Nafirud-  
daula.

*Eodem anno matrimonio junxit Moctafis filium suum Almansorem cum filia Nasiruddaula fil. Hamadani, dotem ei dans centum aureorum, & quingenta staterum millia. qua re & se stabilivit Nasiruddaulas, & oppressit Moctafim impensis, ita ut & suos, & matris sua agros abalienaverit, totaque Chalifatui summa ad Nasiruddaulam venerit. quod cum vehementer displiceret Turcis, abalienati sunt ab eo, & magna inter eos & illum orta est inimicitia.*

Cœpit 4  
Septemb.  
A.C. 943.  
Buzunus  
Turca Im-  
perator.

*Anno 332 discessit Nasiruddaulas cum fratre suo Saifuddaula Bagdado Mausilum; & imperio Bagdadi potitus est Buzunus Turca, cui & Moctafis commisit administrationem regni, nominans eum Imperatorem Imperatorum.*

Abutaher-  
us mori-  
tur.

*Eodem anno obiit Abutaherus Caramita, tres relinquens fratres, Saïdum Abulcasimum, qui maximus natu erat post Abutaherum. Abulabbasem, qui debili erat corpore, ac multis morbis obnoxius; & Iosephum AbuJacobum, qui deditus erat lufui. at omnes unanimes erant. Habebat autem Abutaherus Consiliarium è filijs Sjambari; & deinde fratribus suis tribus Consiliarios dedit septem Sjambaritas, singulis singula dans officia.*

Cœpit 24  
Augusti.  
A.C. 944.

*Anno trecetesimo trigesimo tertio imperio depositus fuit Moctafis: cū enim gubernationem regni commisisset Buzuno Turca,*

اني بكر بن رايق فقتله واعتذر الي  
المقتفي انني ما قتلته الا لما علمت  
انه لا يبقى عليك فقبل عذره وعاد  
المقتفي الي بغداد ومعه الامير ناصر  
الدولة بن حمدان وقد فوض اليه تدبير  
المملكة وعاد ابو الحسن علي منصور  
فلقبه المقتفي سبغ الدولة فقال  
بعض الشعراء

ان الخليفة لم يسمك سبغه حي بلاك

فكنت حد الصارم \*

فادا سوح كتب دهره تاجه وادا

تختم كنت نص الخاتم \*

وفي هذه السنة تزوج المقتفي ولده  
المنصور لابنة ناصر الدولة بن حمدان علي  
صداق مائة الف دينار وخمسمائة الف  
درهم فمكّن ناصر الدولة لذلك  
وضبغ علي المقتفي في نفقاته وانزع  
ضباعه وضباع والدته وصارت امور  
الخلافه فيها اليه فعظم ذلك علي  
الانراك وتذكروا له ووقعت بهم وبين  
ناصر الدولة وحشة عظيمة \*

وفي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة  
مرحل ناصر الدولة واخوه سيف الدولة  
من بغداد الي الموصل وغلب علي الامر  
ببغداد بوزون التركي وفوض اليه  
المقتفي تدبير الممالك وسماه امير  
الامرا

قال وفي هذه السنة كانت وفاة  
ابي طاهر القرمطي وخلف ثلاثة اخوة  
ابا القاسم سعيد وهو كبيرهم بعد ابي  
ظاهر وابا العباس وكان ضعيف  
البدن كثير الامراض وابا يعقوب  
يوسف وكان مقبلا علي اللعب الا  
انهم كانوا علي كلمة واحدة وكان  
لاني طاهر وزير من بني شنبر ثم من بعده  
وزير لاخوة الثلاثة سبعة من بني شنبر  
كلهم علي تدبير دعوتهم

وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة  
خلع المقتفي لانه كان فوض تدبير  
المالك لبوزون التركي



ثم وقعت بينه وبين المقتدي وحشة فخرج المقتدي من بغداد إلى الموصل مغاضبا له وطالبا من الانتصار نصرته عليه واستدعي بني حمدان من اماكنهم لحرب بوزون فاجتمعوا وجيشوا الجيوش وقصدوا بغداد وخرج بوزون التركي والتقي ببني حمدان فانهزم بنوا حمدان وانكسروا واخذ ناصر الدولة وسبغ الدولة المقتدي معهم إلى الموصل فاقام معهم وخلع عليهما ثم عاد المقتدي إلى الرقة وكاتبه بوزون في العود إلى بغداد فامتنع ثم ظهر له من بني حمدان تضجر منه فبعث إلى بوزون يطلب الصلح فقابلته بوزون بانه مرغبه فبعث المقتدي من يستخلفه وقدم الاخشيدي صاحب مصر في المحرم من هذه السنة إلى الرقة وسال المقتدي ان يسير معه إلى مصر فايا فاشار عليه بما لاقاه من مكانه وهداه بالمال فاتي إلى بغداد فاستقبله بوزون وقبل الارض بين يديه وركب وسار معه ونزل هو وحرثيه في مضارب بوزون وانفذ بوزون فاجضر عبد الله المقتدي فبايع له بالخلافة ولقبه المقتدي بالله وسلم له ابن عمه المقتدي فاخرجه وشمل عينيه وشهد على نفسه بالخلع وذلك يوم السبت لعشر بقين من صفر فكانت مدة خلافته ثلاث سنين واحد عشر شهرا ولم يرل باقيا إلى شعبان سنة سبع وخمسين وثلثمائة توفي فيها وعمره ستين سنة \* سبغته كان رجلا صالحا الا انه كان مغلوبا على امره من اول دولته استعبد الامرا بتدبير الخليفة وغلبوا على الامر كله ولم يبق للخليفة الا الاسم ونقش اسمه على الدراهم والدنانير والدعا على المنابر وكل اقليم فيه ملك يستند بتدبيره \* حجاب سلامه

*inimicitia inter eum & Buzunum est orta: abijtque Moctafis illi iratus Bagdadado Mausilum, petens ab amicis auxiliium adversus eum; & advocavit filios Hamadani, ex locis eorum, ad oppugnandum Buzunum. Hi autem cum convenissent, collectis copijs, contenderunt Bagdadum. sed egressus Buzunus Turca occurrit filijs Hamadani, qui fusi sunt, & in fugam versi. Ceterum Nasiruddaulas & Saifuddaulas abduxerunt Moctafim Mausilum, atque ibi apud eos mansit, & dignitatis veste eos induit. Hinc reversus est Racam, scripsitque ad eum Buzunus, uti reverteretur Bagdadum; id quod recusavit. At cum deinde animadvertisset filios Hamadani fastidio ejus teneri, misit ad Buzunum, pacem ab eo petens. hic autem eum avidissime excepit, cum Moctafis jam misisset qui eum adjuraret. Venerat autem Achsjidus Princeps Aegypti mense Muharramo hujus anni Racam, & Moctafim rogaverat, ut secum iret in Aegyptum; quod cum recusasset, suaserat ei, uti eo in loco maneret, se pecunia eum adjuturum esse. Sed is Bagdadum abijt, & occurrit ei Buzunus, qui & terram coram eo osculatus est. hinc conscendit, & abijt cum eo, atque diversatus est cum comitatu suo in tentorijs Buzuni, qui misit atque accersivit Abdallam Mustacim, eumque creavit Chalifam & cognominavit Mustacim Billa, tradiditque ei filium patrum ejus Moctafim, quem eductum oculis orbarit, & Chalifatum deponere coegit, idque die Sabbathi, vigesimo Safari, cum Chalifatum tenuisset annos tres, & menses undecim. superstes autem fuit usque ad Sjaabanum anni trecentesimo quinquagesimo septimi, quo obijt, annos natus sexaginta. Naturam ejus quod attinet. vir bonus fuit, sed potestate omni imperij penitus orbatus. ceperant enim jam ab initio dignitatis ejus Imperatores gubernare Chalifam, totumque imperium occupare, ita ut nihil ei*

Moctafis confugit ad Naliruddaulam & Saifuddaula,

ab Achsjido invitatur in Aegyptum,

ad Buzunum redit,

imperio deponitur,

moritur.

Ejus natura.

*relictum fuerit prater titulum, & quod nomen ejus imprimeretur stateribus, & aureis, quodque orationes conciperet, in suggestis. in singulis enim provincijs Reges erant, gubernationem omnem sibi adsumentes. Ianitores ejus fuerunt Salamas* **Officiales,**  
servus

servus Hamaruja, deinde Bederus Gjer-  
saneus, hinc Ahmed fil. Chacani.

**Imperium.** Chronologus ait Chalifatum ejus expi-  
ravisse die Sabbathi, elapsis annis Hegi-  
ra 332, & diebus 50: annis autem solari-  
bus mundi 6436, & diebus 45.

**Annona  
caritas.**

Quod ad ea attinet qua Christiano-  
rum historiae narrant ejus tempore acci-  
disse. inter cetera hoc est. quod anno 329  
magna fuerit annona caritas, ita ut peni-  
tus homines defecerit cibus, & fames mi-  
rum in modum eos affligerit. hanc autem  
annona caritatem sequutam esse pestem,  
qua duravit ad initium usque anni 330.  
Quin & idem accidit Bagdadi ita ut po-  
pulus furfures & fenum comederit, &  
tanta fuerit mortuorum multitudo, ut  
complures una in fossa fuerint sepulti,  
sine oratione, atque ablutione. Supellex  
autem omnis tam vili erat pretio, ut quod  
aureum valebat, statere uno veniret.

**Ruffe  
Constanti-  
nopolin.  
oppu-  
gnant.**

Atque hoc anno, scilicet 329, oppu-  
gnarunt Ruffe Constantinopolin, sed re-  
stiterunt ijs Romani, qui persecuti eos  
sunt, & in regionem suam se recipere  
coegerunt.

**Romano-  
rum victo-  
ria de Sa-  
racenis.**

Anno 331 venerunt copia Romano-  
rum in Diarbecram, omniaque cade, &  
incendio vastaverunt, ac multos capti-  
vos avexerunt. ceperunt quoque Arza-  
nam & Daram, incolasque occiderunt.  
hinc Nasbinum pervenerunt: & Ruba  
petierunt mantile illud quo Dominus  
Christus faciem suam honorabilem abster-  
serat, miseratque ad Abgarum Regem ni-  
grum Ruba; & obtulerunt pro eo Musli-  
mis dimissionem omnium captivorum  
Muslimicorum, qui in manibus eorum  
erant: atque ea de re scripserunt ad Mo-  
etasm; qui jussit Consiliarium Iudices  
omnes & Nobiles convocare, ut audiret  
quid ea in re censerent esse faciendum.  
Eorum autem quidam dixerunt quod id  
dare Romanis probrosum foret & indeco-  
rum Muslimis. alij autem dixerunt re-  
demptionem Muslimorum captivorum e  
manibus Romanorum, qua eo mantili fie-  
ret, bonam atque laudabilem fore. itaque  
inter eos convenit ut id Romanis darent,  
& captivos liberarent. id quod fecerunt.

**Mantile  
Christi.**

هو لا حماروية ثم بدر الجرسني ثم احمد بن  
خاقان

قال المورخ ان انقضاء خلافته كان  
يوم السبت لثمة ثلثماية اثني وثلاثين سنة  
وخمسين يوماً للهجرة ولثمة ستة الف  
واربعماية ست وثلاثين سنة وخمسة واربعين  
يوماً شمسية للعالم

والذي ورد تواريخ النصاري من  
الحوادث في ايامه من حملتها ما حدث في  
شهور سنة تسع وعشرين وثلثماية من  
الغلاء الى ان عدم الناس القوت جملة  
ولحق الناس من الجوع شدايد عظيمة  
وتبعه وبا ولم يزل الامر كذلك الي  
ان دخلت سنة ثلاثين وثلثماية \* قال  
وحدث ايضا ببغداد مثل ذلك واكل  
الناس بها النخالة والحشايش وكثير  
الموت وصار يدفن جماعة في قبر واحد  
بغير صلاة ولا غسل ويرخص العقار  
والقماس حتي ابتاع ما قيمته دينار  
بدرهم واحد

وفي هذه السنة وفي سنة تسع وعشرين  
وثلثماية غزا الروس القسطنطينية  
وقاتلهم الروم وطردوهم وانهمزوا الي  
بلادهم

وفي سنة احدى وثلاثين وثلثماية  
وافقت جيوس الروم الي ديار بكر  
واخربوا واحرقوا وقتلوا وسبوا خلقا  
كثيرا وفتحوا ابرهن ودارا واحرقوا عامة  
بلادها وبلغوا نصيبين والتمسوا من الرها  
المنديل الذي كان السيد المسيح مسح  
بها وجهه الكرم وسببه الي الابجر  
ملك الرها الاسود وبدل الروم لهم بها  
اطلاق جميع الاسري المسلمين الذي  
في ايديهم وكاتبوا المقتضى في ذلك  
فامر الوزير ان يجمع القضاة ووجوه  
الدولة ويسمع ما عندهم في ذلك فمهم  
من قال ان اعطاء للروم عصا في حق  
الاسلام فمهم من قال ان استنقاذ  
المسلمين الاسري من يد الروم بهذا المنديل  
مصلحة فانفق مائة الف على اعطائهم  
المنديل وخلص الاسري ففعلوا ذلك



فأخذ الروم المنديل واطلقوا جميع  
الأسرى المسلمين وكانوا خلقا كثيرا  
وجملوا الروم المنديل إلى القسطنطينية  
ودخلوا به إليها في اليوم الخامس  
عشر من اب وخرج البطريرك والملوك  
والبطاريق والكهنة واستقبلوه  
بالانجيل والشهوع وجعلوه في الكنيسة  
العظيمة اجبا صافيا وهو إلى الآن بها  
وفي سنة اثني وثلاثين وثلاثمائة خرجت  
الروم دفعة أخرى ودخلوا راس العين يوم  
الثلاثاء في عشر ربيع الأول من هذه السنة  
واقاموا بها يومين وقتلوا ونهبوا وسبوا  
منها ألف نفس وانصرفوا إلى بلادهم

acceperunt enim Romani mantile, & di-  
miserunt omnes Muslimos captivos qui  
plurimi erant. Tulerunt autem id Con-  
stantinopolin, quam cum eo ingressi sunt  
die Iovis, decimo mensis Abi. & egressi  
Patriarcha, Reges, Episcopi, & sacerdo-  
tes ei occurrerunt, cum euangelijs & faci-  
bus, & collocarunt illud in templum Ha-  
gia Sophia, ubi etiam nunc extat.

Anno 332 egressi secundo Romani,  
ingressi sunt Rasulainum, die Martis duo-  
decimo Rabij prioris hujus anni: manseruntque  
in eo biduum, occidentes ac spoli-  
antes; & mille personas in servitutem  
abducentes, in regionem suam reversi  
sunt.

Romano-  
rum spo-  
lia.

## CAPVT TERTIVM.

الثاني والعشرين من الخلفاء العباسيين  
وهو الثالث والأربعين المستكفي  
بالله ابو القاسم عبد الله بن  
المكفي بن المعتض  
بن الموفق \*

أم ولد يقال لها ضمن  
بويغ له بالخلافة يوم خلع  
بن عمه المقتفي وذلك يوم  
السبت لعشر بقين من  
صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة للهجرة  
ولما ولي الخلافة خلع على يوم  
التركي وفوض إليه تدبير الممالك  
ولقب المستكفي نفسه أمام الحق  
وضرب ذلك على الدنانير والدرهم  
وخطب له على المنابر  
وفي هذه السنة سار الأمير سيف  
الدولة علي بن حمدان إلى حلب فلحقها  
في شهر ربيع الأول وكان متولبها  
رجل يقال له بانس المونسي من قبل  
الأخشيدي محمد بن طعج صاحب مصر  
والشام ولما ملك سيف الدولة  
بابرهم العقلي في جماعة من أصحابه  
فأدركوه في قرية تسمى ديار ريج  
بين سرمين والمعرة ونهبوا عباده  
وكلن معه وهرب بنفسه \*

Vigimus secundus Abbasi-  
darum, & Chalifa trigismus quar-  
tus, ABDALLA ABVLCA SIMVS  
MVSTACFIS BILLA  
f. Muftas, f. Mutadidi,  
f. Muaffici.



ATER ejus genitrix di-  
cta fuit Gasna. Creatus  
fuit Chalifa eo die quo  
imperio depositus fuit fi-  
lius patris ejus Moctafis,  
id est die Sabbathi, vige-  
simo Safari anni 333. Chalifatui autem  
præfectus dignitatis veste induit Bu-  
zunum Turcam, & commisit ei gubernatio-  
nem regnorum. Mustacfis autem ipsum  
se appellavit Principem aequitatis, & cu-  
dit illud super aureis & stateribus; ac ora-  
vit ipse in suggestis.

Buzunus  
Guberna-  
tor.

Eodem anno abiit Imperator Alis Sai-  
fuddaulas f. Hamadani Halebum, idque  
occupavit, mense Rabio priori, cum ei  
præffet, nomine Muhammedis Achsjidi f.  
Taagi Principis Aegypti & Syriae, vir  
quidam dictus Basenus Maunafcus.  
Cumque imperaret Saifuddaulas, perse-  
quutus est Ibrahimum Acalaum, cum mi-  
litibus aliquot suis, qui assequuti eum sunt  
in pago quodam dicto Badarigo, inter Ser-  
minum & Maarram, & spoliarunt socios  
ejus, & quicumque cum eo erant, ipso elapso.

Saifuddau-  
las capit  
Halebum.

Ceterum

Ceterum Saifuddaulas antequam possideret Halebum, habebat Majafarikinam & Diarbecram, quæ dono ei dederat frater ejus Nasiruddaulas, anno 323, sicuti ante commemoravimus. Deinde autem abiit Damascum, quæ in manibus erat Prefectorum Achsjidi, eamque cepit, & subjugavit. Cumque die quodam veheretur in Gutam, comitante eum Nobili Affeo, dixit Nobili, Guta hæc non convenit nisi uni homini: ille autem cum respondisset, Atque multi eam populi incolunt, Saifuddaulas dixit, Si eam occupent Gubernatores, aut subjugent Prefecti, deserent eam incolæ ejus. quæ ejus verba Nobilis apud se reservavit, & indicavit civibus Damascenis. Hi autem ilico scripserunt ad Achsjidum, uti ad eos veniret. Itaque Aegypto egressus est, cum magno exercitu, cui præfecit Cafurum Achsjidum, qui cum ad Damascum venisset, egressus ei obviam est Saifuddaulas, & uterque è regione alterius castra metatus est. Facto autem die Veneris, dixerunt milites Saifuddaulæ, Non licet hoc die pugnare; & dispersi sunt per agros, quærentes pabulum jumentis suis, ita ut desererentur Saifuddaulæ castra à majore militum ejus parte. quod cum cognovisset Cafurus, conscendit, obruturus Saifuddaulam: qui non ante id animadvertit, quam primi exercitus Aegyptiaci milites exercitui ejus commixti essent: itaque conscendens, cum paucis militibus suis, turpissime fugit; & nactus est Cafurus omnia impedimenta ejus, atque opes. Saifuddaulas autem cum Emissam pervenisset, eam obsedit: sed persequutus eum est Cafurus, cum copijs suis; unde migravit Rustenum, & transit Hamatam. sed & Rustenum versus persequutus eum est Cafurus. at reversus ad eum est Saifuddaulas, prælio cum eo conflicturus; & concurrerunt ad declivitatem montis Rusteni: atque in fugam versus est Cafurus: cujus milites cum sese comprimerent super ponte Rusteni, bona eorum pars in fluvium Asim dictum delapsa est, & suffocata. Saifuddaulas autem circiter quatuor eorum cepit millia; atque omnibus

Cafuri  
bellum  
cum Saifuddaula.

Saifuddaulas fugit,

in fugam  
vertit Cafurum.

وكان سيف الدولة قبل ذلك حلب بيده ميافارقين وديار بكر انعم عليه بذلك ناصر الدولة اخوه في سنة ثلاث وعشرين وثلاثماية وقد ذكرناه اولاً \* ثم ان سيف الدولة سار الى دمشق وهي بيد نواب الاخشيد فلما استولى عليها وركب يوماً الى الغوطة ومعه الشريف العففي يسايرة فقال سيف الدولة للشريف ما تصلح هذه الغوطة للرجل واحد فقال له الشريف العففي انها لا توام كثيرة فقال سيف الدولة ان اخذتها النواب واستولى عليها الدواوين لتبرهن عنها اهلها واسرها الشريف العففي في نفسه وعرف بها اهل دمشق فكتبوا الاخشيد لباتي النهج فسار من مصر في جيش عظيم وعلي تقدمته كافور الاخشيدي فوافقا كافور دمشق وخرج سيف الدولة للقيامه وخيم كل واحد منهم باراً صاحبه وجاء يوم الجمعة فقال اصحاب سيف الدولة هذا يوم لا يحل فيه القتال وتفرقوا في الضباع يطلبون العلوقة لدوابهم فحلبا معسكر سيف الدولة من اكثر اصحابه وعلم كافور بذلك فركب للبيس سيف الدولة فلم يشعر سيف الدولة الا واويل العسكر المصري قد خالطه فركب في عسكر قليل من اصحابه فانهم اقمح هزيمة واستولى كافور الاخشيدي على جميع اقاله وامواله ووصل سيف الدولة الي حمص فنزلها وتبعه كافور الاخشيدي بالجيوشن فرحل سيف الدولة الى الرستن وعبر صوب حماة وتبعه كافور الي الرستن فرجع سيف الدولة اليه لبقائه فالتقوا عند عقبة الرستن فانهم كافور الاخشيدي وانزحهم اصحابه على جسر الرستن فسقط منهم جماعة في النهر المعروف بالعاصي فغرقوا واسر منهم سيف الدولة نحو من اربعة الف نفس واحتوي على جميع

impedi-



انقال كافور الاخشبي ومضي  
 كافور منهزما الى حصن ثم الى دمشق  
 واطلق سيف الدولة جميع الاسرى  
 ورجع الى حلب فلما بلغ الاخشيد  
 ان سيف الدولة بن حمدان قد كسر  
 عسكره وهرمه سار بجوعه حتى اتى  
 الى المعرة فبعث سيف الدولة سواده  
 وامواله واهله الى الجزيرة وخرج الى  
 لقا الاخشيد علي قنسرين وجعل الاخشيد  
 يطاردة وطبولة وبوقاته في مقدمته  
 وانتقى من عسكره قريبا من عشرة الف  
 وسامه الصابرية ووقف بهم في الساقة  
 فحمل سيف الدولة على مقدمة الاخشيد  
 فانهمت المقدمة والمطاردة فلكها  
 واستولى على جملة من سوادهم ودخل  
 الاخشيد الصابرية التي معه فاستخلص  
 سواده وانفصل الفريقان وعاد سيف  
 الدولة الى حلب ثم مضي الى منبج وقطع  
 الجسر ومضي الى الجزيرة ومضي  
 الاخشيد الى الرقة فتوجه سيف الدولة  
 الى الرقة ونزل في مقابلة الاخشيد  
 والفرات بينهما وجري بينهما مراسلات  
 اخرها ان تقرر الامر بينهما علي ان  
 يكون لسيف الدولة حلب وحمص  
 وما بينهما ويكون للاخشيد من  
 حدود حصن الى اقصى العرب وحفروا  
 بين جوشنة واللبة خندقا وجعلوه  
 فاصلا بين المملكتين وتزوج سيف  
 الدولة بنت الاخشيد ثم سار الاخشيد  
 الى مصر وعاد سيف الدولة الى  
 حلب

قال وفي سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة  
 كان استلام معر الدولة بن بويه علي  
 بغداد وكنا ذكرنا امر بني بويه  
 في حوادث سنة اثني وعشرين وثلاثمائة  
 وما كان من استلابهم على بلاد  
 فارس ثم ان ذكرنا ان معر الدولة  
 احمد بن بويه غلب علي الاهواز في  
 سنة ست وعشرين وثلاثمائة ولما  
 كانت هذه السنة قدم معر الدولة الي  
 بغداد فاستتر المكنفي بالله خوفا منه

*impedimentis Casuri est potitus. Casurus  
 fugiens Emissam petijt , deinde Dama-  
 scum. ac Saifuddaulas, captivis omni-  
 bus dimissis, reversus est Halebum. Cum* Achsjidus  
*autem cognovisset Achsjidus Saifuddau-  
 lam f. Hamadani fudisse atque fugavisse* ipse bel-  
*exercitum ejus, abijt cum copijs suis, do-  
 nec venit Maarram. & Saifuddaulas di-  
 vitijs suis, opibus, atque domesticis in* lum gerit  
*Mesopotamiam missis, processit Achsjido cum Sai-  
 obviam, ad Kinnafrinam. Achsjidus au-  
 tem persequutus eum est, positus in prima fuddaula.  
 acie tympanistis, & buccinatoribus.  
 atque elegit ex exercitu suo circiter*  
*decem mille milites, quos robur no-  
 minavit atque in his ipse stetit in po-  
 strema acie. Hinc Saifuddaulas impe-  
 tum fecit in primam aciem Achsjidi,* Saifuddau-  
*eamque in fugam versam persequutus lar victoria.  
 est, & profligavit, ac bona divitiarum  
 ejus parte est potitus. Caterum Achsjidus*  
*ingressus est in Robur, quod ei aderat,  
 & divitijs suis consuluit. Atque ita di-  
 rempti sunt exercitus, & abijt Saifud-  
 daulas Halebum, deinde Mambagum, &  
 hinc, sublato ponte, in Mesopotamiam*  
*At cum Achsjidus abisset Racam,*  
*eodem quoque contendit Saifuddaulas,*  
*& castra è regione ejus metatus est, in-  
 terjecto inter eos Euphrate. Hinc alter* Achsjidus  
*ad alterum scripsit, & tandem composi-  
 tum est inter eos negotium, ea lege ut* cum Sai-  
*Saifuddaulas possideret Halebum, & fuddaula  
 Emissam, quæq; inter ea jacent; Achsji- pacem fa-  
 dus autem quidquid à finibus Emissa est, cit.  
 ad fines usque Arabia. foderuntque*  
*fossam inter Gjausjanam & Labwam, &  
 eam utriusq; regni constituerunt limitem.  
 ac duxit Saifuddaulas filiam Achsjidi.  
 Deinde Achsjidus abijt in Aegyptum, &  
 Saifuddaulas reversus est Halebum.*

*Anno 334 potitus est Muazzuddaulas* Coepit 13  
*f. Boja Bagdado. Filiorum autem Boja Augusti.  
 negotia commemoravimus cum agere- A. C. 945.  
 mus de anno 322, diximusque eos occu- Muazzud-  
 passe Persiam. & deinde, Ahmedem daulas ca-  
 Muazzuddaulam fil. Boja subjugavisse pit Bagda-  
 Ahwazam, anno 326. Cum autè hic ageretur dum.  
 annus contendit Muazzuddaulas Bagda-  
 dû, & Muçtafis, ejus metu, se abscondidit:*

ac major Turcarum pars Mausilum ver-  
sus fugit. Deinde misit Mustacfis ad Mu-  
azzuddaulam dona atque munera: &  
accedens Muazzuddaulas, diu apud  
eum mansit, sumpsitque ab eo Mustacfis  
juramentum fidelitatis, & magno eum  
jurejurando obstrinxit. Dignitatis quo-  
que vestem ei induit, & torquem, atque  
armillas. concessit ei etiam posteriorem  
aula sua partem: deditque ei vexillum:  
& nomen ejus monetæ impressit: ac jus-  
sit eum orare pro se, in suggestis; & no-  
men ei imposuit Muazzuddaula. fratrem  
autem ejus Alim Abulhasenum, qui ma-  
ximus eorum natu erat, vocavit Ama-  
duddaulam; & Abualim, qui medius eo-  
rum erat, Rucnuddaulam. Muazzud-  
daulas autem minimus natu erat.

**Mustacfis** Eodem anno imperio depositus fuit  
**deponitur.** Mustacfis. Cum enim Muazzuddaulas  
exitio ejus studeret, ingressus ad Mustac-  
fim, terram coram eo est osculatus, posi-  
taque ei est sedes, cui insedit. Deinde  
ingressi duo Dailami manus suas exten-  
derunt ad Mustacfim; qui cum putaret  
illos manum ejus osculari velle, eam illis  
porrexerat. sed illi de lecto eum detraxe-  
runt, & institam ei de capite sustulerunt.  
hinc portatus est in ades Muazzuddaula,  
qui in vincula eum coniecit, oculis orba-  
vit, & imperio deposuit. ac direpta  
fuit aula imperialis, ita ut nihil in ea re-  
lictum fuerit, idque vigesimo secundo  
Gjumada posterioris, cum imperium te-  
nuisset annum unum, menses quatuor,  
& dies duos, Obijt autem in aula imperi-  
**Moritur.** ali, anno Hegiræ 338, annos natus qua-  
draginta, & aliquot menses. Caterum  
cessavit Chalifatibus ejus, cum elapsi essent  
anni Hegiræ 333, menses 5 & dies 22:  
anni autem solares mundi 6437, men-  
ses quinque, & dies quatuor.

**Romanus** Quod autem ad ea attinet, ait Chro-  
**Imperator** nologus, quæ Christianorum narrant Hi-  
**deponitur.** storie. referunt Constantinum & Ste-  
phanum filios Romani, Imperatoris Ro-  
manorum, patrem suum imperio deposu-  
isse, die Luna, decimo sexto Canonis prio-  
ris, anno 1256 Alexandri, qui incidit  
in 26 Rabij posterioris anni Hegiræ 333.

وانهزم اكثر الاتراك الى جهة الموصل  
ثم بعث المكتفي بالله الى معر  
الدولة الطائفا وهدايا ووصل  
معر الدولة ووقف بين يديه طويلا  
ثم اخذ منه البيعة له واستخلفه باعظم  
الايان وخلق عليه وطوقه وسوره  
وفوض اليه ما ورا بابه وعقد له  
لوا وضرب السكة باسمه وامر ان  
يخطب له على المنابر ولقبه معر  
الدولة ولقب اخاه الحسن ابا علي عماد  
الدولة وهو اكبرهم ولقب ابا علي  
مركن الدولة وهو اوسطهم وكان  
معر الدولة اصغرهم سنا

قال وفي هذه السنة خلع المكتفي  
وذلك ان معر الدولة دبر على هلاكه  
فدخل على المكتفي وقبل الارض بين  
يديه وطرح له كرسي وجلس عليه  
وتقدم رجلا من الديلم فدا ايديهما  
الي المكتفي فظن انها يريدان  
يقبلان يده فناولها يده فجذباها  
من السرير ووضعها امامه في عنقه وحمل  
الي دار معر الدولة مراحلا فاعتقله  
وشمل عينيه وخلعه ونهب دار الخلافة  
حتى لم يبق فيها شيء وذلك لثمان  
يقين من جمادي الآخرة فكانت مدة  
خلافة سنة واحدة واربعة اشهر ويومين  
وتوفي في دار السلطان سنة ثمان  
وثلاثين وثلاثمائة وجمرة اربعين سنة  
واشهر ونقضت خلافة لهام ثلاثمائة ثلثة  
وثلاثين سنة وخمسة اشهر وعشرين يوما  
للهمزة ولثمة ستة الف واربع مائة سبع  
وثلاثين سنة وخمسة اشهر واربعة ايام  
شمسية للعالم

قال المورخ والذي ورد تواريخ  
النصارى ان قسطنطين واصطفان  
ولدي رومانوس ملك الروم خلعوا  
اباهما من المملكة يوم الاثنين  
السادس عشر من كانون الاول سنة  
الف ومايبي ستة وخمسين للاسكندر  
موافق لاربع يقين من شهر ربيع الآخر  
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة للهجرة



ثم اخرجاه وسبراه في مركب الي  
الجزيرة المعروفة بالابروي ورهباه  
فيها وكانت مملكة سنة وعشرين  
سنة وكان شيخا كبيرا وصبر  
قسطنطين واخوة صهرها برداس القفاس  
دمستقا وهن قايد الجيوش والعساكر  
وبعد احد واربعين يوما من ملكها  
احتمل صهرها الدمستق عليها وقبضها  
ونفاها الي بعض الجزاير في السابع  
والعشرين من كانون الثاني الموافق  
للسابع من جمادى الاخرة سنة ثلاث  
وثلاثين وثلثمائة وكانت مدة مقامها  
بعد نفي ابنيها احد واربعين يوما  
واستولي الدمستق على المملكة وتسمي  
قسطنطين فاجتمع البطررك توفيلس  
بالبطررك بوافيس البراكموس وانفقا  
على خلع قسطنطين الدمستق واعادة  
رومانوس الشيخ المنفي الي المملكة  
وكانا يتوقعان وقتنا لذلك فاتصل  
الخبر بقسطنطين الملك فنفي البطررك  
وضرب من وافق على ذلك ضربا  
شديدا وحلق شعورهم ونفاهم عن  
المدينة ٢٢

وفي كانون الاول سنة الف ومايبي  
تسعة وخمسين للاسكندر عمل قوم على  
اخراج الاصطغان من الجزيرة التي هن  
منفي فيها واعادته الي الملك فانتهى  
ذلك الي قسطنطين الملك فقبض عليهم  
وقطع اذان بعض وضرب بعضا واشهرهم  
في المدينة واما قسطنطين بن رومانس  
الملك المنفي فانه عزم على العصيان  
بالجزيرة التي كان منفيها فيها والنس  
من المتوكل به الموافقة على ذلك  
فقتلوه ومات رومانس الشيخ بالجزيرة  
في خامس وعشرين قומר سنة الف  
ومايبي تسعة وخمسين للاسكندر  
الموافق للربيع عشر من الحرم سنة سبع  
وثلاثين وثلثمائة ٢٣

Hinc eum eiecerunt, & navi miserunt  
in insulam dictam Abruim, ac in mo-  
nachum relegarunt; cum imperasset an-  
nos 26, & decrepita jam senectute esset.  
Constantinus autem & frater ejus socerum suum Bardam Casam constituerunt  
Domesticum, id est Ducem copiarum  
omnium, & exercituum. cumque jam  
dies unum & quadraginta imperassent,  
insidiatus ijs est Domesticus socer eorum,  
eosqueprehendit, & in insulam quan-  
dam relegavit, die 27 Canonis posterioris,  
qui incidit in diem septimum Gjumada  
posterioris, anni Hegira 333, cum post  
ejectionem patris sui imperium tenuis-  
sent dies 41. atque ita Domesticus im-  
perio potitus est, qui & Constantinus  
nominari voluit. Sed Patriarcha Theo-  
philus convenit Episcopum Bauaphisum,  
& consenserunt de depositione Constan-  
tini Domestici, & reductione Roma-  
ni senis ejecti ad imperium, & ad id  
prastandum occasionem expectarunt.  
quod cum subolevisset Constantino Impe-  
ratori, in exilium misit Patriarcham, &  
conspirationis socios vehementer verbe-  
ratos rotundit, & urbe eiecit.

Constanti-  
nus & Ste-  
phanus.

Constanti-  
nus Dome-  
sticus.

In Canone autem priori anni Alexan-  
dri millesimi ducentissimi quinquagesimi  
noni, studuerunt quidam educere Ste-  
phanum ex insula in quam relegatus  
erat, & ad imperium reducere. Verum  
Constantinus Imperator cum id intelle-  
xisset, eosprehendit, aliosque eorum au-  
ribus privavit, & alios verberavit, ac  
dedecore per urbem affecit. Constantinus  
quoque fil. Romani Imperatoris in exi-  
lium missus in insulas, in quam deporta-  
tus erat, studuit rebellare, atque ab eo qui  
custodia ejus prefectus erat, assensum eo  
in negotio petijt: sed occisus fuit. Roma-  
nus autem senex obiit in insula, vige-  
simo quinto Tammuzi, anno Alexandri  
millesimo ducentesimo quinquagesimo  
nono: qui incidit in decimum quartum  
Muharrami anni Hegira 337.

Imperat:  
Romanus  
obitus.

## CAPVT QVARTVM.

*Vigefimus tertius Abbasidarum, & Chalifa quadragesimus quar-*

tus **FADLVS ABVLCASIMVS,**  
aut ut alij malunt, **ABVLABBAS,**  
**MVTIVS LILLA,** f. Mufta-  
diri, f. Muradidi, f. Muaffici,  
f. Mutewakkeli.

**M**ATER ejus genitrix no-  
men habuit *Mafala*. Creatus  
fuit Chalifa eodem die quo  
patruelis ejus *Mustafis* de-  
positus fuit, id est die 22 *Gjumade* poste-  
rioris, anni *Hegira* 334. quo imperium  
adminiftrabat *Ahmed Muazzu* ddaulas  
f. *Boja*, *Dailamus*.

Bellum  
Nafirudd.  
cum Mu-  
azzudd.

Eodem anno contendit Imperator *Ha-  
senus Nasirudda*ulas f. *Abdalle* f. *Hama-  
dani Bagdadum*, oppugnatum Imperato-  
rem *Muazzu* ddaulam f. *Boja*: & multis  
ab ijs commissis praelijs, tandem *Nafirud-  
da*ulas ingressus est urbem, & obtinuit  
regionem ejus Orientalem, *Muazzu*-  
*da*ula tenente Occidentalem. cumque  
fugit *Nafi-  
rudd*aulas.  
bello se mutuo peterent, tandem fugit  
*Nafirudd*aulas, & cessit imperium *Mu-  
azzu* ddaule f. *Boja*.

fugit Nafi-  
ruddaulas.

Buzunus  
moritur.

Eodem anno vita excessit *Buzunus* de-  
positor *Moctafis*, die vigesimo tertio *Mu-  
harrami*: ante scilicet quam *Muazzu* d-  
*da*ulas ingrederetur *Bagdadum*.

Achsjadi  
obitus.

Eodem quoque anno vita defunctus est  
*Abubecrus Achsjidus* f. *Taagi*, Rex *Ae-  
gypti* & *Syriae*, die 22 *Dulhiggie*, anni  
334. obiit autem *Damasci*. Ad naturam  
ejus quod attinet. Rex fuit fortis, atque  
strenuus, & bellis suis invigilans. *Arra-  
dis Billa* autem cognominavit eum *Ach-  
sjidum*, propterea quod *Farganus* erat:  
Reges autem *Fargani* cognominabantur  
nomine *Achsjadi*; sicuti Reges *Romano-  
rum Caesar*, & *Persarum Casroes* appel-  
lantur. Ajunt numerum militum ejus  
fuisse quatuor centena millia. *Mamluco-  
rum* autem millia habebat octo, quorum  
singula ministerio ejus destinata erant,  
eique excubabant singulos dies. Nihilo-  
minus tamen non dormiebat noctu in co-  
dem semper loco. cumque in castris esset

Potentia.

potentia.

الثالث والعشرين من الخلفاء العباسيين  
وهو الرابع والاربعين المطيع لله ابو  
القاسم وقيل ابو العباس الفضل  
بن المقتدر بن المعتض بن  
الموفق بن المتوكل \*

ام ولد يقال لها مسعدة  
وامه بويغ له بالخلافة يوم خلع  
ابن عمه المستكفي وذلك  
لثمان بقين من جمادى الاخرة سنة اربع  
وثلاثين وثلاثمائة وتدبر الممالك  
الى الامبر معر الدولة احمد بن بويه  
الديلمي

وفي هذه السنة قصد الامير ناصر  
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان  
بغداد لمحاربة الامبر معر الدولة بن  
بويه فجرت بينهما حروب اخرها ان  
ناصر الدولة دخل بغداد وملك  
الجانب الشرقي وملك معر الدولة  
الجانب الغربي ثم تحاربا فانهم  
فاصر الدولة واستتب الامر لمعر الدولة  
بن بويه

وفي هذه السنة توفي بن زنون خالع  
المفتي وذلك لثمان بقين من المحرم قبل  
دخول معر الدولة بغداد

وفي هذه السنة توفي الاخشبدي ابو  
يكر بن طنج صاحب مصر والشام  
لثمان بقين من ذي الحجة سنة اربع  
وثلاثين وثلاثمائة وكانت وفاته  
بدمشق وسبته كان ملكا شجاعا  
مقدما متيقظا في حروبه وكان الراضي  
بالله لقبه الاخشبدي وانما لقبه بذلك لانه  
فرشاني وكان ملك فرشانه لقب  
بالاخشبدي كما يسما ملك الروم قيصر  
وملك الفرس كسري ويقال  
كانت عدة عسكره اربعمائة الف  
وكان له ثمانية الف مملوك كل  
الف منهم ملازمون خدمته ويحرسونه  
يوما وليلة ومع ذلك ما كان ينام الليل  
في موضع واحد وادا كان في الخيام



لا ينام في خيمته بل يخرج في الليل  
وينام في خيمة اخرى بحيث لا يعلم به  
احد من خواصه كل ذلك خوفا على نفسه  
ولما توفي الاخشيد تولى الملك بعده ابن  
حور محمد ولده وتفسير ابن حور مجنون  
وقام بالملك وتدبيره كافور الحصي  
خادم ابنه فانه كان مستولي عليه  
وعلى تدبير المملكة وكان كافور  
شديد السواد بصاصا وكان الاخشيد  
قد اشترى بثمانية عشر دينار فقدر الله  
تعالى ملكه الديار المصرية ودمشق  
وبلدها وهو الذي امتدحه ابن  
الطيب المنيني بالقصايد المشهورة التي  
من جملتها القصيدة التي اولها  
كفي بك ذا ان ترمي الموت شافيا  
وحب المنايا ان تكون امانيا \*  
ويقول فيها

قواصد كافور ذوارل غيرة ومن  
ورد البحر استقل السواقيا \*  
وفي هذه السنة توفي القائم بامر الله  
ابن القاسم محمد بن المهدي صاحب  
القبروان وذلك في اخر شوال فكانت  
مدة مملكته اثني عشر سنة وسبعة اشهر  
وكان عمره ثمان وخمسين سنة ويبيع  
بالخلافة لولده المنصور بالله ابي طاهر  
اسماعيل وكان خطيبا فصيحاً يخترع  
الخطبة لوقته وكان مولده بالمهدية  
سنة احدى وثلاثين وثلثمائة ٥٢٠

قال وفي سنة خمس وثلاثين وثلثمائة  
ورد الخبر ان الامير ركن الدولة ابن  
الحسن علي بن بويه قصد الري ومملكها  
وملك الجبل باسره ٥٢٠

وقبها سار الامير سبغ الدولة بن  
حمدان الي حصن رباد وغزي الروم واحرق  
وقتل وسبي فخرج اليه الدمستق فالتقاه  
سبغ الدولة فانهزم الدمستق وقتل من  
اصحابه نحو من عشرين الفا واسر نحو  
من الفين وعاد سبغ الدولة سالما ٥٢٠  
وفي سنة ست وثلاثين وثلثمائة سار  
الامير سبغ الدولة الي حصن بمرية حتي  
يفتحه فبقي عليه الي ان دخلت سنة سبع

non dormiebat in tentorio suo, sed egres-  
sus noctu dormiebat in tentorio alieno, ut  
nemo familiarium ejus sciret ubi esset.  
idq; ea sola de causa, quod sibi metueret.  
Mortuo Achsjido successit in imperio fi-  
lius ejus Muhammed Abuhurus, (signifi-  
cat autem Abuhurus laudatum) sed im-  
perium omne tenente atq; administrante  
Cafuro Hasaneo patris ejus ministro, qui  
& eum, & imperium sibi subjecerat.  
Erat autem hic Cafurus nigerrimus, &  
splendens; emeratque eum Achsjidus 18  
aureis. Sed Deus Opt. Max. effecit ut Rex  
factus fuerit Aegypti, & Damasci ac  
regionis ejus. Et is est quem laudat Poeta  
Abuttajibus Mutenebbis in celeberrimis  
suis carminibus; inter quae & unum est  
hoc initio.

Successor.

Cafurus.

Sufficit in te hoc, quod videas  
mortem propinquam &c.

in quo ait

Quae levia sunt Cafuro, ea alijs  
sunt gravissima. Qui mare ingre-  
ditur, contemnit parvos fluvios.

Eodem anno obiit Muhammed Abul-  
casimus Caijmus Biamrilla, Princeps Cai-  
rawani, in medio mensis Sjewali, cum  
imperasset 12 annos, & menses 7, ac na-  
tus esset annos 58. & creatus est Chalifa  
filius ejus Ismael Abutaherus Almanfor  
Billa, qui orator erat eloquens, & ex  
tempore orationem dicebat, natus Maha-  
dia anno 301.

Caijmus  
Biamrilla  
moritur.Ei succe-  
dit Alman-  
for Billa.

Anno trecentesimo trigesimo quinto  
rumor venit Imperatorem Hasenum  
Abualim Rucnuddaulam f. Boja conten-  
disse Raijum, idque occupasse, & sub-  
jugavisse totum montem.

Coepit 2  
Augusti.  
A. C. 946.

Eodem anno petijt Imperator Saifud-  
daulas nepos Hamadani arcem Ziada, &  
Romanis bellum intulit, ferroque &  
flamma grassatus captivos multos cepit.  
sed exijt contra eum Domesticus, qui,  
cum obviam ei profectus esset Saifuddau-  
las, fugit, militum ejus millibus circiter  
viginti caesis, & duobus captis. Saifud-  
daulas autem incolumis reversus est.

Saifuddau-  
las bellum  
infert Ra-  
manis.

Anno 336 petijt Imperator Saifud-  
daulas arcem Bursie, ut eam caperet, ob-  
seditque eam ad initium usque anni 337,

Coepit 23  
Iulij. A. C.  
947.

Et cepit eam deditioe, murumque ejus diruit. Obsedit quoque Domesticus Leo fil. Barda Cafa Hadbam, donec eam cepit; Et, diruto muro ejus, ab ea discessit.

Muteraffius Caramita.

Eodem anno prodijt Halebi Caramita quidam vocatus Muteraffius, seque Principem nominavit. cum autem familia aliquot Arabum eum sequerentur, petijt Emissam. sed exijt contra eum Abuawilus f. Davidis f. Hamadani, quem patruelis ejus Saifuddaulus, prefecerat Emissa. at Muteraffius eum cepit, Et milites ejus in fugam vertit. quod cum cognovisset Saifuddaulus, ipse Halebo egressus eum adiit, Et assequutus est in agro Damasceno, eumque Et milites ejus trucidavit, ita ut non evaderent nisi ij qui precesserant. Atque ita liberavit patruis sui filium, Et decem diebus reversus est Halebum, afferens caput Caramita, hasta impositum, qua de re Abusaras f. Hamadani.

Mifit qui acuerat ferrum, & liberare eum fecit Abuawilum.

Et reversus est, & caput Caramitæ ante eum, cui corpus erat calcaneis privatum.

Quæ inventio nova est, Et singularis elegantia: qua eadem Et alterius cujusdam Poeta hoc audiivi.

Reversus est, sed ipse caput sine corpore: incedit, sed super crure sine pede.

Eodem anno contendit Imperator Ahmed Muazzuddaulus f. Boja Mausilum, Et adiit eum Saifuddaulus nepos Hamadani, ac facta ab ijs pace, reversus est Muazzuddaulus Bagdadum.

Anno 338 vita excessit Amaduddaulus f. Boja, idque Sjrasi, cum ibidem imperium tenuisset annos sedecim, Et natus esset annos 57. Atque hic maximus natus erat filiorum Boja, Et primus ex familia ejus ad imperium evectus. Nullam reliquit prolem. Fuit autem Rex strenuus, prudens, fortis, Et magna potentia. Chalifa, in literis suis, appellabat eum Imperatorem Imperatorum. Cumque obiisset scripsit Mutius Lilla ad filium fratris ejus Imperatorem Abusjngajum

Cœpit 30 Junij. A.C. 949. Amaduddaulæ obitus.

Natura.

وثلاثين وثلاثماية وفتح بالامان وهدم السور واقام الدمستق لاون بن برداس القفاص على الحذب يلا ان فتحه واخرت سورة ورجل عنه.

وفيها ظهر بحلب رجل من القرامطة يقال له المترفع ودعا الي نفسه فتبعه قبائل من العرب ومضي الي حمص فخرج اليه ابي اويل بن داود بن حمدان وكان بن عمه سبغ الدواة قد ولاة حمص فاسره المترفع وانهم اصحابه وبلغ سبغ الدولة ذلك فسامر من حلب اليه فلحقه بنواحي دمشق فقتل سبغ الدولة المترفع واصحابه ولم ينج منهم الا امن سبغ واستنجد ايا اويل ابن عمه وعاد الي حلب في عشرة ايام وراس القرمطي معه علي مرج فقال في ذلك ابي فراس بن حمدان

وانقد من مسن الحديد ونقله ابا

اويل والدم احدع صاعر \*

وعاد وراس القرمطي امامه له جسد

من اكعب الرفع صاهر \*

قلت وهذا المعني بديع مغرط في الحسن وسمعت لبعض الشعرا في معناه

وعاد لكنه راس بلا جسد بمشي

ولكن علي ساق بلا قدم \*

ادا دراي علي الخطي اسغر في حال

العبوس له بعراعر سسم \*

وفي هذه السنة قصد الامير معر الدولة احمد بن بويه الموصل فسار اليه سيف الدولة بن حمدان فوقع الصلح بينهما وعاد معر الدولة الي بغداد.

وفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثماية كانت وفاة عماد الدولة بن بويه وذلك بشيران وكانت مدة ملكته بها ستة عشر سنة وعمره سبع وخمسين سنة وهو اكبر بني بويه وهو اول من ملك من اهل بيته ولم يخلف ولدا وكان ملكا شجاعا عاقلا محترما عظيم القدر وكان الخليفة يخاطبه في كتبه بامير الامراء ولما توفي كتب المطبع لله الي ابن اخيه الامير عضد الدولة ابي شجاع



فتاخر واتي الامير مكن الدولة  
كتابا لقبه فيه ضد الدولة وورثه ما  
كان بيد عماد الدولة من الممالك  
وفي سنة تسع وثلاثين وثلثمائة  
ردت القرامطة الحجر الاسود الي موضعه  
فكان مدة اخذه وورده اثني وعشرين  
سنة

وفي هذه السنة كانت وقعة الملقات  
وذلك ان سيف الدولة بن حمدان  
غزا الروم فاقام شهرين يقتل ويسبي  
ويحرق وسار الي الدمستق فالتقاء  
بالملاقات وهو موضع ورا خرسنة  
فتقاتلوا فهزم الروم وقتل منهم نحو من  
ثلاثين الفا واسر من البطارقة نحو من  
الفين

وفيها كانت وقعة المصبطة  
وذلك ان سيف الدولة بن حمدان سار  
الي درب المعروف بدرب مقطع الاظفار  
ويسمى درب الكيكون فوجد  
الدمستق عليه فتقاتلوا فهرب سيف  
الدولة في نفر يسير من اصحابه ولما  
اصبح الصبح ساق الدمستق علي من  
وجده من العامة فقتل منهم خمسة الف  
رجل واسر نحو من ثلاثة الف وانهم  
الباقون

وفي سنة احدى واربعين وثلثمائة  
توفي المنصور بالله ابو طاهر اسمعيل بن  
المهدي صاحب القبروان وذلك في  
آخر شوال فكانت مدة ملكه سبع  
سنين وستة عشر يوما وعمره تسع وثلاثين  
سنة وبويع بالخلافة بالمهدية ولده المعز  
لدين الله ابو قهم معبد بن اسمعيل بن  
محمد بن المهدي وهو اول خلفاء مصر  
وسنذكر دخوله اليها ان شاء الله  
تعالى وكان المعز عالي الهمة شريف  
النفس قد درج بلاد المغرب ودلت له  
القبائل

وفي سنة سبع واربعين وثلثمائة  
قصد الامير معز الدولة بن بويه الموصل  
فلكها ومضى ناصر الدولة بن حمدان  
منهزم الي نصيبين ثم الي حلب

*Adaduddaulam; qui cū diutius paulò moraretur, dedit Imperatori Rucnuddaulæ epistolam, in qua eum nominavit Adaduddaulam, & hereditare jussit omnia ea regna quæ possederat Amaduddaulas.*

Successor:

*Anno 339 restituerunt Caramita Lapidem nigrum in locum suum, post annos scil. viginti duos quam eum abstulissent.*

Cœpit 20  
Iunij.  
A.C. 950.

*Eodem anno commissum est prælium Malacaticum. Cum enim Saifuddaulas nepos Hamadani bellum inferret Romanis, jamque duos menses ferro, & flamma grassatus esset, ac multos cepisset captivos, tandem adiit Domesticum, ei-que occurrit in Malacata, qui locus est ultra Chorfenam, comissoque prælio, in fugam vertit Romanos, & triginta circiter eorum millia occidit. Episcoporum autem cepit circiter duo millia.*

Bellum  
Saraceno-  
rum cum  
Romanis.

*Eodem quoque anno commissum est prælium Massense. Cum enim Saifuddaulas nepos Hamadani abiisset ad montium angustiam, quæ dicitur Angustia Maclatfari, & Angustia Ciceronis, adorsus eum est Domesticus, & commisso prælio, fugit Saifuddaulas, cum paucis de suis militibus. factò autem manserunt quoque Domesticus in plebem, quam illic invenit, quinque ex ea virorum millia occidens, & circiter tria millia in servitutem abducens, reliquis fuga elapsis.*

Prælium.

*Anno 341 mortuus est Ismael Abutaberus Almanzor Billa; fil. Mahadis, Princeps Cairawani, idque in fine mensis Sjewali, cum imperasset annos septem & dies sedecim, & natus esset annos 39, & creatus est Chalifa, Mahadia, filius ejus Maabadus Abutamimus Muazzus Lidinilla, f. Ismaelis, f. Muhammedis, f. Mahadis. atque hic primus fuit Chalifa Aegypti. dicemus autem postea, Deo volente, quando eam ingressus sit. pro-cera fuit statura, & nobili indole: in ordinem cœgit regionem Occidentis, & nationes subjugavit.*

Cœpit 28  
Maij.  
A.C. 952.  
Almanzor  
mors.Successor  
Muazzus.

*Anno 347 contendit Imperator Muazzuddaulas f. Boje Mausilam, eaque est potitus. Nasiruddaulas autem f. Hamadani fugit Nasibinum, atque inde Halebum.*

Cœpit 25  
Martij.  
A.C. 958.  
Muazzud-  
daulæ vi-  
ctoriz.

& occupavit Muazzuddaulas Diarrebiam totam, Manslam scilicet, Gjeziram, Nasibinam, Singjaram, Rahabam, Rafulainum, & Chaburam: mansitque in ea ad annum usque 348, quo pacem fecit cum Nasiruddaula, & reversus est ipse Bagdadum, Nasiruddaulas autem in regionem suam.

Pax cum  
Nafirud-  
daula.

Cœpit 14  
Martij.  
A.C. 959.

Anno 348 ceperunt Romani Haratum Abufarasum f. Saïdi, f. Hamadani, qui filius erat patris Imperatoris Saifuddaula. secesserat enim Mambagum. cum autem Romani id infestarent mille equitibus, duce Theodoro filio sororis Regis eorum, invenerunt Imperatorem Abufarasum cum 70 equitibus venantem, eosq. adorsi sunt, sed restitit ijs Abufarasus, donec vulneribus debilitatus fuit; tunc enim eum ceperunt, & abduxerunt Constantinopolin, ubi aliquamdiu mansit captivus. deinde dimissus fuit. & post iterum quid de eo factum sit dicitur.

Cœpit 2  
Martij.  
A.C. 960.  
Abuhurus  
mors &  
successor  
Alis.

Anno trecentesimo quadragesimo nono obiit Abuhurus fil. Achsjidi Rex Aegypti, & successit ei frater ejus Alis: sed Casuro patris eorum ministro imperium omne tenente.

Cœpit 28  
Februarij.  
A.C. 951.

Anno 351 ceperunt Romani Halebum: idque hoc modo contigit. Petijt id Domesticus, cum ducentis Romanorum millibus quorum triginta millia thoracibus erant induti. erantq. cum ijs quatuor mulorum millia vehentia tribulos ferreos, quos Domesticus in circuitu castrorum suorum collocabat. Saifuddaulas autem f. Hamadani expedit contra eos majorem exercitus sui partem, duce Nagjao servo suo, ipse manens cum parvo cœtu. at illi à via Nagjai & militum ejus divertentes, Saifuddaulam petierunt, qui cum exiguo erat militum numero, eumque improvise obruerunt, in monte . . . . ., & in fugam verterunt. Hinc obsederunt Halebum tres dies, & vi id expugnarunt, atque incolas omnes occiderunt, & omnem pecuniam Saifuddaula, ac thesauros ejus nacti sunt. arcem autem octo dies obsederunt. qui rumor cum venisset Damascum, cui tunc temporis præerat Dalimus Acalam,

Romani  
Halebum  
capiant.

وملك مقر الدولة ديار مريجة جميعها وي الموصل الجزيرة ونصيبين وسنجار والرحبة وراس العين والخابور واقام بها يلا ستة ثمان واربعين وثلاثماية ثم تقرر الصلح بينه وبين ناصر الدولة وعاد مع الدولة الي بغداد ورجع ناصر الدولة الي بلاده.

قال وفي سنة ثمان واربعين وثلاثماية اسر الروم ابافراس الحرت بن سعيد بن حمدان وهو بن عم الامير سيف الدولة وكان منقطعا منبج فعمرت الروم على منبج في الف فارس مقدمهم قودرس بن اخت ملكهم فصادفوا الامير ابا فراس يتصيد في سبعين فارسا فوثبوا عليهم وقتلهم حي النخن بالجراح فاسروه ومضوا به الي القسطنطينية فبقي اسيرا مدة ثم اطلق بعد ذلك وسپرد خبره اخيرا.

وفي سنة تسع واربعين وثلاثماية توفي ابن حور بن الاخشيد صاحب مصر فملكها بعده اخوه علي والامر كله الي كافور خادم ابهما.

وفي سنة احدى وخمسين وثلاثماية اخذت الروم حلب وذلك ان الدمشقي قصد لها في مايتي الف من الروم منهم ثلاثون الفا بالجواشن ومنهم ثلاثون الفا ضياع القدم ومعهم اربعة الف بغل عليها حسك الحديد كان الدمشقي يضعها حول عسكرة تجرد لهم سبغ الدولة بن حمدان اكثر عسكرة مع نجا مولاه وبقي في جمع قليل فحالفوا نجا ومن معه في الطريق وجاوا الي سيف الدولة وهو في قلعة من العدد فوقعوا به على جبل نابغوسا فهزموه وانزلوا حلب ثلثة ايام ففتحوها عنوة وقتلوا كلن فيها واستولوا على اموال سبغ الدولة ودخايرة واقاموا ثمانية ايام علي حصار القلعة فبلغ الخبر الي دمشق واليهما يومئذ ظالم العقلي

romine



من قبل الاخشيد فنفر في عشرة الف مقاتل نجدة لسيف الدولة فبلغ الروم ذلك فرحلوا عنها يوم الاربعاء مستهل دي الحجة

وفي هذه السنة وقع ابن الوردي صاحب خلاط مات فلحقها بعده نجا مولا سيف الدولة بن حمدان وتفاه امره وعصي مولاه

وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثماية نزل الدمستق الي المصبصة واجتهد علي فتحها فلم يقدر وجات المسلمون من طرسوس فوقعتم الروم عليهم فقتلوا منهم نحو من خمسة الف رجل وقتلوا من الروم خلقا كثيرا

وفي هذه السنة حاصر نجا مولا عقبه الدولة ميفارقين لياخذها ماعر الدولة بن بويه مرأمة مولاه فلما اخذ في الحصار بلغه ان قريبا لابي الوردي وثب عليه بلاد كرد واخذها فانصل نجا عن ميفارقين فطلب خلاط لينج منها قريبا ابي الوردي ودفعه عن بلاد كرد فتهب عسكرة

وفي سنة اربع وخمسين وثلاثماية عاد الدمستق الي المصبصة وفتحها وقتل من اهله خلقا كثيرا واخذ الباقيين اسارى ثم مضى الي طرسوس فتسلها بالامان وفيها قتل سيف الدولة نجا مولاه وتسلم خلاط

وفي سنة خمس وخمسين وثلاثماية توفي علي بن الاخشيد صاحب مصر والشام وصار كافور خادما لابي مالك مصر والشام ولم يرل مالكا الي ان مات في سنة ثمان وخمسين وثلاثماية

وفي هذه السنة تم الغدا بين الروم وبين سيف الدولة بن حمدان وتسلم بن عا ابا فرانس في جملة من تسل من اسرى المسلمين وكان مدة اسره سبع سنين واشهر ولم يلبث بعد اطلاقه الا مدة يسيرة ثم توفي رحمه الله وكان فاضلا شاعرا ادبيا ومن جملة شعره وهو في الاسر

*nomine Alis fil. Achsjidi, exijt Dalimus, cum decem militum millibus, suppetias latum Saifuddaule: quod cognoscentes Romani, ab ea discesserunt, die Mercurij, initio Dulhiggie.*

*Eodem anno cecidit, & mortuus est Abulwerdus Princeps Chalati, quod, post eum, occupavit Nagjais servus Saifuddaule f. Hamadani, qui imperio auctus contra Dominum suum rebellavit.*

*Anno 353 obsedit Domesticus Misfiam, & omnibus viribus conatus est eam capere; at frustra. Cumque Muslimi Tarso advenirent, irruerunt in eos Romani, & circiter quinque eorum millia occiderunt. sed & illi Romanorum plurimos trucidarunt.*

*Eodem anno obsedit Nagjais servus Saifuddaule Majafarikinam, capturus id Muazzuddaule filio Boja, ut rem ingratam faceret Domino suo. Cum autem id cepisset obsidere, intellexit propinquum quendam Abulverdi impetum fecisse in regionem Kerda, eamque cepisse: unde, relicto Majafarikino, Chalatum petijt, ut ab ea arceret propinquum Abulwerdi; & expulit eum regione Kerda, atque exercitum ejus spoliavit.*

*Anno 354 reversus est Domesticus ad Misfiam, eamque cepit; at multos oppidanos occidit, & reliquos in captivitate abduxit. Hinc abiit Tarsum, quam & deditione cepit. Eodem anno occidit Saifuddaule servum suum Nagjium, & potitus est Chalato.*

*Anno 355 obiit Alis f. Achsjidi Princeps Aegypti & Syria: & factus est Caffurus famulus patris ejus Rex Aegypti & Syria, duravitque regnum ejus donec obiit, anno 358.*

*Eodem anno captivorum dimissio sancita est à Romanis & Saifuddaule f. Hamadani, & sic inter multos alios quos recepit captivos, & patris sui filium Abufarasum recepit, qui septem annos & aliquot menses fuerat captivus. liberatus autem non diu supervixit; sed obiit: miseretur ejus Deus. Erat autem vir excellens, & Poeta eruditus. atque inter alia carmina & hoc fecit captivus.*

arcem deserunt.

Cœpit 19  
Januarij.  
A. C. 964  
Misfisa à  
Romanis  
obsidetur.

Nagjai vi:  
Gloria.

Cœpit 7  
Januarij.  
A. C. 965

Nagjai  
mors.

Cœpit 28  
Decemb.  
A. C. 965

Alis Rex  
Aegypti  
moritur.

Abufarasus,

Non

Non est fervi ab eo quod decernit  
de eo Deus abstinere, &c.

*Cœpit 17*  
*Decemb.*  
*A.C. 966.*  
*Saifuddau*  
*læ obitus.*  
*Imperium.*  
*Natura.*  
*Amor eru-*  
*ditorum.*  
*Eruditio.*

*Anno 356 obiit Imperator Saifuddaulas*  
*f. Hamadani, Dominus Halebi, die Iovis,*  
*vigesimo quarto Safari; & portatus est*  
*Majjafarikinam, ibique sepultus. Regna-*  
*vit autem Halebi annos viginti tres: &*  
*vixit annos quinquaginta quinque. Na-*  
*turam ejus quod attinet. Rex fuit strenuus,*  
*reverendus, eruditus, valde justus, & be-*  
*neficus, ac religioni addictissimus. erat-*  
*que habitaculum ejus Synagoga virorum*  
*doctorum; & aula, domicilium liberali-*  
*tatis, & receptaculum eruditorum, ac Poë-*  
*tarum. neque quisquam ab aula ejus reces-*  
*sit, quin benignitatem ejus laudaverit.*  
*Erant autem in aula ejus multi Poëta: &*  
*inter alios quoque Mutenabbis, qui in Di-*  
*vano suo, septem de eo habet carmina:*  
*item Abulfarbus Alwawas, & Chalidus,*  
*ac Abulfarbus Albagas, multique alij.*  
*Quin & ipse quoque bonos fecit versus: &*  
*inter ceteros hosce, de puella è regia prosa-*  
*pia nata, quam amabat plurimum, & in*  
*arcem quandam transtulerat, ut eam cu-*  
*stodiret à veneno, quod propinandum ei*  
*metuebat à reliquis uxoribus suis, quæ*  
*emulabantur ei.*

Expectant me oculi qui sunt in te:  
& commiseratione moveor; ne-  
que desinam unquam commise-  
ratione moveri.

Sed video hostem qui nuntiat mihi  
de te gloriam, in animabus amo-  
ris.

Opto itaque ut sis remota, & qui in-  
ter nos est amor maneat.

Sæpe discessus fit metu discessus, &  
separatio metu separationis.

*Successor*  
*Saadud-*  
*daulas.*

*Cum autem moreretur Saifuddaulas,*  
*erat filius ejus Imperator Sjarifus, Majja-*  
*farikina: & convenerunt Duces, ac mi-*  
*lites, Halebi, eique assignarunt imperium,*  
*cognominantes eum Saaduddaulam. cum-*  
*que vocassent eum Halebum, venit; & sta-*  
*bilitum ei fuit imperium.*

*Muzzud-*  
*daulæ obi-*  
*tus.*  
*Imperium.*

*Eodem anno obiit Imperator Mu-*  
*azzuddaulas fil. Boja, Bagdadi, die deci-*  
*mo septimo Rabij posterioris: cum in Iraca*  
*imperasset annos 21, & aliquot menses.*

ما للعبد من الذي يقضي به الله  
امتناع \*

ددت الاسود عن الغريسة ثم يعر سفي  
الضباع \*

قال وفي سنة ست وخمسين وثلاثماية  
كانت وفاة الامير سيف الدولة بن  
حمدان صاحب حلب يوم الخميس لست  
بقيين من صفر وحمل اليه بمبارقين  
ودفن بها وكانت مدة ملكته بحلب  
ثلاث وعشرين سنة وكان عمره خمس  
وخمسين سنة \* سبرته كان ملكا  
شجاعا كرها عالما كثير العدل  
والاحسان مجاهدا في سبيل الله تعالى  
وكان مجلسه مجمع اهل العلم وبابه  
قبلة الجود ومقصد اولي العلم والشعر  
وما انفصل احد من بابه الا شاكرا  
لفضله \* وكان في بابه من الشعراء  
جماعة منهم المنتبي وله فيه القصائد السبع  
في ديوانه وابي الفرج الواو والخالدي  
وابي الفرج البغا وجماعة كثيرة وله شعر  
جيد من جملة قوله في جارية من بنات  
الملوك كان يهواها كثيرا فحسد لها ساير  
خطايبه وخاف عليها منهم من سم فقلها  
الي بعض الحصون ليجننها منهم  
راقبني العيون فبك فاشغقت ولم  
اخذ قط من اشغاق \*

ورابت العدى يحبني فبك مجددا  
يا نفس الاعلاق \*

فتميت ان تكوني بعيدا والذي  
يبئنا من الود باقي \*

رب هجر يكون من خوف هجر  
وفراق يكون خوف فراق \*

ولما توفي سيف الدولة كان ولده  
الامير شريف بمبارقين فاجتعت  
القواد والاجناد بحلب وعقدوا له الامر  
ولقبوه سعد الدولة واستدعوه فاقدم  
الي حلب واستتب له الامر

وفي هذه السنة كان وفاة الامير معز  
الدولة بن بوية ببغداد لثلاث عشرة ليلة  
بقية من ربيع الاخر وكان مدة ملكه  
العراق احدي وعشرين سنة واشهر \*



سيرة كان ملكا شجاعا مقداما قوي القلب صلب النفس الا انه كان في اخلاقه شراسة وكان متعسفا في مطالبته ما نزلت التجارب تحكمه والسعادة تعلمه وترفعه الى ان بلغ الغاية التي لم يبلغها احد قبله الا الخلفاء \* ولما توفي معز الدولة قام بتدبير الملك بعده ولده الامير عز الدولة بختيار وقلده الخليفة المطيع لله موضع ابيه وكناهه وخلق عليه واستقل بالامور

وفي هذه السنة قبض ابو ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان على ابيه ناصر الدولة وبعثه الى قلعة اردمن وكان سببه انه لما ورد على ناصر الدولة وفاة اخيه سبغ الدولة حزن عليه حزنا مفرطا فتغيرت احواله وسات اخلاقه وطمع فيه اولاده ففعل فيه ابنه ابو ثعلب ما ذكرناه وولي اولاد ناصر الدولة الموصل وما كان بيد والدهم وفوضوا امرهم الي ابو ثعلب اخيه

وفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة كانت وفاة كافور الاخشيدى صاحب مصر وكان تغلبه على مصر منذ توفي الاخشيد وصار الامر كله له ولم يكن لاولاد سبده الا مجرد الاسم وكان متخلقا باخلاق الملوك ويحضر الى مجلسه العلماء والفضلاء والعشرا وقصده المتنبى وامتدحه بالقصايد الكافور بات المذكور في ديوانه ولم ينصفه ففارقته وهجاه وديوانه يشهد مدحه وهجوه ولما توفي عقد الامر بعده لعلي بن محمد بن الاخشيد وهو يومئذ ابن احدى عشرة سنة وخليفته الحسين بن عبد الله بن طنج والوزير ابو الفضل جعفر بن المديون

*hammedis, filij Achsjidi, qui natus tunc erat undecim annos, & vicarium accepit Huseinum f. Abdalla f. Taagi: Consiliarium autem, Gjafarem Abulfadlum f. Madjuni.*

*Ad naturam ejus quod attinet. Rex fuit strenuus, audax, forti animo, atque invicto. at non deerat ei malitia; eratque imprudens in suis actionibus: sed continua experientia reddidit eum sapientem, & prosper rerum successus erudit eum, adque eam sublimitatem evexit, quam non est assequutus ante eum quisquam prater Chalifas. Cum autem obisset Muazzuddaulas, successit ei in imperio filius suus Imperator Bachtiarus AzZuddaulas, cui Chalifa Mutius Lilla locum patris ejus concessit, cognominans eum, & veste imperiali induens; ipsi autem diminuta fuit rerum administratio.*

*Eodem annoprehendit Abuthalabus f. Nasiruddaula f. Hamedani, patrem suum Nasiruddaulam, misitque eum in arcem Ardamana. cujus rei causa haec fuit. Postquam Nasiruddaulas intellexit obitum fratris sui Saifuddaula, luxit eum luctu nimio, ita quidem ut dolore ad insaniam redactus fuerit. Cum autem solliciti de eo essent liberi ejus, fecit ei filius suus Abuthalabus id quod jam commemoravimus. & susceperunt liberi Nasiruddaula gubernationem Mausila, ac omnium eorum quae possederat pater eorum: adscripserunt tamen reliqui imperium Abuthalabo fratri suo.*

*Anno 358 vita excessit Cafurus Achsjideus Dominus Aegypti: cui (revera) dominatus erat inde ab obitu Achsjidi, ita ut totum imperium ipsius esset, & non relinqueretur filijs Domini ejus quidquam prater nudum titulum. Erat autem indole regia: & vocabat in aulam suam viros quosque doctos, & insignes, ac Poetas: & inter ceteros Mutenabbim, qui & laudavit eum, eo carmine cujus initium est Cafurus pernoctavit, quod in Divano ejus extat; quoque abrupto, antequam ad dimidium ejus pervenisset, satyricè in eum scripsit. Divanum certè ejus, encomium illius, & vituperium continet. Cum autem obisset cessit imperium Ali filio Mu-*

Alis nepos Achsjidi Imperator Aegypti.

Natura.

Magnitudo.

Successor Azzuddaulas.

Nasiruddaulas mente captus, arci includitur.

Cæpit 25 Novemb. A.C. 968. Cafuri obitus.

Indoles.

Mutenabbis Poeta.

Initium

Initium Nobilitatis Fatimidarum  
in Aegypto.

Quomodo Muazzus Lidinilla Fatimides occupaverit Aegyptum, quam Deus custodiat.

Gheuharus  
Aegyptum  
occupat no-  
mine Mu-  
azzi.

**E**odem anno venit Gheuharus minister Muazzi Lidinilla qui Dominus erat Cairawani cum exercitu in Aegyptum, & erexit Nobilitatem Muazizicam: ita ut populus Muazzo juramentum fidelitatis praestiterit; & Gheuharus pacta cum eo fecerit. Ingressi autem sunt Gheuharus, & exercitus ejus Aegyptum, die Martis, decimo septimo Sjaabani, anni 358. Facta autem est vocatio Muazzi Lidinilla die Veneris, vigesimo Sjaabani ejusdem anni. atque ab eo tempore desijt in Aegypto haberi Oratio publica nomine Abbasidarum. ita ut ultimus eorum quorum nomine in Aegypto oratum fuit, fuerit Mutius Lilla. atque id ita duravit donec Abbasidis orationem restituit Iosephus Sallahuddinus Ijobides, fel. mem. sicuti, volente Deo, dicturi sumus suo loco.

Oratio  
Abbasida-  
rum cessat  
in Aegyp-  
to.

Alcahira  
in Aegypto  
aedificatur.

Atque hic Gheuharus curavit adificandam Alcahiram Muazizicam, ut in ea habitarent milites: & extruxit in ea arcem imperialem: adificationis autem ejus initium fuit mense Ramadano ejus anni: praecipitque Principibus & militibus, ut singuli sibi in ea domicilium excitarent.

Caept 3.  
Novemb.  
A. C. 970.

Anno 362 ingressus est ipse Muazzus Aegyptum, die Veneris octavo Ramadani, habens apud se (ut ajunt) sandapilas patrum suorum. atque eodem mense absoluta fuit edificatio Alcahira; fuitque in ea stabilitum regnum Muazzi.

ANNOTATIO.

Refert Muazzus in mandatis suis quae filio suo dedit, se curavisse aedificandam Cahiram, in horoscopo Martis, qui cogit orbem: & propter horoscopum ejus vocavisse eam Alcahiram, (quasi dicas Coactricem.)

Romano-  
rum victo-  
ria.

Eodem anno ceperunt Romani Nasibinum, & Diarrebiam totam; atque occiderunt, & captivos abduxerunt mortales plurimos. misitque Imperator Azzudaulas filius Muazizudaulae filij Bojae exercitum magnum, oppugnatum Romanos,

اول الدولة الفاطمية بالديار

المصرية \*

ذكر استيلاء المعز لدين الله الفاطمي  
على مصر المحروسة

وفي هذه السنة قدم جوهر غلام المعز لدين الله صاحب القبروان بالجبهوش إلى مصر فأقام الدولة المعرية فبايع الناس له وأخذ العهون لهم وكان دخول جوهر والعساكر الذين معه إلى مصر يوم الثلاثاء لسبع عشر ليلة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وأقيمت الدعوة للمعز لدين الله يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وقطعت الخطبة بمصر عن بني العباس من ذلك الوقت وآخر من خطب له بمصر من العباسيين المطيع لله ولم يزل كذلك إلى أن جدها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وسند ذكر ذلك في موضعه أن شاء الله

وشرع جوهر في بناء القاهرة المعرية لسكن الجند بها وبني فيها قصر الخلافة وبدأ بنائها في شهر رمضان منها وأمر للامراء والاجناد أن يبني كل واحد منهم داراً يسكنها

قال وفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة كان دخول المعز إلى مصر يوم الجمعة لثمان مضين من شهر رمضان ومعه توأبيت أبيه فيما نزعهم وتم بناء القاهرة في هذا الشهر واستقر ملك المعز بها

حاشية \*

ذكر المعز في وصيته لابنه أنه عمر القاهرة في طالع المريح وهو قاهر الفلك وسماها لطالها القاهرة

وفي هذه السنة ملكت الروم نصيبين وديار مريضة بأسرها وقتلوا وسبوا خلقاً كثيراً فجهز الأمير عمر الدولة بن معز الدولة بن بويه جيشاً عظيماً لمحاربة الروم

Ff 2

qui



وانهزم من الروم ونصر الله المسلمين عليهم واسروا المسلمون منهم خلقا كثيرا ومن جملة من اسروا الدمسقي وبقي في الاسر الى ان مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة هـ. وفي هذه السنة خلع المطبع لله وسببه ان سبكتكين التركي تغلب على الملك ببغداد وكان احد حجاب معز الدولة بن بوية ولم تزل منزلته ترتفع عند معز الدولة حتي نقله الى الاهواز وعظم امرة فوقعته الوحشة بينه وبين عز الدولة بدن معز الدولة وكان عز الدولة ان ذاك بالاهواز ثم انتقل منها الى واسط وعصي سبكتكين ببغداد واستولي على الامر وصارت الاتراك والسنة من حربة والديلم والشبعة من حرب عز الدولة ثم كانت حروب بين الفريقين ظهر فيها اصحاب سبكتكين على بغداد وخاف المطبع لله على نفسه وكانت به امراض كثيرة ايضا فخلع نفسه من الخلافة طايحا وسهلها الى ولده عبد الكريم بن المطبع ولقبه الطايح لله وذلك لثلاث عشرة ليلة خات من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة فكانت مدة خلافته تسع وعشرين سنة واربعة اشهر واحد وعشرين يوما فتوفي بدير العاقول سنة اربع وستين وثلاثمائة فكان بين خلعه وموته شهران وايام وعمره ثلث وستين سنة وكان حسن العقيدة لهن الجانب وطبي المعركة ملس الانقباط فقي الباطن كرهها كثير الصدقات والصلوات غير انه كان مغلوبا على امرة ولبس له من الخلافة الا الاسم والامر كله بالعراق وفارس لبني بوية وسائر الاطراف بيد المتغلبين وانقضت خلافته لتمام ثلاثمائة اثنين وستين سنة وعشرة اشهر وثلاثة عشر يوما للهجرة ولتامة ستة الف واربع مائة خمس وستين سنة واحد عشر شهرا واثني عشر يوما للعالم شهسية هـ.

qui in fugam ab ijs sunt versi, Deo Muslimis contra eos opitulante. ceperuntque Muslimi ex ijs plurimos, & inter ceteros Domesticum, qui & in vinculis mansit, donec obiit; quod contigit in Gjumada posteriori anni trecentissimi sexagesimi tertij.

Eodem anno imperio depositus fuit Mutius Lilla. cujus causa hæc fuit. Sebečeki-nus quidam, Turca, imperium invaserat, Bagdadi. Hic fuerat unus è Ianitoribus

Muazzuddaula f. Boja; apud quem dignitas ejus magis magisque crevit, donec tandem ablegavit eum Ahwazam; ubi, cum potentia ejus magna evaderet, inimicitia nata est inter eum, & Azzuddaulam filium Muazzuddaula. erat enim turc Azzuddaulas Ahwazæ; sed postea contulit se inde Wasitum. & rebellavit Sebečekinrus Bagdadi, ac imperium invasit. junxeruntque se ei Turca, & Sennai. at Dailami, & plebs à partibus steterunt Azzuddaula.

Deinde pralia aliquot ab ijs commissa sunt, quibus milites Sebečekini potiti sunt Bagdado. Cum autem Mutius Lilla sibi timeret, & cum varijs conflaretur morbis, sua sponte Chaliphatum deposuit, tradiditque eum filio suo Abdulkerrimo filio Mutij, & cognominari eum cum Taium Lilla, idque die decimotertio Dulkiada, anni 363. postquam Chaliphatum tenuerat annos viginti novem, menses quatuor, & dies unum & viginti. obiitque Dairacouli anno 364, post duos menses & aliquot dies, quam

imperium deposuerat. Annos vixit 63. religiosus fuit, suavis conversationis, modestus in disceptatione, lenis, facilis, sincerus, honorabilis, multis in eleemosynis, & precibus. At in imperio suo oppressus fuit, neque quidquam ei de Chalifatu remansit, præter solum titulum, imperio omni, in Iracâ & Perside existente penes filios Boja; in reliquis autem regionibus, in manu eorum qui id occupaverant. Finitus autem fuit Chaliphatus ejus, elapsis annis Hegiræ trecentis sexaginta duobus, mensibus decem, & diebus tredecim: annis autem solaribus mundi sex mille quadringentis sexaginta quinque, mensibus undecim, & diebus duodecim.

Cœpit 2  
Octobris.  
A.C. 973.

Sebečeki-nus Bagdadum occupat.

Ejus fortuna.

Mutius Lilla Chaliphatum imperium deponit.

Ejus obitus.

Natura.

Imperium.

Quod

*Quod autem ad ea attinet, ait Historicus, quæ Christianorum Historia referunt accidisse durante Chaliphatu Mutij Lilla.*

Annona  
caritas  
Bagdadi.

*Narrant anno 334 magnam fuisse Bagdadi annona caritatem; & tantam quidem, ut homines morticina ederent: & comperta sint mulieres quedam accepisse pueros, & eorum quosdam assavisse, quosdam vero in pulmentarium elixasse; per aliquot dies. at ea interfecta sunt, & projecta in Tigrim. Postea vero, novis illatis frugibus, ad pristinum annona redijt pretium.*

Sura obsi-  
detur à  
Romanis.

*Anno 337 obsedit Leo Domesticus Suram. sed prodijt contra eum Muhammed f. Nasruddaula, & de militibus ejus circiter quadringentos cecidit, & quamplurimos cepit.*

Nubio-  
rum in Aeg-  
yptum  
expeditio.

*Anno 345 excurrit Rex Nubie ad Vswanam usque; & eam destruxit, atque incolas partim occidit, partim captivos abduxit. sed terrâ fluvioque ad eum contenderunt copia Aegyptiaca, Nubiosque oppugnarunt, & vicerunt, ac multos eorum ceperunt, reliquis in fugam versis. expugnarunt quoque Muslimi arcem quandam eorum quæ Rima dicta erat.*

Romani  
vincuntur.

*Eodem anno intulit Saifuddaulas Romanis bellum, & obsedit Telbitricum, idque cepit. in fugam autem se dedit Zimifces, cum copijs suis, & muni verunt presidio montium angustiam, ad quam cum reversus esset Saifuddaulas, oppugnavit eum, donec nox eos obruit & fugâ sibi consuluit Saifuddaulas, cum paucis de suis, maximo militum ejus numero caeso, & capto. opibusque ejus & exercitu direptis. Excurrens quoque Leo Domesticus cepit Abulafajirum f. Haseni Vicarium Saifuddaula, qui portatus Constantinopolim, ibidem in vinculis obiit.*

Theophani-  
us Patri-  
archa A-  
lexandri-  
nus.

*Eodem anno trecentesimo quadragesimo quinto constitutus est Theophanius Patriarcha Iacobitarum Alexandria, eratque annus Chaliphatus Mutij undecimus. erat autem Theophanius natione Alexandrinus: cumque sedisset annos quatuor & menses sex, obiit, occisus, die decimo Keihaci.*

قال المورخ والذي ورد تواريخ النصارى من الحوادث في خلافة المطيع لله انه وقع هدمينة بغداد في سنة اربع وثلاثين وثلاثماية غلاء عظيم الى ان اكلوا الناس المبتة ووجدوا جماعة من النسوان قد اخذن صبياننا شوقون بعضهم وطخن بعضهم سكباجا في عدة ايام فقتلوا النسوان وطرحوهن في دجلة \* وبعد ذلك انحلت الاسعار عند دخول الغلة الجديدة وعادت الي ما كانت عليه ☞

وفي سنة سبع وثلاثين وثلاثماية نزل لاون الدمستق علي سورا وخرج اليه محمد بن ناصر الدولة وقتل من اصحابه رها اربع مائة رجل واسر منهم خلقا كثيرا ☞ وفي سنة خمس واربعين وثلاثماية خرج ملك النوبة حتي بلغ اسوان وخربها وقتل وسي وسارت اليه العساكر من مصر برا وبحرا وقتلوا النوبة وكسروهم واسروا منهم خلقا كثيرا وانهم باقهم وفتح المسلمون حصنا من حصونهم يعرف بالرهم ☞

وفيه اغزا سبع الدولة الروم ونزل علي تل بطريق وفتح وانهم السمست وجموعه واستحووا الدرب بالرجال فلما عاد سيف الدولة الي الدرب قاتلوه ودخل عليهم الليل فانهم سبع الدولة في نفر يسير من اصحابه واستولي الدمستق والسمست علي اصحابه فقتلوا منهم واسروا منهم خلقا كثيرا ونهبوا امواله وعساكره وخرج لاون الدمستق واسر ابا العشائر بن الحسن فايب سيف الدولة وجمل الي القسطنطينية ومات بهافي الاسر ☞

وفي هذه السنة الي هي سنة خمس واربعين وثلاثماية قدم ناوفانبوس بطرركا علي اليعاقبة بالاسكندرية في السنة الحادية عشر من خلافة المطيع وهن من اهل الاسكندرية اقام اربع سنين وستة اشهر ومات مقتولا في العاشر من كهك ☞



وفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة  
 خرج الدهستق والسسق ونزلا على  
 سميساط وفتحها ثم نزلا على رعبان  
 وحاصراها وسار سيف الدولة التقياها  
 فاستظهر الروم عليه فانهزم وتبعه  
 السسق وقتل واسر من وجوه اصحابه  
 خلقا كثيرا ودخل الي قسطنطينية ومعه  
 من الاسرى الف وسبع مائة فارس وهم  
 ركاب علي خيولهم لابسون سلاحهم  
 وفي سنة خمسين وثلاثمائة قدم ابنا  
 مينا بطركا للبعاقبة علي الاسكندرية  
 في سنة ثمان وسبعين وستماية  
 لدقلاديانوس وهي السنة الثانية من  
 ولاية علي بن الاخشيد وهي السنة السابعة  
 عشرة من خلافة المطيع اقام احدي  
 عشرة سنة ومات في نصف هاتور وخلا  
 الكرسي بعدة سنة واحدة  
 وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة مات  
 رومانس بن قسطنطين ملك الروم في  
 سادس عشر اذار سنة الف ومائتين  
 اربع وسبعين للاسكندر ومدة ملكه  
 ثلث سنين واربعة اشهر وعمره خمس  
 وعشرين سنة واشهر وجاس في الملك بعده  
 باسبل وقسطنطين وكانا طفلين غير  
 بالغين عمر باسبل سبع سنين وقسطنطين  
 خمس سنين ونواب والدهما عاناو تدبير  
 المملكة خمسة اشهر واستشارت الملكة  
 البطريرك ان تسلم الولدين الي نفقور  
 يدبرها ويدبر المملكة لما ظهر من  
 شداده ووقع الاتفاق علي ذلك فحضرت  
 الملكة في الكنيسة وسلت الولدين  
 الي نفقور بحضرة البياقوس بطريرك  
 القسطنطينية وسالته ان يدبر المملكة  
 ويتقي الله في الولدين الي ان يبالغوا  
 مبالغ الرجال فاقر نفقور كل واحد  
 من ارباب الدولة علي ما كانوا عليه  
 في ايام رومانس الملك وان يكون  
 البرنكاس علي مرسه مقما في البلاط  
 يحفظ الملكة وولديها وان يرده  
 الفعاس ابوه ولاون اخوه يحفظان  
 المدينة وان يكون هو متوفرا علي الغزوات

*Anno trecentesimo quadragesimo septimo egressi. Domesticus & Zimisces obsederunt Sumeifatam, eamque ceperunt. hinc obsidione quoque cinxerunt Rabanam. sed obviam ijs processit Saifuddaulas; quem tamen Romani vicerunt, & in fugam verterunt: persequente eum Zimisce, qui & de primarijs militibus ejus plurimos cepit, ita ut, cum Constantinopolim ingrederetur, adduceret captivos mille & septingentos equites, equis suis insidentes, & armis indutos.*

Romano-  
rum victo-  
ria.

*Anno trecentesimo quinquagesimo constitutus est Patriarcha Iacobitarum Alexandriae Abuna Minas, anno Diocletiani sexcentesimo septuagesimo octavo, qui secundus erat imperij Alis filij Achsjidi, & decimus septimus Chalifatus Mutij. cumque annos sedisset undecim, obiit, in medio mensis Haturi: vacavitque post eum sedes annum unum.*

Abuna  
Minas Pa-  
tribus A-  
lex.

*Anno trecentesimo quinquagesimo secundo obiit Romanus filius Constantini, Rex Romanorum, die 16 mensis Adari, anno Alexandri 1274. Imperaverat autem annos tres, & menses quatuor: vixeratque annos 25, & aliquot menses. & successerunt ei in imperio Basilius & Constantinus, qui pueri erant adhuc impuberes: natus enim erat Basilius, annos septem, & Constantinus, quinque. cumque Gubernatores patris eorum sustinuisent curam regiminis quinque menses, deliberavit Regina cum Patriarcha de tradendis pueris Nicephoro, ut eos simul & regnum regeret, quod videretur vir strenuus. quâ de re cum convenisset; ingressa est Regina templum, tradiditque pueros Nicephoro, coram Polieucto Patriarcha Constantinopolitano: eumque rogavit, ut regnum administraret, & in educatione puerorum Deum se timere ostenderet, donec in viros adolevissent. Nicephorus autem unumquemque ex aulicis, in ea dignitate quam tempore Romani obtinuerat, confirmavit. voluitque ut Brincas, uti ante fecerat, maneret in Palatio, & custodiret Reginam, ac binos ejus liberos. utque pater suus Bardas Phocas, & frater Leo custodirent urbem. ipse autem curam haberet bellorum.*

Romanus  
Imperator  
Roman.  
obit.

Succedunt  
Basilius &  
Constanti-  
nus.

Nicepho-  
rus regnū  
admini-  
strat.

que

qua quidem ejus statuta populo placuerunt. Hinc egressus est Casaream, ut in exercitu esset, ibique semper maneret, in conspectu hostis. Sed convenerunt eum magnates quidam, qui auctores ei fuerunt, ut regnum occuparet, atque indueret caligas purpureas: quod consilium sequutus, ingressus est Constantinopolim, die decimo sexto Abi, anni supra commemorati, ac salutatus est Rex. Et suavit Patriarcha uti duceret Reginam, matrem duorum illorum puerorum, atque ipsi participes essent regni. quod idem quoque probavit populus. unde coronavit eum Patriarcha, & benedixit ei, in templo Hagia Sophia. hinc duxit Theophano, matrem puerorum, accepitque duos filios ejus Basilium, & Constantinum, & salutatus est cum ijs Rex. jussitque patrem suum manere Constantinopoli, ad eam custodiendam, & sustinendam curam ejus, & simul uxoris ejus, ac liberorum. utque procuraret bonum populi: & nominavit eum Casarem. fratrem autem suum Leonem, constituit Cyropalatam.

أحسن موقع ما قرره في نفوس الجماعة وخرج الي قيسارية ليقف في العساكر ويقوم هناك دائما في قبالة العدو فاجتمع اليه جماعة من الاكابر واشاروا عليه ان يستولي علي المملكة ويلبس الخف الاحمر فقبل اشارتهم ودخل القسطنطينية في سنة عشرة عشر يوما من اب في السنة المذكورة ودعي له بالملك فاشار البطررك بان يتزوج دفقر بالملكة والدة الصبيين وتكون مشاركة لهما في الملك فوافق الجماعة علي ذلك ولبسه البطررك التاج وباركه في كنيسة اجيا صافيا وتزوج لتوفاني ام الولدين وتسلم ولديها بسبل وقسطنطين ودعي له معها بالملك وجعل اباه مقبلا بالقسطنطينية لضبطها ومراعاة احوالها واحوال المرأة والولدين والنظر في مصالح الرعية وسماه قبصر وصبر اخاه لاون قربلاط



## CAPVT QVINTVM.

Vigésimus quartus Abbasidarum, & Rex quadragesimus quintus  
 ABDVLKERIMVS ABVBECRVS  
 TAIYS LILLA, filius  
 Mutij, f. Mutadiri, f.  
 Mutadidi.

**M**ATER ejus genitrix dicta fuit Ainis. Creatus fuit Chalifa eo die quo pater ejus imperium deposuit, die videlicet decimotertio Dulkiade, anni Hegira 363, cum natus esset annos 47, aut secundum alios 50: neque quisquam ex Abbasidis ad Chalifatum pervenit eo major natu, nec quisquam etiam Chalifa factus est vivo patre suo, praeter ipsum, & Abubecrum Iustum. Cum autem inauguratus esset, dignitatis veste induit Imperatorem Sebectekinum, & palatio suo eum praefecit.

الرابع والعشرين من الخلفاء العباسيين وهو الخامس والاربعون من الملوك الطابع لله ابو بكر عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد \*

ام ولد يقال لها عبي واما بوبع له بالخلافة يوم خلع ابوه نفسه وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثماية للهجرة وعمره يومئذ سبع واربعين سنة وقبل خمسين ولم يل الخلافة من بني العباس من هو اكبر سنا منه ولا وليها من ابوه حي غيره وغير ابي بكر الصديق ولما بوبع للطابع خلع علي الامير سبكتكين وولاه ما وراء بابه

Anno



وفي سنة اربع وستين وثلاثماية خرج الامير سبكتكين ومعه الطابع لله وابوه المطبع لحرب الامير عن الدولة بن بويه ونزلوا بدير العاقول فأت المطبع ثم لحق سبكتكين حرب فأت لسبع بقين من المحرم فكانت مدة ولايته شهرين وثلاثة عشر يوما فعقدت الاتراك الامر لافتكين الشراي مولي معز الدولة بن بويه وسار افتكين والطابع والاتراك الي ان نزلوا على واسط وقد حصنها عن الدولة فتحاربوا واشتد الحرب بين افتكين وعن الدولة واتصل القتال بين الفريقين خمسين يوما واشتد القتال على عن الدولة وضائق المبرة عليه وكان مستصرخا ابن عمه عضد الدولة فاستصرح بعده عدة الدولة اي ثعلب بن ناصر الدولة فصار عدة الدولة الي بغداد واستقر قدمه بها فقدم الطابع لله في جماعة الاتراك محاربين لعدة الدولة ودخل الطابع ومن معه بغداد وصار عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه من فارس الي واسط نجدة لابن عمه عن الدولة فنزل الجانب الشرقي وعن الدولة الجانب الغربي ورحلا حتي نزلوا بدير العاقول ووقع الحرب بينهم وبين الاتراك فانهم من الاتراك واستباح عضد الدولة عسكرهم ودخلوا بغداد ثم دخل عضد الدولة ايضا بغداد بجيوشه واجتمع بالطابع لله وتواضع له وقبل يده ولما استقرت قدم عضد الدولة ببغداد قبض على بن عمه عن الدولة وعلي استاذية جيشه وذلك لخمس بقين من جمادي الاخرة وكتب الي والده ركن الدولة يخبره بذلك فانكر عليه غاية الاذكار وكتب اليه يهدده بالمسبر اليه ان لم يرد عن الدولة بن عمه الي ولايته فاطلق عضد الدولة بن عمه عن الدولة الي ولايته بعد ان استخلفه

Anno 364 exijt Imperator Sebeſtekinus, apud se habens Tajum Lilla, & patrem ejus Mutium, oppugnatum Imperatorem Azzuddaulam f. Boja; & castra metati sunt Dairacouli; ubi & obiit Mutius. Hinc Sebeſtekinum quoque corripuit diarrhœa, ex qua & is mortuus est, die 24 Muharrami: cum Præfecturam sustinuiſſet menses duos, & dies tredecim. & traderunt Turcæ imperium Aftekinu Sjara-beo, ministro Muaz-zuddaulæ f. Boja, qui cum Tajio & Turcis profectus, obsedit Wasitum, quod jam ante muni-verat Azzuddaulas: ubi strenuè bellatum est, ab Aftekinu, & Azzuddaula: continuatâ pugna inter utrumque exercitum per quinquaginta dies. Sed Azzuddaulas vim belli sustinere non potens, & pressus commeatus defectu, patruelis sui Adaduddaulæ auxilium imploravit. hinc opem quoque petijt ab Abuthalabo Vdatuddaula filio Nasiruddaulæ. at hic ut Bagdadum venit, pedem ibidem fixit, seque instar Regis gessit in aula Azzuddaulæ. Sed venit Tajus Lilla, cum copijs quibusdam turcicis, bellum ei illatum; & ingressus cum suis est Bagdadum. Adaduddaulas autem f. Rucnuddaulæ f. Boja è Perside venit Wasitum, suppetias latum patrueli suo Azzuddaulæ, conſeditque ad latus urbis orientale, Azzuddaula occupante occidentale. cumque recessissent inde Dairacoulum, prælium commissum est ab ijs & Turcis, quo in fugam versi sunt Turcæ: & diripuit Adaduddaulas castra eorum. receperunt autem se ij Bagdadum. at deinde Adaduddaulas cum copijs suis quoque ingressus est Bagdadum: adiitque Tajum Lilla, & humiliavit se coram eo, atque osculatus est manum ejus. cumque pes ejus jam ibi firmatus esset, apprehendit patruelem suum Azzuddaulam, & Ducem exercitus ejus, idque vigesimo quinto Gjumadæ posterioris. scripsitque ad patrem suum Rucnuddaulam; atque ipsum ea de re certiore fecit. at is gravissimè eum reprehendit, & scribens ad eum minatus est ei fore, uti ad ipsum contenderet, nisi Azzuddaula patrueli suo præfecturam suam restitueret. unde dimisit eum, & præfecturam suam ei restituit, postquam jurejurando eum obstrinxit,

Cœpit 21 Septemb. A.C. 974.

Mutius obit.

Sebeſtekinu obitus, Imperium.

Successor Aftekinus.

Bellum inter Aftekinum & Azzuddaulam

Prælium.

Azzuddaulas capitur.

Vica-

*Vicarium ipsius se futurum in Iraca, & non contrariaturum mandato ejus, neque mandato Rucnuddaulæ. hoc (inquam) jurejurando obstrinxit eum, tum Taius Lilla; tum Adaduddaulas sibi, & patri suo Rucnuddaulæ. Hinc reversus est Adaduddaulas in Persidem.*

Matrimonium Taii Lillaæ.

*Eodem anno duxit Taius Lilla Sabrabannam filiam Imperatoris Azzuddaulæ filij Muazzuddaulæ f. Boja dotem ei pollicens centum aureorum millia.*

Aftekinus Damasco potitur.

*Eodem anno dominari cepit Damasci Aftekinus. Cum enim in fugam eum vertisset Adaduddaulas, recepit se cum trecentis servis Turcicis Damascum, ubi tunc dominium usurpabant, Iudicesque se populi constituebant Ajari. & convenerunt eum primores civitatis, atque rogaverunt uti imperium eorum in se susciperet, id quod fecit, & liberavit eos à tyrannide Ajarorum, atque optimè sese gessit.*

Zimifcæ victoria.

*Eodem anno egressus Zimifces Rex Romanorum cepit Emisam & Balabecum. Hinc contendit Damascum: sed cum occurreret ei Aftekinus Sjarabæus, contendit Tsidonem, cujus cives allatâ pecuniâ pacem ab eo redemerunt. Hinc Tripolim abiit, ejusque cives, aliquot & quadraginta dies oppugnavit. at propinandum ei curarunt Basilius & Constantinus venenum, ex quo cum ager factus esset, discessit Antiochiam: cujus arbores, cum oppidani eum recipere nollent, succidit. Verum cum morbus ejus ingravesceret, obsidioni urbis præfecit Burtzam Patricium, atque ipse Constantinopolim abiit. Cepit autem Burtza Antiochiam, & haud multo post obiit Zimifces.*

Burtza Antiochiam capit.

Zimifces moritur.

Cœpit 10 Septemb. A.C. 975.

Muazzi Regis Aegypti obitus.

Imperium.

Ætas.

Natura.

*Anno 365 obiit Muazzus Lidinilla Dominus Aegypti, idque die undecimo Rabij prioris. Regnaverat autem annos tres & viginti, menses quatuor, & aliquot dies. & in Aegypto quidem annos tres. ac natus erat annos quadraginta sex. Ad naturam ejus quod attinet. Liberalis fuit, justus, bonæ vitæ, & optimi regiminis. & de justitia quidem ejus hac narratur historia.*

Exemplum notabilis justitiæ Muazzi.

*Vxor Achsjidi, cum jam dignitate omnium Achsjidei privati essent, deposuerat apud Iudæum quendam vestem intextam*

ان يكون نايبا عنه بالعراق ولا يخالف امره ولا امر ركن الدولة واستخلفه على ذلك الطابع لله واستخلفه عضد الدولة لنفسه ولا يبه ركن الدولة وتوجه عضد الدولة الي فارس

وفي هذه السنة تزوج الطابع لله سهرمان بنت الامير عز الدولة بن معمر الدولة بن بويه علي صداق مائة الف دينار

وفي هذه السنة ملك افتكين دمشق وذلك انه لما هزمه عضد الدولة قدم دمشق في ثلثاية غلام من الاتراك وكان العبارون ان ذلك مما يكون بدمشق متحكمون في اهلها فاجتمع اكابرها الي افتكين وسالوه ان يتقلد امرهم ففعل وكف يد العبارين عنهم واحسن السيرة

وفي هذه السنة خرج سمسق ملك الروم وفتح حصن وبعليبك ثم صار الي دمشق ولقبه افتكين الشراي فاقبل سمسق الي صيدا فصالحوه اهلها على مال جملة ثم مضى الي طرابلس فقام علي حرب اهلها نيفا واربعين ليلة فدسا اليه باسبل وقسطنطين سما في شراب فمرض منه فرحل الي انطاكية فامتنع اهلها عليه وقطع اشجارها وقوي عليه مرضه فاستخلف على حصارها البرجي البطريق ومضى الي قسطنطينية ففتح البرجي انطاكية ثم مات سمسق بعد قليل

قال وفي سنة خمس وستين وثلثمائة كادت وفاه المعز لدين الله صاحب مصر وذاك لاحدي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول فكانت مدة ملكه ثلاث وعشرين سنة واربعه اشهر واياما منها حصر ثلاث سنين وكان عمرة ست واربعين سنة \* وسيرته كان جوادا عادلا حسن السيرة جميل السياسة ومما روي عن عدله \*

ان زوجة اخشيد لما زالت دولتهم اودعت عند رجل يهودي ثوبا منسوجا



بالذهب وبدائرة من الجواهر شي  
كثير وجعله في جرة نحاس ثم بعد  
مدة طالبت اليهودي فانكرة فقالت  
خذ بعضه فلم يفعل فقالت اعطني  
الكم الواحد وخذ انت الجميع قال  
وكان فيه تسعة وعشرون من الدر  
العالي فلم يفعل ايضا هذا فانت الي  
قصر الملك فدخلت عليه واستاذنته  
في الكلام فاذن لها وعرفت بحال  
اليهودي فاجضه واستقره فلم يقر  
فبعث الي داره من خرب الحيطان  
وظهرت الجرة في جدار الدار فلما راي  
المعر الثوب تعجب من الجواهر واللؤلؤ  
الذي فيه ووجدوا ان اليهودي قد  
اخذ من صدره درتين فاعترف انه  
اباعهما بالف وسقاية دينار فسلم العيوب  
الي الامراة علي حاله فاجتهدت ان  
ياخذها ويعطيها مهرا اراد فلم يفعل  
فقالت له يا سبدي هذا الثوب  
كان يصلح لي وانا مروجة صاحب  
مصر فاما الان فاحاجة الي البه  
فابا ان ياخذها فاخذته الامراة  
فانصرفت

وكان المعر مفتونا بعلم النجوم  
فاخبره منجم ان عليه قطعاً واثار عليه  
ان يتخذ سرداباً تحت الارض ويتوارى  
فيه مدة ففعل ذلك وتوارى في سرداب  
فلم طالبت غيبته ظن المغاربة انه قد  
مرفع فكانوا اذا ابصروا الغمام ترحل  
الغار من مهم الي الارض ويقول السلام  
عليك يا امير المؤمنين ظنا ان المعر في  
الغمام فلما انقضت مدة القطع التي  
اشار بها المنجم وهي علي ما يقال سنة  
كاملة خرج المعر من السرداب وتوفي  
بعد ذلك مهدة يسيرة \*

وبعد وفاته بوبع العزيز بالله ابي  
المنصور برار بن المعر الفاطمي يوم  
توفي والده وكان مولده بالمهدية يوم  
الخميس الرابع والعشرون من المحرم

*auro in cuius limbo quam plurimi erant lapides pretiosi. is autem imposuit eam cistula aenea. cumque post tempus eam repereret mulier, negavit eam se habere: unde ea, Sume, inquit, partem aliquam ejus. sed noluit. & dixit mulier, da mihi unam manicam, & habe tibi reliqua (erant autem in ea (manica) 29 pretiosissima margarita.) sed cum & hoc recusaret, adiit mulier aulam Regis, & ingressa ad eum, petijt veniam loquendi, quam cū ei dedisset, significavit ei negotium Iudaei. Rex statim eum jussit accersi: & confessionem ab eo petijt. at cum is confiteri nollet, misit Rex aliquem, qui parietes domus ejus dirueret. & apparuit statim cistula in pariete quodam domus. Cumque vestem vidēret MUAZZUS, admiratus est lapides pretiosos, & margaritas quae in ea erant. Compererunt autem Iudaeum de pectore ejus sumpsisse duas margaritas, quas ipse confessus est se vendidisse 1600 aureis. Tradidit autem Rex vestem eam, ita ut erat, mulieri. at ea vehementer institit, ut eam ipse acciperet, & daret ei quantum vellet. at is noluit. dixitque ei mulier, Vestis haec, Domine mi, conveniebat mihi cum ego uxor essem Regis Aegypti, at nunc ego eā non indigeo. Verum cum is eam nollet accipere, accepit eam mulier & discessit.*

*Erat autem MUAZZUS deditus Astrologia, cumque astrologus quidam ei significasset, periculum insigne ei imminere, eique auctor fuisset ut cryptam aliquam subterraneam ingrederetur, atque in ea ad tempus se absconderet, is id fecit, atque in crypta latuit. cumque absentia ejus longior esset, opinati sunt Magariba (in Calum) sublatum eum fuisse, unde & quotiescunque nubem aliquam videbant, eorum quilibet insidens equo, desiliit in terram, dicebatque, Salve Imperator fidelium. credens MUAZZUM in ea nube esse. Cum autem tempus periculi ab Astrologo indicatum jam expirasset, (quod, ut ajunt, integri anni fuit) egressus est MUAZZUS ex crypta, & paulo post obiit.*

Prædictio  
Astrologi-  
ca.

*Mortuo autem MUAZZO inauguratus fuit* Successor  
*Bararus Abulmansor Azizus Billa, filius MUAZZI Fatemide, idque eodem quo pater* Muazzi  
*ejus obiit die. Natus autem fuit Mahdia, die Iovis, vigesimo quarto Muharrami* Azizus  
*anni* Billa,  
anni

anni 342 (sunt tamen qui natum dicant mense Muharramo anni 344, & cum imperium cepisset annos habuisse 21 & aliquot menses) Administravit autem imperium pro eo Gheuharus servus Muazziz.

a Mitfrijis recipitur.

Eodem anno stabilitum fuit imperium Azizo, Mitsrae, postquam obsidione cincta fuit, & multa commissa fuerunt praelia.

Rucnuddaulas imperium filijs suis distribuit,

Eodem anno distribuit Hasenus Abualis Rucnuddaulas f. Bojae filijs suis tribus regna, & assignavit Fanachro Abusugiao Adaduddaula Persidem, Argjanum & Carmaniã. Abulmansori autem Muajidduddaula Rajam, & Isfahanam. & Abulhaseno Fachruddaula, Hamadanam, & Dainawaram. sumpsitque ab ijs juramentum de mutua ope, & auxilio; testibus etiam adhibitis.

moritur.

Anno 366 vita excessit Rucnuddaulas f. Bojae, cum regnasset annos 44, mensem unum, & dies novem, natusque esset annos 99. Fuit autem medius filiorum Bojae: & Rex egregius, reverendus, & peritus regiminis. regiones cepit, & regnum in ijs administravit; metropoles constituit, & custodivit.

Adaduddaulas oppugnat Az-zuddaulam

Eodem anno detexit Adaduddaulas odium suum adversus filium patris sui Az-zuddaulam, Dominum Bagdadi, & armavit se, petiturus Iracam, eamque occupaturus. descenditque Az-zuddaulas cum Consiliario suo Alif. Abutaheri, & Taio Lilla Chalifa Wasitum. sed & Adaduddaulas eo venit. cumque sibi mutuo occurrissent, acerrimo decertarunt praelio: quo victus Az-zuddaulas turpissima se dedit fuga: & diripuit Adaduddaulas ejus castra. Deinde multa contigerunt Az-zuddaula, quae longum foret explicare. sed tandem discessit Bagdado, potitusque eo est Adaduddaulas.

& potitur Bagdado.

Ccepit 19 Augusti. A. C. 977. inauguratur.

Anno 367 inauguravit eum Chalifa inauguratione imperiali, coronavitque eum, & torque insignivit, Dominumque renuntiavit. Dedit quoque ei duo vexilla in manum, & praefecit eum aulae suae.

crucifigit Consiliarium Az-zuddaulae.

Hinc praehendit Adaduddaulas Alim f. Abutaheri Consiliarium Az-zuddaulae. eumque occidit & cruci affixit. De hoc Poeta quidam loquitur, epicadium ei faciens quale nullum auditum est de crucifixo.

سنة اثنتي عشر واربعين وثلاثماية وقيل في الحرم سنة اربع واربعين وثلاثماية وولي الامر ولد احدى وعشرون سنة واشهر واقام بامره جوهر مولي المعز

وفي هذه السنة اقيمت الدعوة للعزيمه مصر بعد ان حوصر اهلها وجرت حروب كثيرة

وفي هذه السنة قسم الامير ركن الدولة ابي علي الحسن بن بويه بين اولاده الثلاثة الممالك فجعل لعضد الدولة ابي شجاع فناخرى فارس وارحان وكرمان وحميد الدولة ابي المنصور الري واصفهان ولغفر الدولة ابي الحسن همدان والدينور واخذ عليهم الحلف بالتناصر والتعاقد واشهد عليهم بذلك

وفي سنة ست وستين وثلاثماية كانت وفاة ركن الدولة بن بويه وكانت مدته ملكه اربع واربعين سنة وشهر وتسعة ايام وعمره تسع وتسعين سنة وهو الاوسط من اولاد بويه وكان ملكا جليلا مهيبا سايسا فتح البلاد وملكها وقرر قواعدها وضبطها

وفي هذه السنة كاشف عضد الدولة بن عمه عن الدولة صاحب بغداد بالعداوة وتجهز لقصد العراق وتلبكها واتخذ عن الدولة وزيره علي ابن ابي طاهر والطابع لله الخليفة بالواسط ووصل عضد الدولة فالتقوا وتقاتلوا قتالا شديدا فكانت الكسرة على عن الدولة فانهم اقبح هزيمة واستباح عضد الدولة عسكره ثم جرت لعز الدولة اشياء يطول شرحها اخرها انه رحل من بغداد واستولى عليها عضد الدولة

وفي سنة سبع وستين وثلاثماية خلع عليه الخليفة الخلع السلطانية وتوجه وطوقه وسوده وعقد له لواءين بيده وولاه ما وراء بابه \*

وقبض عضد الدولة علي بن ابي طاهر وزير عن الدولة وقتله وصلبه فقال بعض الشعراء فيه يرثيه بابيات لم يسع في مصلوب مثلها \*



علوا في الحياة وفي الممات بحق  
 انت احدي المعجرات \*  
 كان الناس حولك حين قاموا  
 وفود نداك ايام الصلات \*  
 مددت يديك نحوهم اقتفاد  
 كمدها اليهم بالهيات \*  
 وما صاق بطن الارض عن ان تضم  
 علاك بعد الممات \*  
 اضاق لحي قبرك واستعاصوا عن  
 الاكفان ثوب الساقيات \*  
 وما دخل عضد الدولة الي بغداد  
 ومالكها مضي عز الدولة الي عده  
 الدولة ابي ثعلبي بن ناصر الدولة  
 متصرا علي عضد الدولة فتجهز للقائهما  
 وخرج من بغداد بجيشه ومعها الطابع  
 لله والنقوا وتقاتلوا قتالا شديدا وذلك  
 في شهر شوال فانهم عز الدولة  
 واصحابه وقتلوا من قتلته براسة الي  
 بن عم عضد الدولة في طشت فبقال  
 انه لما راه وضع منديله علي عينيه وبكي  
 وكان عمر عز الدولة ست وثلاثين سنة  
 وكانت مدة امرة احدي عشرة سنة  
 وشهورا \* وسبته كان ملكا شهما  
 جلدا قوي الجسم والقلب فبقال انه  
 كان يصرع الثور ببديه من غير  
 اعوان والاحمال يقبض على قوائم  
 ويطرحة علي الارض وكان يبره الاسود  
 ويصيدهم وكان كرها شجاعا  
 قال وفي هذه السنة مات هشول  
 بن وشكين بجرجان فقام بالملك  
 بعده فانوس بن وشكين وملك  
 جرجان وطبرستان  
 وفي سنة ثمان وستين وثلاثماية ملك  
 عضد الدولة بن بويه الموصل وديار  
 مربعة ومبافارقين وديار بكر وهرب  
 عده الدولة ابي ثعلبي بن ناصر الدولة  
 بن حمدان الي العزيز بالله صاحب  
 مصر  
 وفي هذه السنة امر الخليفة الطابع لله  
 بان يخطب الملك عضد الدولة ببغداد  
 في خطبة الجمعة الثالثة الخطبة للطابع لله

Exaltate in vita & in morte, certe tu  
 unum es ex miraculis.

Sicuti homines circū te quum steterunt  
 proclamāte te dies orationū,  
 Extendisti manus tuas versus eos, in  
 amissionem, ac si extenderes eas  
 ad illos cum muneribus.

Et postquam venter terræ angustior  
 est quam ut celsitudinem tuam  
 comprehendat:

Aër angustum tibi facit sepulchrum.  
 Et petierunt pro involucris cadaveralibus  
 vestem nubium.

Postquam autem Adaduddaulas Bagdadum  
 ingressus est, eoque potitus, abiit  
 Azzuddaulas ad Abuthalabum Vddatuddaulam  
 filium Nasiruddaulæ, opemque ejus imploravit  
 contra Adaduddaulam. sed hic armavit se,  
 ijs occursurus: atque egressus Bagdado est  
 cum copijs, habens apud se Tairum Lilla.  
 cumque sibi mutuo occurrissent magnum  
 commiserunt praelium (idque mense Sjewalo)  
 quo in fugam fuit versus Azzuddaulas,  
 cum suis, & occisus. Cumque is qui eum  
 occiderat caput ejus in disco attulisset  
 ad patruem ejus Adaduddaulam, ajunt eum  
 sudarium suum oculis admovisse, & flevisse.  
 Natus autem erat Azzuddaulas annos 36,  
 atque imperaverat annos undecim, & aliquot  
 menses. Naturam ejus quod attinet. Rex fuit  
 strenuus, & robustus, forti corpore & animo.  
 dicuntque eum prostravisse taurum manibus  
 suis, sine adminiculis, aut funibus; sed  
 prehensis ejus pedibus dejecisse eum in  
 terram. quin & prodibat pugnatum cum  
 leonibus, eosque venabatur. Vir fuit honorabilis,  
 & fortis.

Eodem anno mortuus est Hasjulus f. Wasmakini,  
 Gjorgiana, cui successit in regno Fanusus  
 f. Wasmakini, posseditque Gjorgianam, &  
 Tabristanam.

Anno 368 potitus est Adaduddaulas Bojites  
 Mausilo, Diarrebî, Majafarikina, & Diarbecra.  
 & fugit Abuthalabus Vddatuddaulas  
 filius Nasiruddaulæ Hamadanide, ad  
 Azizum Billa Regem Aegypti.

Eodem anno precepit Chalifa Tairus Lilla ut  
 Rex Adaduddaulas tertio quoque die Veneris  
 Bagdadi orationem pro ipso haberet.

atque

Azzuddaulas fugit.

occiditur.

ejus ætas.

Natura.

Hasjuli obitus & successor.

Cæpit 8 August. A.C. 978.

Adaduddaulæ victoria.

Prærogativa.

atque id captum est die Veneris vigesimo sexto Sjaabani. neque hoc ulli ante eum contigit, ne Socijs quidem fœderum. Iussit quoque, ut ad aulam Adaduddaulæ tympana pulsarentur, temporibus quinque orationum. quod quoque nemini contigit ante eum, ne Socijs quidem fœderum. Et Adaduddaulas hic primus fuit Rex appellatus in Islamismo: & in suggestis nominatus fuit Sjahensjah maximus, Rex Regum.

Azizus  
Rex Aegypti  
oppugnat  
Principem  
Damasci.

Eodem anno misit Azizus Billa Rex Aegypti Gjeuharum cum exercitu, oppugnatum Aftekinum Sjarabaum Principem Damasci. cumque bellum inter eos duravisset menses duos, auxilium petijt Aftekinus ab Haseno filio Ahmedis Carmataeo: à quo cum sibi timeret Gjeuharus, reversus est Tiberiadem. at Aftekinus & Carmataeus conjunctis viribus obsederunt Gjeuharum in ea, unde fugit illinc Ramlam: misitque ad Aftekinum petens ab eo securitatem, quam ei promisit Aftekinus, sed ea lege ut gladius suus, & hasta Carmataei suspenderentur ad portam Ramlæ, & Gjeuharus cum militibus suis sub ijs egrederentur. id quod & factum fuit. abijtque Gjeuharus in Aegyptum, & hortatus est Azizum Billa ad bellum inferendum Aftekinum: qui & cum copijs suis statim Aegypto egressus est. concurrentibus autem exercitibus in agro Ramlensi victoria cessit Azizo: & in fugam versi sunt Carmataeus, & Aftekinus, cum militibus suis. Deinde captus est Aftekinus, & adductus ad Azizum, qui & pepercit ei, & bene eum tractavit, deditque ei dignitatem Ianitoris. Hinc reversus est Azizus in Aegyptum: ubi Aftekinus postea obiit, veneno sublatus, à Consiliario Azizi, solâ, ut ajunt, invidia ad id moto. unde iratus ei Azizus in carcerem eum conjecit, & punivit. sed cum deinde negotia quadam videret quæ absque eo dirigi non poterant, dignitati pristinae eum restituit, & bene tractavit.

Cœpit 29  
Iulij.  
A. C. 979.  
Vddatuddaulas occiditur.

Anno 369 occisus fuit Vddatuddaulas Hamadanides. commemoravimus autem quod is fugisset ab Adaduddaula, & contendisset in Aegyptum. ubi scripsit ad Azizum Billa: qui & ei respondit per literas, se eum recipere, petijtque ut ad se veniret.

فابعدى بذلك يوم الجمعة لاربعة بقين من شعبان ولم يتقدم هذا لاحد قبله ولا لولاة العهود وامر ان يضرب على باب عضد الدولة بالديارب في اوقات الصلوات الخمس ولم يكن هذا لاحد قبله ولا لولاة العهود وعضد الدولة هو اول من خوطب بالملك في الاسلام وكان بخطب علي المنابر بشاهنشاه الاعظم ملك الملوك

وفي هذه السنة جهز العزيز بالله صاحب مصر جوهر ومعه الجيوش لقتال افتكين الشراي صاحب دمشق فوقع القتال بينهما شهرين فاستدعا افتكين الحسن بن احمد القرمطي فخاف جوهر منه وعاد الى طبرية وتعاقدا افتكين والقرمطي وحاصرا جوهر بها فانهم منها الى الرملة فسبر جوهر الى افتكين فطلب امانه فاجابه افتكين بشرط ان يعلف سبعة ورمح القرمطي علي باب الرملة ويخرج جوهر واصحابه من تحتها ففعل ذلك ومضى جوهر الى مصر وحض العزيز بالله علي قتال الافتكين فبرز العزيز من مصر في جيوشه والتقي الجمعان في الرملة فكانت الكسرة للعزيز وانهم القرمطي والافتكين واصحابهم ثم اخذ الافتكين اسيرا واتي به الى العزيز فعفي عنه واحسن اليه وولاه حجبته ثم رجع العزيز الي مصر ومات الافتكين بعد ذلك مسموما سنة وبرز العزيز حسدا له علي ما ذكر فغضب العزيز علي وبرزه واعتقله وصادته ثم راي الامور لا تنظم الا به فاعادته الي وبرزه واحسن اليه

وفي سنة تسع وستين وثلاثماية كان مقتل عدة الدولة بن حمدان وكنا ذكرنا ان المذكور هرب من عضد الدولة وقصد مصر وكتب الي العزيز بالله فكتب اليه الجواب انه قد قبله والتبس مصبره اليه



فخاف وعاد الى طبرية وكان بالرملة  
بدمري يقال له مغرج بن دعقل قد  
استولى على تلك الناحية ويفعل امره  
فاران مغرج بن دعقل ان يوقع ببني  
عقيل المقيمين بالشام ويخرجهم منها  
فلجوا الى عدة الدولة وسالوه  
نصرتهم فنزل بينهم وتجمع له المغرج  
واحتشد وكان العزيز بالله بعث  
برجل من اصحابه يقال له الفضل الى  
دمشق لمحتال له في فتحها واصلاح  
اهلها فخاف الفضل من عدة الدولة  
فاجتمع باصحابه الى المغرج وصاروا يدا  
واحدة ثم قصدوا عدة الدولة وبني عقيل  
فهزمهم واسروا عدة الدولة فقتله  
المغرج خوفا ان يحمله الفضل الى العزيز  
فبصطبعه حسب اصطياحه لا فتكين  
فلما قتله المغرج بعث الفضل براسه الى  
مصر واحرق جنه ☞

وفي سنة سبعين وثلاثماية هزمت ابنة  
عضد الدولة بن بويه الى الطابع لله  
وكان العقد قد وقع في سنة اربع

وسبعين وثلاثماية ☞  
وفي سنة احدي وسبعين وثلاثماية  
كان الحرب بين مويد الدولة بن بويه  
وبين اخيه فخر الدولة وفانوس بن  
وسكين سببه ان فخر الدولة اخى  
عضد الدولة ومويد الدولة قد اتفق مع  
فانوس بن وسكين على اخوية عضد  
الدولة ومويد الدولة والنظافر علمها  
فبعث عضد الدولة عهدا من الطابع لله  
الى اخيه مويد الدولة على جرجان  
وطبرستان فسار مويد الدولة لقتال  
فانوس وسار اخوه فخر الدولة لمعاودة  
فانوس وجرت بينهم حروب كثيرة  
اخرها ان فانوس انهرم واستولى مويد  
الدولة على جرجان وطبرستان ☞

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية  
توفي الملك عضد الدولة ابو شجاع  
فناحرو ابن مكن الدولة بن بويه  
ببغداد وكان عمره سبع واربعين سنة  
واحد عشر شهرا وكان له ملك بغداد

at timuit, ac reversus est Tiberiadem.  
Erat autem Ramla Badraus quidam nomi-  
ne Mufarrigus f. Daacali, qui eum tra-  
ctum subjugaverat, cuique omnia pro-  
sperè succedebant. Hic cum in animo habe-  
ret irruere in Ocailitas, qui in Syria erant,  
eosque inde eycere, ij se receperunt ad Vdda-  
tuddaulam & ab eo auxilium petierunt.  
unde is castra sua inter eos posuit: & Mu-  
farrigus suos quoque contra eum collegit.  
Azizus autem Billa misit quendam è suis,  
cui nomen erat Fadlo, Damascum, ut astu  
eam caperet, civesque redderet propitios.  
Cumque Fadlus timeret ab Vddatuddaula,  
junxit se cum militibus suis Mufarrigo, ut  
una eorum potentia esset. Hinc adorsi sunt  
Vddatuddaulam & Ocailitas, eosque in fu-  
gam verterunt. quin & ceperunt Vdda-  
tuddaulam, & occidit eum Mufarrigus,  
metuens ne Fadlus eum veheret ad Azi-  
zum, isque bene eum tractaret, sicuti tra-  
ctaverat Astekinum. Cumque occidisset  
eum Mufarrigus, misit Fadlus caput ejus  
in Aegyptum, & combussit truncum.

Anno trecentesimo septuagesimo ducta  
est filia Adaduddaulæ Bojita ad Taium  
Lilla cui desponsata fuerat anno trecente-  
simo sexagesimo quarto.

Anno 371 bellum ortum est inter Mu-  
ajidduddaulam nepotem Boja & inter fra-  
trem ejus Fachruddaulam, ac Famusum f.  
Wasmakini: cujus hæc erat causa. Fach-  
ruddaulas frater Adaduddaulæ & Muaj-  
idduddaulæ conspiraverat cum Fanuso f.  
Wasmakini, contra istos suos fratres, de  
bello ijs inferendo. Misit autem Adadud-  
daulas fratri suo Muajidduddaulæ auctori-  
tatem consignatam à Taiò Lilla, quâ dona-  
bat ei Gjorgjanam & Tabristanam: unde  
exijt Muajidduddaulas bellum illatū Fanu-  
so: & frater ejus Fachruddaulas abijt eidem  
suppetias latum. multa que ab ijs commissa  
sunt prælia: donec tandem Fanusus in fu-  
gam versus est, & Muajidduddaulas poti-  
tus Gjorgjanâ & Tabristanâ.

Anno trecentesimo septuagesimo se-  
cundo obiit Rex Adaduddaulas filius Ruc-  
nuddaulæ f. Boja, Bagdadi. cum natus  
esset annos quadraginta septem, & men-  
ses undecim. Imperaverat autem Bagdado,

Vddatud-  
daulas pec-  
cit.

Cœpit 17  
Iulij.  
A.C. 980.

Cœpit 6  
Iulij.  
A.C. 981.  
Bellum in-  
ter Muaj-  
idduddau-  
lam &  
Fachrud-  
daulam.

Cœpit 26  
Iunij.  
A.C. 982.  
Adadud-  
daulæ obi-  
tus,

Iraca,

natura.

*Iraca, Carmania, Persidi, Ammana, Churistana, Mausila, Diarbecra, Harrana, & Mambago. Ad naturam ejus quod attinet. Rex fuit egregius, magnus, reverendus, intrepidus, strenuus, prudens, peritus regiminis, honorabilis, animosus & fortis. Ajunt autem eum, cum die quodam exiret in hortum, & dixisset, quam amœnus foret hic dies, si pluvia nos bearet! pluviaq; statim supervenisset, dixisset,*

Non bibitur vinū nisi per pluviam: & opulētia est ab imbris in aurora, Copiosis, & indutis nigris vestibus ad splendorem, jucundis in duplicatione disparis.

Educentibus cyathum ex ortu ejus; potantibus vino eum qui excellit inter homines.

Adaduddaulas est de Imperatoribus Regis regum, & longe potentissimus.

*Ajunt autem eum postquam versus istos fecit, non exiisse felicem, propterea quod dixisset longē potentissimus.*

*Cum autem moriturus esset citavit istud Abulcasimi filij Abdallæ Consiliarij,*

Occidi Principes virorum: neque reliqui hostem: nec distuli contra exercitum ejus milites,

Et defolavi palatia Regum, post potentiam eorum. ac dispersi eos in Occidentem, ac dissipavi eos in Orientem.

At postquam ad astra perveni potentia & dignitate: & colla populi ferunt mihi jugum:

Iacit me arcus, tanquam sagittam. dumque ignescit rubedo mea, vocat me follia mea, cessaturum, celeriter.

*Deinde autem capit dicere,*

Quid prodest mihi opulentia mea? perit mihi imperium meum.

*atque id repetijt donec expiravit.*

*Cum autem obiisset, mors ejus celata aliquamdiu fuit. & sepultus est Bagdadi in arce imperiali.*

Cœpit 15  
Iunij.  
A.C. 983.

*Anno 373 divulgata fuit mors ejus, & ipse translatus è sepulchro suo, Bagdado, Cufam: & sepultus in loco martyrij Alis*

والعراق وكرمان وفارس وغان  
وخورستان والموصل وديكار بكر  
وحران ومنبج \* وسيرته كان ملكا  
جلبلا عظيما مهيبا صارها حارما عاقلا  
سايسا كرها شجاعا بطلا ويقال  
انه خرج يوما الى بستان فقال ما  
اطيب يومنا لي ساعدنا الغيث فجاء  
المطر للوقت فقال

لبس شرب الراح الا في المطر وغنا  
من جوار في السحر \*

غابيات سالبات للبهى نغمات في  
تضاعف الوتر \*

مبرزات الكاس من مطلعها  
ساقيات الراح من فاق

البشر \*

عضد الدولة من سطوته ملكك  
الاملاك وغلاب القدر \*

فقيل انه لم يفلح بعد هذه الابيات  
لقوله غلاب القدر \*

ولما حضرة الموت تمثل بقول  
الوزير ابي القاسم بن عبد الله \*

قتلت صناديد الرجال  
فلم ادع عدوا ولم امهل عدو

جيشه خلقا \*

واخليت دور الملك من بعد عزهم  
فشردتهم غربا وبددتهم

شرقا \*

فلما بلغت النجم عزرا ورفعه  
وصارت رقاب القوم اجمع يله

رقا \*

مرماني الردا سها فاحمد حمرتي  
فها نداني حفرتي عاطلا ملقا \*

ثم جعل يقول

ما اعني عني مالياه هلك عني  
سلطانيه \*

فردها حتى مات ☞

ولما مات كتم موته مدة ودفن  
هدام الملك ببيغان ☞

وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثماية  
اظهر موته وحمل من قبره ببيغان الى

الكوفة فدفن بمشهد امير المؤمنين علي  
f. Abu-



بن ابي طالب فقام بالملك بعده ولده الملك مصام الدولة ابن كالتجار المرزبان بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه وخاع عليه الخليفة الطابع لله وتوجه وطوقه وسوره

وفي هذه السنة كانت وفاه موبد الدولة بن بويه اخي عضد الدولة وذلك في ثالث شعبان بعلة الخوابف وكان وزيره المدبر ملكة الصاحب ابن القسم بن عباد ولما مات موبد الدولة استولى علي مملكته اخوه فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه وقدم جرجان في ثالث رمضان فتلغاه الصاحب بن عباد وارباب الدولة وبايعوه المملكة واستقر بجرجان واستمر الصاحب بن عباد في وفي سنة اربع وسبعين وثلاثماية كتب الخليفة الطابع لله لفخر الدولة بن بويه عهدا بتقليده ما كان يبد موبد الدولة من الممالك والاقاليم وسيره اليه ومعها الخلع السلطانية

وفي سنة خمس وسبعين وثلاثماية استولى المملك شرف الدولة علي بغداد وكان شرف الدولة ابن الغوامس هذا اكبر اولاد ابيه وكان بيده اصفهان والري وشبران من بلاد الديلم وغيرها فلما كانت هذه السنة تجهر الي العراق لملكها فكتب الي اخيه ابي الحسن احمد بن عضد الدولة وكانت بيده بلاد فارس يستجده علي اخيه مصام الدولة فلم يجده فخرج اليه يقاتله فقاتله شرف الدولة فاسره وحبسه ثم قصد شرف الدولة العراق ولستولي علي الاهواز والبصرة واسط وكثرت امواله ورجاله وبعث الي الخليفة الطابع يطلب الخلع السلطانية والعهد والتقليد فاجابه الي ذلك وبعث اليه به وطلب تسليم اخيه مصام الدولة وكان معتقلا عنده فسلم اليه بعد ان اتفق الصلح بين مصام الدولة واخيه شرف الدولة وان يخطب له اولاد وان لا يتعرض احد منهما الي ما في يد الاخر

f. Abutalibis. & successit ei in imperio filius ejus Marzubanus Abucalangjarus Samsamuddaulas, filius Adaduddaula, filij Rucnuddaula filij Boja. & inauguravit eum Chalifa Taius Lilla eumque coronavit, & torque, ac armillis ornavit.

Samsamudaulas successit Adaduddaula.

Eodem anno obiit Muajjidduddaulas Bojdes, frater Adaduddaula, idque die tertio Sjaabani, ex angina. regnum autem ejus administraverat Consiliarius ejus Sahirus Abulcasimus f. Ajadi. at mortuo Muajjidduddaula, potitus eo est frater ejus Fachruddaulas f. Rucnuddaula, f. Boja: qui Gjorgjanam venit tertio Ramadani. processitque ei obviam Sahibus f. Ajadi una cum aulicis, & creaverunt eum Regem. substititque Gjorgiane: & constituit Sahibum Consiliarium suum.

Muajjiddudaula obiit,

successor Fachrudaulas.

Anno 374 scripsit Chalifa Taius Lilla Fachruddaula auctoritatem consignatam, qua concedebat ei omnia ea regna & provincias quas frater ejus Muajjidduddaulas possederat, eamque ad ipsum misit, una cum veste imperiali.

Cœpit 4 Junij. A.C. 984.

Anno 375 potitus est Rex Sjarfuddaulas f. Adaduddaula Bagdado. Erat autem hic Abulfawaris Sjarfuddaulas filiorum patris sui natu maximus: & tenebat Isfahanam, Rajam, Sjirazum, urbes Dailama, aliasque. Cumque hic annus ageretur, contendit cum exercitu in Iracam, eam occupaturus. scripsitque ad fratrem suum Ahmedem Abulhasenum filium Adaduddaula, in cujus manu erant Persidis urbes, auxilium ab eo petens contra fratrem suum Samsamuddaulam. at is id recusavit. Perrexerit tamen ille bellum ei illatum, eumque oppugnavit, & cepit, ac in carcerem conjecit. Hinc contendit in Iracam & potitus est Ahwaza, Basra, ac Wasito. auctusque opibus & viris, scripsit ad Chalifam Taium, petens ab eo vestem imperialem, & auctoritatem consignatam ac donationem, que is ei non recusavit, sed misit: at petijt ut sibi traderetur frater ejus Samsamudaulas, qui in carcere apud eum detinebatur: quem & ei tradidit postquam pacem cum eo fecit, & inter eos convenit, ut illius nomine primum oraretur, neque alter eorum in alterius ditionem ingrederetur:

Cœpit 24 Majj. A.C. 985. Sjarfuddaulas Iracam occupat,

fit Imperator.

quod

quod mutuis juramentis confirmarunt. At cum deinde descendisset Samsamuddaulas ad Sjarfuddaulam qui erat Wasiti, hic ingredi eum fecit tentorium sine papilionibus, & constitutis quibusdam qui eum, & thesauros custodirent, contendit Bagdadum, idque ingressus est mense Ramadano, habens apud se ad viginti Dailamorum, & tria juvenum Turcarum millia: & stabilitum ei fuit ibi imperium. Fratrem autem suum Samsamuddaulam in arcem quandam misit, inque ea vincitum custodivit. Regnaverat autem Samsamuddaulas in Iraca annos tres & undecim menses.

Incarcerat  
Samsamud  
daulam.

Inaugura-  
tur.

Cœpit 3  
Maij.  
A.C. 987.

Cœpit 10  
Aprilis.  
A.C. 989.  
Sjarfud-  
daulæ obi-  
tus.

Successor  
Bahaiud-  
daulas.

Cœpit 31  
Martij.  
A.C. 990.  
Samsamud  
daulas è  
carcere e-  
vadit.

Cœpit 20  
Martij.  
A.C. 991.  
Saaduddau-  
læ Regis  
Halebi  
obitus.

Anno 379 obiit Sjarfuddaulas, idque die secundo Gjumada posterioris, cum regnavisset Bagdadi annos duos & menses octo, & vixisset annos 28, & menses quinque. portata autem fuit arca ejus Cufam, ibique sepultus fuit, ad latus patris sui.

Mortuo Sjarfuddaula, successit ei in imperio frater ejus Abunafrus Bahaiuddaulas f. Adaduddaula, quem & indutâ veste imperiali inauguravit Taius Lilla, coronans quoque eum, & torque ac armillis ornans, scripsitque ei auctoritatem consignatam.

Anno 380 dimissus fuit Samsamuddaulas è carcere suo. at effoderat ei oculos frater ejus Sjarfuddaulas, quo mortuo è carcere eum dimisit frater ejus Bahaiuddaulas, deditque ei Sjarazum, & Argjanum, cum ditione ejus. & adjunxit ei fratrem suum Abutaherum f. Adaduddaula. at hic haud multo post vita excessit: mansitque Samsamuddaulas Rex nomine quidem, sed non re, negotia ejus administrante viro quodam cui nomen erat Fulado.

Anno trecentesimo octuagesimo primo obiit Saaduddaulas filius Saifuddaula Hamadanida, idque mense Ramadano. Imperaverat autem inde ab obitu patris sui annos 25, & aliquot menses. Eo autem defuncto, cessit imperium Halebi filio ejus

وخالفا على ذلك ثم الحذر مصام الدولة الى شرف الدولة وهو بواسط فانزله خيمه يعبر سراق ووكل به جماعة لحفظه وحفظ الخزيين ثم قصد شرف الدولة بغداد فقدمها في شهر رمضان ومعه ما يناهز عشرين الفا من الديلم وثلاثة الف غلام تركي واستقر ملكه بها وسير اخاه مصام الدولة الى قلعة اعتقله بها فكانت مدة مملكة مصام الدولة بالعرف ثلاث سنين واحد عشر شهرا و في سنة سبع وسبعين وثلاثماية خلع الطابع لله علي الملك شرف الدولة ابي الفوارس بن عضد الدولة وتوجه وطوقه وسورة وكتب له عهدا وولاه ما وراء ابابه وعقد له لواوين ولقبه شاهنشاه و في سنة تسع وسبعين وثلاثماية توفي شرف الدولة وذلك للبتين مضبتا من جهادي الاخرة فكانت مدة مملكته ببغداد سنتين وثمانية اشهر وكان عمره ثمان وعشرين سنة وخمسة اشهر وحمل تابوته الي الكوفة فدفن الي جانب ابيه و لما توفي شرف الدولة قام بالملك بعده اخوه الملك بها الدولة ابن نصر بن عضد الدولة وخلع عليه الطابع لله الخلع السلطانية وتوجه وطوقه وسورة وكتب له عهدا و

وفي سنة ثمانين وثلاثماية اطلق مصام الدولة من محبسه وكان اخوه شرف الدولة شمل عيبيه فلما مات شرف الدولة اطلقه اخوه بها الدولة واعطاه شبران وارحان وبلادها وجعل معه اخاه ابا طاهر بن عضد الدولة ومات ابن طاهر بعد مدة قريبة واستمر مصام الدولة ملكا في الصورة لا في المعني وقام بامرته رجل يقال له فولان و

وفي سنة احدى وثمانين وثلاثماية كانت وفاة سعد الدولة بن سبغ الدولة بن حمدان وذلك في شهر رمضان فكانت مدة ملكه من حيث مات ابوه خمس وعشرين سنة وشهورا و لما توفي قلد الملك بعده بحلب لولده الامير

H h

Abulfa-



سعيد الدولة ابي الفضائل بن سعد الدولة  
بن سيف الدولة ابي الحسن علي بن عبد  
الله بن حمدان وكان سعد الدولة اوصي  
ولده لولؤ الخراجي وكان ابن الفضائل  
صغيرا فاستقل لولؤ بالامور جميعها وصارت  
كلها اليه وبعث العزيز بالله صاحب  
مصر جيشا كثيرا لقتاله فقدموا الي  
حلب وحاصروها حصارا شديدا  
واستجد لولؤ بالروم فاقوا اليه في عالم  
عظيم فالتقوا فنصر الله المصريين فقتل  
من الروم خلق كثير ونازل المصريون  
حلب ومقدمهم منجوبكبن وطال  
مقامهم عليها فاضجروا وقات عامهم  
العلوفة فكتبوا الي العزيز يستادنوه  
في الانصراف ثم انصرفوا قبل ان يصل اليهم  
الجواب فلما ورد علي العزيز كتابهم  
غضب غضبا شديدا ثم بلغه انصرافهم  
فعظم عليه اكثر وسبر يتهدهم ويامرهم  
بالعود الي حلب والاجتهاد في التصديق  
عليها الي ان يفتحوها فرجعوا واقاموا  
عليها ثلاثة عشر شهرا وبنوا بظاهرها  
الحمامات والحدائق والاسواق وكتب  
لولؤ الي ملك الروم يطلب نجده وحرضة  
علي نصرته ودفع المصريين عنه ويقبل  
في جملة قوله ان حلب دهلبر بلاد الروم  
ومني اخذت حلب اخذت بلاد الروم  
فاقبل ملك الروم في عدد لا يحصي  
فرحل منجوبكبن مقدم المصريين عن  
حلب منزهما ووصل ملك الروم الي  
حلب فخرج اليه لولؤ وسعيد الدولة ابن  
الفضائل فاكرماه وحملوا اليه من  
الالطاف والتحف شيا كثيرا

ثم دخل ملك الروم بجيشه الي حمص  
ففتحها ونهبها وقتل وسبا ثم رحل الي  
طرابلس فاقام عليها نيفا واربعين يوما  
فلم يقدر عليها فرجع الي بلاده  
واما منجوبكبن مقدم العسكر  
المصري فانه رحل الي دمشق  
واقام متحصنا فيها فلما بلغ العزيز ذلك  
inde contulit se Tripolim, quam dies aliquot & quadraginta obsedit, sed frustra.  
ac tunc in Regionem suam est reversus. Manghubekinus autem Dux exercitus  
Aegyptiaci concessit Damascum, atque ibi se munivit: quod ut Azizus intellexit,

*Abulfadajlo Saïduddaulæ f. Saaduddaulæ* successor  
*f. Alis Abulhafeni Saifuddaulæ f. Abdallæ, f.* Abulfa-  
*Hamadani. Commendaverat autem Saa-* daijlus.  
*duddaulas filium suum Luluo Charagheo,*  
*erat enim Abulfadajlus minorennis, is ita-*  
*que Luluus negotia omnia, ad ipsum quippe*  
*devoluta, administravit. Misit autem*  
*Azizus Billa Dominus Aegypti copiosum*  
*exercitum bellum ei illatum, qui profectus*  
*Halebum, id arctissima obsidione cinxit.* Halebum  
*unde Luluus suppeticas petijt à Romanis:* ab Aegyp-  
*qui ad eum contenderunt cum magna ho-* tijijs oblide-  
*minum vi. praelioque inito, victoriam* tur.  
*dedit Deus Aegyptijs, qui magnam Ro-* & Romani  
*manorum multitudinem ceciderunt. hinc* vincuntur.  
*ad obsidionem Halebi reversi sunt, ducem*  
*habentes quendam Manghubekinum.*  
*verum cum diutius ea duraret, ipsosque*  
*jam tædere inciperet, & annona deficeret,*  
*scripserunt ad Azizum, rogantes eum ut*  
*sibi liceret ab urbe discedere. & haud*  
*multo post, antequam responsum acciperent,*  
*discesserunt. Azizus autem ut literas eo-*  
*rum accepit, vehementer est indignatus:*  
*& magis etiam, ut intellexit eos ab urbe*  
*jam discessisse. itaque misit, & minatus*  
*est ijs, ac præcepit ut ad Halebum rever-*  
*terentur, & diligentissime id obsiderent,*  
*donec eo potirentur. unde reversi sunt, &*  
*substiterunt ad id 13 menses, atque extru-*  
*xerunt extra urbem balnea, diversoria, &*  
*vicos. At scripsit Luluus ad Regem Roma-*  
*norum, suppeticas ab eo petens, & adhortans*  
*eum ad auxilium sibi ferendum, & depel-*  
*lentos à se Aegyptios. ac inter alia dice-*  
*bat, Halebum esse vestibulum Regionis Ro-*  
*manorum, illoque capto, hanc quoq; captam*  
*esse. Venit itaque Romanorum Rex cum*

Romani  
Luluo suc-  
currunt.

*innumeris copijs, & Manghubekinus de-*  
*serto Halebo fugit. cum autem Rex Roma-*  
*norum pervenisset ad urbem, exijt Luluus*  
*una cum Abulfadajlo Saïduddaula ei ob-*  
*viam, honorem ei exhibentes, & afferentes*  
*res pulchras, & egregias quam plurimas.*

Emissam  
capiunt.

*Hinc discessit Romanorum Rex cum co-*  
*pijs suis Emissam, eamque cepit, & diripuit,*  
*multis mortalibus caesis, & abductis. De-*

Manghu-  
bekinus  
rebellat.

exijt

exijt cum copijs suis Belbaisum, ubi dum subsisteret gravis ei accidit morbus, quo de vita sua desperavit, unde successorem suum designavit filium suum Hakemum quem commendavit ministro cuidam suo Arghuano. obiitque anno trecentesimo octogesimo sexto. Atque hac omnia, licet quadam eorum annum hunc transgrediantur, hic commemoravimus propter filium historiae.

Azizus  
Rex Aegypti obit.

Eodem anno depositus est Taius Lilla Chalifatu: idque in hunc modum. Cum Rex Bahaiuddaulas in animo haberet eum deponere, equitavit ad eum, & coram eo terram est osculatus. is autem posuit Bahaiuddaule sedem, in qua sedit. hinc irruerunt homines: & quidam militum Bahaiuddaule traxit strophum ensis quo Taius Lilla accinctus erat, & detraxit eum de lectulo suo. moxque complures Dailami, impetu in eum facto, eum involverunt tapeto, & portaverunt in custodiã quandam aula ubi incarceratus mansit. & direpta tunc fuit aula imperialis. Hinc reversus est Rex Bahaiuddaulas domum suam, & renuntiavit Cadirũ Billa Imperatorem, & promulgavit id per vicos. Deinde testibus probavit Taium Lilla sua sponte imperium deposuisse, idque tradidisse Cadiro, mense Sjaabano. Imperavit autem Taius Lilla annos septemdecim, menses novem, & dies sex. Mansitque depositus, & incarceratus donec obiit, die Paschatis majoris, anni 393, annos natus 76. Oravitque pro eo Cadirus Billa. Ad formam ejus quod attinet. candidus erat, & rubicunda facie. Ad naturam. Liberalis, & honorabilis. at potestas ejus erat exigua, propter Bojtas, qui Reges erant, relicto Chalifæ solo nomine.

Chronologus ait Chalifatum ejus duravisse annos septemdecim, menses novem, & dies sex, quorum initium fuit dies Iovis, finis autem dies Sabbathi, elapsis annis Hegira 380, mensibus septem, & diebus novemdecim: annis autem solaribus mundi 6483, mensibus duobus, & diebus tribus.

Res Christianorum.

Zimifex obitus.

Quod autem attinet ad ea qua Christianorum Historia narrant ejus tempore accidisse. Ajunt Zimiscen Regem Romanorum obiisse die Martis, undecimo

فجهر وخرج بعساكرة إلى بلبيس ونزل بها فعرضت له علة صعبة ايس فيها من مروحة فعهد الي ولده الحاكم واوصيه الي امرجوان الخادم وتوفي في سنة ست وثمانين وثلثمائة وهذه الحوادث اتمادكرناها وان جاور بعضها هذه السنة فلسباقة الحديث قال وفي هذه السنة خلع الطابع لله من الخلافة وذلك لما عزم الملك بها الدولة بن عضد الدولة علي خلعها مركب اليه وقبل الارض بين يديه ووضع له كرسي فجلس عليه واردم الناس فتقدم بعض اصحاب بها الدولة وجدب بحمايل سيف الطابع لله وهن متقلد به فاخرجه عن سريره وتكافى الديلم عليه فلقوه في كساء وجملوه الي حرامة من دور المملكة واعتقل بها ونهبت دار الخلافة يومئذ وانصرف الملك بها الدولة الي داره واطهر امر الخليفة القادر بالله وبودي بذلك في الاسواق ثم اشهد علي الطابع لله بخلعه نفسه وتسليم الامر الي القادر بالله طابعا في شهر شعبان فكانت مدة ملكة الطابع لله سبع عشرة سنة وتسعة اشهر وستة ايام واقام مخلوعا معتقلا الي ان توفي ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة وعمره ست وسبعين سنة وصلي عليه القادر بالله \* صفته كان ابيض اشقر \* وسهرته كان جوادا كريما الا ان يده كانت قصيرة مع بي بويه فانهم كانوا الملوك ولبس للخليفة الامجد الاسم

قال المورخ ان مدة خلافته سبع عشرة سنة وتسعة اشهر وستة ايام اولها يوم الخميس واخرها يوم السبت لتمة ثلثمائة وثمانين سنة وسبعة اشهر وتسعة عشر يوما للهجرة ولتاهم ستة الف واربع مائة وثلاث وثمانين سنة وشهرين وثلاثة ايام للعالم شمسة

والذي ورد تواريخ النصارى من الحوادث في ايامه ان السمست ملك الروم مات يوم الثلاثاء حادي عشر



كانون الثاني سنة الف ومايتبين صبح  
 وثانين للاسكندر الموافق لسبع  
 خلون من جمادى الاولى سنة خمس  
 وستين وثلاثاية فكانت مدة ملكه ثلاث  
 سنين وشهر واحد واستقر الملك بالروم  
 بعده لباسيل وقسطنطين ابني رومانس  
 وانفرد باسبل بتدبير المملكة لانه الكبير  
 وكان عمره يومئذ ثمان عشرة سنة وسبر  
 باسبل بردس السقلاروس البطريق  
 الي هرط وخرج اليها ثم مضى بردس  
 السقلارس الي ملطية وكتبها وقبض علي  
 الباسليف واخذ ما عنده من الاموال  
 وهي ست قناطر وعصى علي الملك ودعي  
 لنفسه فاجتمع عليه خلق كثير من الروم  
 والارمن والمسلمين واستولي علي تلك  
 الجهة باسرها فسير اليه الملك باسبل  
 الجيوش والتقوا في القبادوق فانهم  
 عسكر باسبل الملك وقوي السقلاروس  
 وعظمت حاله

فاحضر الملك بردس الفعاس بن  
 لاون اخا نقفور من النغي وكان له  
 بالجزيرة سبع سنين وجعله دستقا  
 وقائد الجيوش وسيره للقاء السقلاروس  
 فالتقيا فانهم بردس الفعاس لعشر  
 خلون من ذي القعدة سنة سبع وستين  
 وثلاثاية وقتل بينهم خلق كثير  
 وارسل السقلاروس بطريق اصحابه  
 اسمه عبد الله المنتصر من اهل ملطية  
 الي انطاكية وكانت حينئذ النغور  
 وبلد الشرق للسقلاروس وكان  
 يحلم اسقف اسمه اغابوس طلبوه  
 الانطاكيون لكون بطركا عليهم  
 وارسلوا اليه الي حضرة الملك فلما دخل  
 اليه انهي اليه حال المدينة وطاعة  
 اهلها له ومحبتهم فبه وارسله الملك الي  
 عبد الله المنتصر ليقبله الي طاعته  
 واودعه مبي اعبدت له الدعوة بانطاكية  
 جعله بطركا عليها مدة حياته وبقي  
 له بجمع ما يضمه اغابوس الاسقف  
 فسار اغابوس متنكرا في مراهب  
 ودخل الي انطاكية واجتمع بعبد الله

*Canonis posterioris anni Alexandri 1287, qui incidit in diem septimum Gjumade prioris anni Hegira 365. cum imperasset annos tres, & mensem unum. Cessitque imperium Romanorum Basilio & Constantino filijs Romani; sed remansit id soli Basilio quippe majori natu. eratque tunc natus annos 18. misitque Bardam Sclerum Patricium Harbotum: quo profectus est. & deinde abiit Malatiam, qua & subjugarit: prehenditque Basilicum, & quidquid apud eum erat pecuniarum, quod quadringentorum & viginti millium aureorum erat: & rebellavit contra Regem, seque imperio ingessit. magna autem se ei hominum multitudo ex Romanis, Armenis, & Muslimis adjunxit, potitusque est toto illo tractu. At misit contra eum Imperator Basilius exercitum: sed hic, facto in Cappadocia conflictu, in fugam versus est a Sclero, qui eo potentior, & major evasit.*

*Imperator autem revocavit Bardam Phocam f. Leonis, fratrem Nicephori, ab exilio, postquam in insula fuerat annos septem. & constituit eum Domesticum, ac Ducem exercitus: misitque eum obviam Sclero. concursu autem facto, in fugam versus est Bardas Phocas, die decimo Dulkiadae anni 367, multis utrimque caesis.*

*Misit autem Sclerus Patricium quendam militum suorum oriundum Malatiâ, cui nomen erat Abdalla Muntasiro, Antiochiam (erant autem tunc Tsfugura & regio Orientis Sclero). & erat Halebi Episcopus quidam nomine Agabius, quem petierunt Antiocheni ut esset Patriarcha eorum: eumque miserunt ad ipsum Imperatorem. Ad quem cum ingressus esset, indicavit ei statum urbis, & inclinationem atque affectum civium ejus erga ipsum. misitque eum Imperator ad Abdallam Muntasirum, ut tentaret eum movere ad obedientiam. promisitque ei fore, ut, restituta sibi Antiochiâ, constitueret ipsum Patriarcham ejus, toto tempore vita ejus. Abdalla autem daret quodcumque ipse ei promitteret. Abiit itaque Agabius, ignotus, habitu monachali, ingressusque est Antiochiam, & convenit Abdallam*

successores Basilius & Constantinus.

Sclerus rebellat.

vincit Phocam.

Abdalla Praefectus Antiochiae nomine Scleri.

urbem re-  
stituit Im-  
peratori.

Agabius  
Patriarcha  
Antioche-  
nus.

ac negotium cum eo transegit, ita ut Abdalla in obedientiam Imperatoris se daret, & imperium in urbem ei restitueret, repudiato nomine Scleri.

Sic Agabius factus est Patriarcha Antiochenus, die solis vigesimo tertio Canonis posterioris anni Alexandri 1287.

Ceterum cum hac audivisset Sclerus, misit Antiochiam Bahramum quendam, ut civium animos ad se reduceret. sed non severunt eum ingredi Antiocheni, unde obsedit eos: at postea discessit, abductis opibus eorum, & bestijs, quæ extra urbem erant, magno admodum numero.

Misit quoque Sclerus ad Adaduddaulam munera, & res pulchras: petijtque ab eo ut sibi opem ferret contra Imperatorem. is autem subsidio ei misit bonam exercitus sui partem. sed antequam ea ad ipsum perveniret, adortus eum erat secundo Bardas Phocas Dux exercitus Imperatoris, & in fugam verterat die solis vigesimo primo Sjaabani anni 368, receperatque se Majjafarikinam: unde misit ad Adaduddaulam, petens ab eo opem, & auxilium. Sed misit Imperator Scribam suum Niphorum ad Adaduddaulam cum pretiosis muneribus, & promisit ei se dimissurum esse omnes captivos Muslimos, qui in Romanorum regione essent. unde Adaduddaulas Vicario suo, qui Majjafarikina erat, secreto significavit, ut prehenderet Sclerum: & simulavit, cum id fecisset Vicarius, se inscio id factum esse, mandavit que ei ut Bagdadum eum ferret: id quod fecit, advectis una cum ipso, filio ejus Romano, & trecentis de militibus ejus. Ut autem Bagdadum venit Sclerus, commorari eum fecit Adaduddaulas in domo quadam quæ vacuata ei erat, concessitque ei insulam Madidam: ac detinuit eum, pollicens ei, fore ut ipsum dimitteret, & cum eo mitteret exercitum, ad oppugnandum Imperatorem. Interim misit ad Imperatorem, de negotio Scleri cum eo agens, atque se tradere ipsum ei velle, si restituere sibi vellet omnia ea munimenta quæ Romani Muslimis eripuerant. quin & petijt ea omnia sibi tradi: quod si non fieret, se emissurum eum esse, & adjuturum copijs, ac pecunia. Misit autem

ab Adadud-  
daula deti-  
netur.

وقرر معه الامر فدخل عبد الله في طاعة الملك واعاد الدعوة له بها وقطع اسم السقلاروس

وصبر اغابوس بطركا على انطاكية يوم الاحد الثالث والعشرين من كانون الثاني سنة الف ومائتين سبع وثمانين للاسكندر

فلما بلغ السقلاروس ذلك امرسل بهرام الى انطاكية ل يستقبل اهلهما الي طاعته فلم يكتبه الا انطاكيون الي الدخول اليها فحاصروهم وساق اموالهم ومواشيهم الي في ظاهرها وكانت كثيرة جدا ورحل عنها

وارسل السقلاروس الي عضد الدولة هدايا والطاق وطلب منه ان يتجده علي الملك فارسل اليه طايغة من عسكرة تجدة وقبل وصولهم اليه النقي من بردس الفعاس قايد عسكر الملك دفعة ثانية فانهم السقلاروس يوم الاحد لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وثلاثماية الي ميفارقين \* ثم سبر الي عضد الدولة يلتمس عنه التجده والمعونة وسبر الملك كاتبه نغفور الي عضد الدولة بهدايا جليلة ووعده باخراج كل اسبر في بلاد الروم من المسلمين فاوثر عضد الدولة الي نايبه ميفارقين سرا بان يقبض علي السقلاروس واظهر عضد الدولة الانكار على نايبه لما فعله وامره ان يجمله الي بغداد فجمله ومعه ولده رومانس وثلاثماية نفس من اصحابه فلما وصل السقلاروس بغداد انزله عضد الدولة في دار خلبت له ووسع عليه الجريدة مديدة واعتقله ووعده بان يطلقه ويرسل معه جيشا لمحاربة الملك وسبر عضد الدولة الي الملك في معي السقلاروس وبذل له انه يعطيه اياه ان يسلم اليه جميع الحصون الي افتتحها الروم من المسلمين وطلب منه ان يسلم ذلك جمبعة اليه والا فهو يخرج منه ويهدد بالعاكر والاموال فسبر



ملك الروم اليه نغفور ليتفق معه على ما يرضيه فاعلم السقلاروس ضد الدولة ان نغفور حضر صحبتته بها يسلم ضد الدولة به فلما وصل قبض عليه واعتقله وقبض على جميع ما معه من الناس والمتاع واعتل ضد الدولة ومات وبقي والجماعة في الاعتقال مدة ثمان سنين <sup>وقد</sup> قال وقدم افرهام السرياني بن مزرعة بطركا للبعاقبة على كرسي الاسكندرية في سنة ستماية وثلاث وتسعين للشهدا وهي السنة الثالثة من خلافة العزيز بالله بن المعز صاحب مصر وذلك في سنة سبع وستين وثلاثماية اقام ثلاث سنين وستة اشهر ومات مسقبا من احد كتاب النصاري لانكاره عليه التسري وبعد وفاة البدر ك قطعت يد الكاتب المذكور في ايام الحاكم ومات لوقته وكانت سيرة هذا البدر ك فاضلة ويصدق بجميع ماله وابطل الشرطونية \* وفي ايامه كان سويرس بن المقفع اسقف الاشموين <sup>و</sup> وخلا الكرسي بعده ستة اشهر وصبر عوضه فيلابانوس بطركا على الاسكندرية للبعاقبة في سنة احدى وسبعين وثلاثماية اقام اربع وعشرين سنة وسبعة اشهر ومات في ثلاث هاتور وقبل انه قدم في السنة الخامسة للعزيز بن المعز صاحب مصر في برمودة وفي بطركيته مات العزيز صاحب مصر وتولي موضعه الحاكم ولده \* وفي ايامه كان الواضح المنتصر المعروف بابن رجا الشاهد الذي جملة القديس مرقور بوس من بطركا الى كنيسة مصر في ليلة واحدة وكان ذلك في حياة سويرس بن المقفع اسقف الاشموين وصنف اربعة كتب الاول الواضح وهو مشهور والثاني نواتر المفسرين وتحرير الخالفين والثالث هتك المحجوب والرابع سيرة \* وكان هذا البدر ك محبا لجمع المال والاكل والشرب والطيب وملامه الجاهم اخذ الشرطونية وقدس في بيعة مرقس الانجيلي

Imperator ad eum Nicephorum, ut cum eo quo modo vellet pacisceretur. at significavit Sclerus Adaduddaula, eum afferre secum venenum, ipsi propinandum. unde, ut venit, eum prehendit, & incarceravit. prehendit quoque quidquid cum eo erat hominum & suppellectilis. at ager factus est Adaduddaulas, & obiit. manseruntque omnes in vinculis spatium octo annorum.

Porro Ephrahem Syrus f. Zaraa constitutus est Patriarcha Iacobitarum in sede Alexandrina anno Martyrum 693 qui tertius erat Principatus Azizi Billa f. Muazzi Domini Aegypti, Hegira autem 367. utque sedit annos tres & menses sex, obiit, veneno sublatus, à quodam Scriba Christiano, quod non pateretur eum alere concubinam. Post obitum autem ejus, amputata fuit scribae manus, tempore Hakemi, & mortuus est statim. Natura autem hujus Patriarcha excellens fuit. substantiam suam omnem pauperibus erogavit. & abolevit Sartoniā. fuitque ejus tempore Severus f. Macfai Episcopus Asmunina. Vacavit autem post eum sedes sex menses. & ejus loco Alexandria Patriarcha Iacobitarum factus est Philoponus, anno 371: seditque annos 24, & menses 7, ac obiit tertio Haturi. Sunt tamen qui dicant eum constitutum fuisse anno quinto Azizi filij Muazzi Domini Aegypti, mense Barmuda. Atque ipso Patriarcha, obiit Azizus, & successit in locum ejus Hakemus filius ejus. Fuit quoque eo sedente felicissimus ille Interpres Sjahidus filius Righai, quem Sanctus Mercurius una nocte † ex Valle lapidosa Mecca transtulit in Ecclesiam ejus in Aegyptum, id quod contigit vivente Severo filio Macfai Episcopo Asmunina. Composuit autem quatuor libros: quorum primus est Interpres, qui celeberrimus est. secundus, Eloquentia interpretum, & mutatio contradicentium. tertius, Revelatio occulti. quartus, Descriptio suae vitae. Erat autem Patriarcha iste Philoponus deditus amori pecuniarum, cibi, & potus, ac perpetuo habebat in balneo: sumpsitque Sartoniā. Cum autem in templo Marci Evangelista sacra faceret,

Ephrahem  
Patriarcha  
Alex.

Χαρολολιαν,

Philoponus  
Patriarcha  
Alex. Philotheus.

Sjahidus f.  
Righai.

Monita ad Interpretes.  
vel. Selecta ex Interpretibus doctrina.

Χεποτοριαν. id est pecuniam exigebat in sacris ordinibus conferendis.

sacra

vidit visionem quandam, quâ percussus, obiit.

Templum  
Dominæ  
cedit Mel-  
chitis.

Ejus quoque tempore acceperunt Melchita à Iacobitis Templum Domine quod nunc ab ipsis vocatur templum Patriarchæ. cujus rei causa fuit, quod Azizus Billa Dominus Aegypti uxorem duxerat Christianam Melchiticam, ex qua & filiam susceperat. Erant autem ei mulieri duo fratres, quorum alterum nomine Ieremiam constituit Patriarcham Hierosolymitanum: alterum autem Arsenium nomine, Patriarcham Melchitarum Alcahira, & Mitsra. atque hi cum Azizo aliquam habebant familiaritatem quod avunculi filia ejus essent, unde & eo imperante promoti sunt. Atque Arsenius iste pctierat templum illud, & is jusserat ut id ei daretur.

Azizus  
Consilia-  
rium suum  
in carce-  
rem conij-  
cit.

Anno 373 prehendit Azizus Billa Dominus Aegypti Consiliarium suum Iacobum filium Iosephi, & Fadlum f. Salihum ac fratres ejus, jussitq; in arcem portari quidquid in domibus eorum erat. & translata sunt è domo Consiliarij ducenta aureorum Aegyptiacorum millia auri. & incarcerati fuerunt singuli separatim. Tumultu autem à populo excitato, direpta sunt fora. sed Præfectus obequitans compescunt populum. Publicani autem qui sederant domi Consiliarij, translati sunt in arcem. Duobus autem mensibus post, dimisit eos iterum Azizus, & restituta fuerunt ipsis omnes facultates eorum. & munus quoque suum recepit Consiliarius, uti & ducenta illa aureorum millia, quæ è domo ejus ablata fuerant.

& dimittit  
iterum.

Romani  
astu capi-  
unt arcem  
Ibrahimi.

Eodem anno potiti sunt Romani in regione Rajana arce quadam qua nominabatur Arx Ibrahimi. cujus rei causa hæc erat. Mulier quadam Armena detinebatur captiva in ea arce, quæ consanguineos habebat in regione Rajana viros & mulieres. & inter mulieres quidem ei consanguineas, mulier quadam erat strenua, quæ & solers erat ac experiens, hæc cognatam suam captivam subinde adibat ac visitabat, manebatque apud eam, & pernoctabat. viditque arcem paucos habere custodes, & Præfectum ejus parum sollicitum esse de custodia ejus: & cogitare cepit de capienda arce. ascenditque in summum muri, atque ibi sedit,

ورأي مرويا اضطرب منها ومات

وفي أيامه أخذت الملكة كنيسة السيدة من البعاقبة وتعرف الآن عندهم بكنيسة البطريرك وسببه أن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية وبرزق منها بنتا وكان للمرأة اخوان أحدها اسمه امرئيس صيرة بطريركا على بيت المقدس والآخر امرئيس صيرة بطريركا للملكة على القاهرة ومصر وكان لهما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته وتقدمتا في مملكته وأن امرئيس صيرة طلبت الكنيسة من العزيز فأمر أن تعطي له

قال وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة قبض العزيز بالله صاحب مصر على وزيره يعقوب بن يوسف وعلي الفضل بن صالح وأخوته وحمل ما في بيوتهم إلى القصر وحمل من دار الوزير ما يبي الف دينار مصرية ذهباً واعتقلوا كل واحد مفردة وتشوشت الناس ونهبت الأسواق وركب الوالي وسكن الناس وكانت الدواوين تجلس في دار الوزير فنقلوا إلى القصر وبعد شهرين أفرج عنهم وأعيد علمهم جميع موجودهم وأعيد الوزير يعقوب إلى وزارته ورد عليه المايي الف دينار التي كانت أخذت من داره

قال وفي هذه السنة ملك الروم قلعة في بلد رعبان تعرف بقلعة إبراهيم وسببه أن امرأة أرمينية كانت أسيرة في القلعة وكان لها أخوة في بلد رعبان نساء ورجال وكان من أخواتها امرأة حازمة وعندها خبرة وتجربة وكانت تتردد إلى أختها الأسيرة وتروى لها وتقعدها وتبات في الليل عندها فرأت القلعة قليلة الحرمين وصاحبها قليل الاهتمام بتحصينها فعملت الحيلة على أخذ القلعة وأطلعت على أعلا السور وقعدت



كانها تغزل وتحدث مع اخوتها  
وخبرت طول الموضع من اعلا السور الي  
اسفله ومضت الي اخواتها والرجال  
وعرفهم الصورة وسهلت عليهم القضية  
وجملتهم علي عمل سلام حبال يصعدون بها  
الي القلعة واتفق ان صاحب القلعة في  
تلك الليلة شرب عند حرمة واختلا بهم  
فلما طلعوا الرجال الارمن لم يجدوا علي  
الاسوار من الحراس سوى نفرين  
فقتلوهما وهجوا علي صاحب القلعة  
فقتلوه هو واولاده ونادوا باسمه باسبل  
ملك الروم ودعوا له فلما علم باقي من  
في القلعة خرجوا هاربين وصارت  
القلعة بيد الارمن فارسلوا الي الملك  
باسبل بان يسلموها اليه فتسلمها منهم  
واحسن اليهم وانعم عليهم وجعل مقدمهم  
من اكابر قواده وحضر الملك الي  
القلعة ونقل اليها كل ما تحتاجه من  
السلاح والالات والطعام وغيرها .

قال وفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة  
امنع سعيد الدولة ابو الفضائل من حمل  
المال الذي قرر عليه للروم في كل  
سنة فصار بردس الفقاس الي دارة  
وقاتلها وفتحها بالسيف وسي اهلها في  
صفر سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وسار  
سعيد الدولة الي دير سمعان في عمل  
انطاكية فحاصره في ثلاثة ايام وفتح  
بالسيف يوم الاربعاء ثاني عشر ربيع  
الاخر من هذه السنة وقتل جماعة من  
الرهبان المقهين فيه وكان ديرا عامرا  
اهلا وسي خلقا كانوا التجوا اليه من  
بلاد انطاكية ودخل بهم الي حلب  
اسري واتصل بالملك باسبل ما جرى  
علي دير سمعان وكتب الي بردس  
الفقاص بالانصراف عن افاميه وكان  
قد نزل عليها وحاصرها .

وفي هذه السنة استولت البلخري علي  
حصن تلماس فولي باسبل الملك  
بالعساكر لاون الملبسوس وسار  
بالعساكر ونزل علي تلماس وغضب  
الملك علي البرنكاس وابعدده

ac si neret, & confabularetur cum cognata  
sua, & dimensa est altitudinem loci, inde  
à summo muri usque ad imum ejus: abijt q̄  
ad cognatas suas & cognatos, ac significavit  
eis negotium, & facilem predicavit fore  
expeditionem. ac persuasit ijs ut scalas ex  
funibus facerent, quibus in arcem ascen-  
derent. Contigit autem ut ea nocte Præfe-  
ctus arcis cum suis fuerit, & biberit. Post-  
quam autem Armeni isti in arcem ascen-  
derant, non invenerunt in muris ejus cu-  
stodes, nisi duos: quos occiderunt. hinc im-  
petu in Præfectum facto, eum quoque inter-  
fecerunt, cum suis liberis: & clamarunt,  
Nomine Basilij Imperatoris Romano-  
rum. Vivat Basilius. Re autem intelle-  
cta, reliqui qui in arce erant egressi sunt,  
ac fugerunt. Atque ita arce potiti Arme-  
ni, miserunt ad Imperatorem Basilium, ut  
eam ipsi traderent. is autem ab ipsis eam  
accepit, ijsque benefecit, munera dedit, &  
præfecit quendam ex præcipuis suis duci-  
bus. quin ipse Imperator arcem ingressus  
est, jussitque eam instrui omnibus rebus  
necessarijs, armis scilicet, instrumentis,  
cibo, & alijs.

Anno 375 recusavit Abulfadajlus Sai-  
duddaulas tributum quod Romanis in sin-  
gulos annos numerare tenebatur. unde  
egressus Bardas Phocas Daram obsedit, &  
vi cepit, atque oppidanos captivos abduxit,  
mense Safaro, anni 375. Saiduddaulas  
autem contendit ad Monasterium Simeon-  
is, quod in ditione erat Antiochia, idque  
post trium dierum obsidionem vi cepit, die  
Mercurij duodecimo Rabij posterioris ejus-  
dem anni. & plerosque, qui in eo erant,  
Monachos occidit. erat autem Monasterium  
à multis habitatum. eos autem qui in id è  
regione Antiochia confugerant, captivos  
abduxit, & Halebum vexit. Cumque im-  
perator Basilius intellexisset quid Monaste-  
rio Simeonis contigisset, scripsit ad Bardam  
Phocam ut ab Afemia, quam obsidione jam  
cinxerat, discederet.

Eodem anno ceperunt Bulgari arcem  
Telnasa. & præfecit Imperator Basilius ex-  
ercitui Leonem Melissenum, qui cum copijs  
suis egressus arcem obsedit. Sed cum Impera-  
tor, iratus contra Brincam, eum removisset

Romani  
capiunt  
Daram,

amittunt  
monasteri-  
um Simeon-  
is.

Bulgari  
Telnasam  
capiunt.

Et domi sua herere jussisset; is rebellis exercitum ad tumultum incitavit, ita ut ab arce discederet. qua de causa vehementer Imperator indignatus est contra Melifsenum, eumque jussit alterum e duobus eligere, nempe ut, aut ad obsidionem arcis reverteretur, eamque caperet: aut omnem eam pecuniam, qua in eam expeditionem impensa erat, restitueret. ille prius elegit, et cum exercitu ad arcem reversus est, eamque cepit.

Phocas  
Dux Ori-  
entis.

Removit quoque Imperator Bardam Phocam Domesticatu, et constituit eum Ducem Orientis, ac Praefectum Antiochia.

Pacem fa-  
cit cum A-  
bulfadaij-  
lo.

Anno 376 fecit Bardas Phocas pacem cum Abulfadaijo Hamadanide, ea lege ut is in singulos annos Imperatori afferret quadringenta staterum argenteorum millia: quod pactum et scripto confirmatum fuit.

Filij Sa-  
muelis e-  
vadunt e  
carcere.

Eodem anno evaserunt duo filij Samuelis (quos Zimifces in Palatio incarceraverat,) anno captivitatis suae octavo, insidentes equis, quos ad fugam parari sibi curaverant. cumque ad eam angustiam montium pervenissent, qua in Bulgariam penetrat, equi eorum viribus defecerunt; unde descenderunt, et in montem se abdiderunt, metuentes ne quis eos assequeretur. Cumque major natu minorem in via praecederet, contigit ut Bulgari quidam eum pro latrone per errorem occiderent. at sequutus deinde minor natu, is quis esset significavit. unde eum acceptum Regem suum constituerunt: et adjunxerunt se ei plurimi Bulgari. atque oppugnarunt regionem Romanorum. unde Imperator Basilus cum magno exercitu contendit ad eos, et urbem quandam eorum obsedit dictam Anariam. sed, cum intellexisset Bulgaros montium angustias occupasse, fugae se dedit, cum toto suo exercitu. die septimo Rabij posterioris anni 376. sed persequuti eum sunt Bulgari, et extremas copiarum ejus spoliarunt. atque hoc contigit anno decimo imperij ejus.

Basilus  
cum Bul-  
garis bel-  
lum gerit.

Sclerus li-  
beratur.

Hoc cum intellexisset Sclerus, qui Bagdadi captivus detinebatur, misit ad Samsuddaula ut se dimitteret, et occasionem illam arriperet contra Imperatorem Basilium: petijtque ut viris et armis se juvaret,

وامره بلروم دارة فارحجف العسكر بعصيانه فرحل العسكر عن لباس فغضب الملك باسيل علي الملبسنوس لهذا الامر فخبه الملك في احدي حالتهن وهما اما ان يعود الي حصن لباس وياخذه ان يعود بالمال الذي انفق على العساكر عند خروجها اليه فضمن ان يعود وياخذه وعاد معه الجبوش ونزل علي الحصن فاخذه  
وخلع الملك بردس الفعاس من الدمشقيه وجعله دوقس علي المشرق وولاية انطاكية

وفي سنة ست وسبعين وثلاثماية وجد بردس الفعاس الهدنة مع ابي الفضائل بن حمدان علي ان يحل الي الملك في كل سنة اربع مائة الف درهم فضاة وكتب بينهم بذلك كتاب

وفي هذه السنة تحبل ولدا سهويل اللذان كان السمسق اعقلهما في البلاط وهي ثمانية محبسهما على فرسين كانا قد اعداهما للهزيمة فلما وصل الي الدرب النافذ الي البلغرية وقف الفرسان اللذان تحتها فنزلاهما واخفيا في الجبل خوفا من يلحقهما وسبق الكبير الصغبر في طريقه فقتله البلغر غلطا وظنوا انه من اللصوص وجاء الصغبر في الاثر فعرفهم بنفسه فاخذوه وملكوه عليهم واجتمع اليه من البلغر خلق كثير وغفروا بلاد الروم فتوجه الملك باسيل نحوهم في جبوش عظيمة ونزل على مدينتهم المسماة ادارية فبلغ الملك انهم اخذوا عليه الدرب فانهم بعساكرة لسبع خلون من شهر ربيع الاخر سنة ست وسبعين وثلاثماية وتبعه البلغر ونهبوا اطراف عساكرة وذلك في السنة العاشرة من ملكه

واتصل ذلك بالسقلاروس وهو معتقل ببغداد فراسل مصصام الدولة في اطلاقه لينتهر الفرصة في باسبل الملك والقسن ان يتجده بالرجال والعدد



وبذل له القيام بها كان شرط الوالدة  
عقد الدولة فاجابه الى ذلك واخذ  
عليه العهود والمواثيق واطلقه وافرح  
عن ولده رومانس وسائر اصحابه في  
شعبان سنة ست وسبعين وثلاثمائة  
واطلق لهم دوابا وسلاحا واحضر ابن  
عقيل وبني عمر وامرهم بحفظهم الى ان  
يصلوا الى بلدهم وتقل ذلك على  
المسلمين وخاضوا في معناه وبلغ ذلك  
السقلاروس فخاف ان ينقلب الامر  
فيه فسأل العرب ان يهتروا به فساروا  
به وباصحابه الى حلهم وسلكوا بهم  
في البرية الى ان عبروا الغرات ودخلوا  
ملطية في شوال من السنة المذكورة  
وكان كلبى البطريق باسابق  
على ملطية فقبض عليه واخذ ما  
عنده من الاموال والكرع والالات  
والكسوة وقوى بها ودعي لنفسه  
بالمملك

وتحبل ايضا نغفور الاميرنوس رسول  
باسبل الملك الى عقد الدولة في امر  
السقلاروس كما تقدمنا وذكرناه  
وهرب ووصل الى باسبل الملك  
وتغاثم امر السقلاروس واجتمع اليه  
من الارمن والعرب العقيليين والفرسيين  
عدد كثير واستنجد ايضا ببار  
الكردي صاحب ديار بكر فارسل  
اليه اخاه ابا علي في عسكر كبير  
فاضطرب باسبل الملك الى ان عاد  
بردس الفقاس الى الدهستقبة في  
دي الحجة سنة ست وسبعين وثلاثمائة  
وسير اليه الجبوش ورسم له ان يلقي  
السقلاروس بعد ان استخلفه ويوثق منه  
فكتب الفقاس الى السقلاروس يلتمس  
منه الاتفاق على حرب باسبل الملك  
واخذ ملكته وان يكون الفقاس  
بمدينة القسطنطينية والسقلاروس في  
جميع البلاد البرانية فاجابه الى ذلك  
وتعاهدا عليه فانكر رومانس بن  
السقلاروس ذلك ولم يوافق واعلم  
والدة انها مكيدة من الفقاس عليه

*dicens, se prestare ei velle quod patri ejus  
Adaduddaula promississet. Samsamuddau-  
las morem ei gessit, factoque cum eo fe-  
dere & pacto, eum dimisit, uti & filium  
ejus Romanum, & reliquos ejus socios,  
mense Sjaabano anni 376. concessitque  
ijs jumenta & arma. sed advocavit fi-  
lium Ocaili, & filios Omaris, eosque jussit  
illos observare, donec in regionem suam  
venissent. Cum autem Sclerus intelligeret  
Muslimos agre admodum dimissionem il-  
lam ferre, & propter eam murmurare,  
ac metueret ne id tandem in se redundaret:  
rogavit Arabes istos, ut ocyus secum & cum  
socijs suis, habitu eorum vestitis, discede-  
rent. Itaque comitati sunt eos in deserto,  
donec trajecerunt Euphratem, & ingressi  
sunt Malatiam, mense Sjewalo anni supra  
commemorati. Erat autem Calibus Patri-  
cius, Basilicus Malatia. atque eum prehen-  
dit Sclerus, & cepit quidquid apud eum  
erat pecuniarum, equorum, instrumento-  
rum, & vestium: quibus auctus, Regem se  
nominavit.*

Capit Ca-  
libum Pa-  
tricium.

*Evasit quoque Nicephorus Vranus, Le-  
gatus Basilij Imperatoris ad Adaduddau-  
lam in negotio Scleri, sicuti ante comme-  
moravimus, abiitque celeriter, & venit  
ad Basilium Imperatorem.*

Nicepho-  
rus Vranus  
quoque li-  
beratur.

*Cum autem res Scleri feliciter succede-  
rent, adjunxerunt se ei Armeni, & Ara-  
bes Ocailita ac Namerita quam plurimi.  
cumque opem insuper petisset a Nabaro  
Kerdao Domino Diarbectra: misit hic ad  
eum fratrem suum Abualim cum magno  
exercitu. Basilus Imperator autem valde  
timuit; donec Domesticatus restitutus fuit  
est Barda Phoca, in Dulhiggia anni 376: cui  
& copias submisit, & injunxit ut conten-  
deret obviam Sclero, postquam jusjurandu  
ab eo sumpsit, & promissum fidelitatis.  
At scripsit Phocas ad Sclerum, & petijt  
ab eo ut secum conspiraret de bello inferen-  
do Basilio, & regno ejus invadendo: utque  
ipse esset Constantinopoli; Sclero autem ce-  
derent omnes regiones extranea. qua con-  
ditione accepta, Sclerus pactum cum eo fe-  
cit. Sed filius Scleri Romanus factum id im-  
probavit, nec approbare potuit: patri suo di-  
cens, ea ratione fore ut Phocas eum deciperet.*

Scleri for-  
tuna.

Bardas  
Phocas  
cum Scle-  
ro conspi-  
rat.

sed

sed is filio suo non auscultavit: unde hic, relicto suo patre, abiit ad Basilium Imperatorem, & rem omnem ei aperuit. Phocas autem contendit ad fluvium Gjahanam, atque ibi convenit Sclerum, & contulerunt una de ijs quibus opus foret copijs & pecunijs. deinde à se invicem discesserunt. promisso utrimque dato, fore, ut iterum convenirent. Sed, cum deinde reversus esset Sclerus, ut secundo Phocam conveniret, prehendit eum Phocas, & vinctum detinuit, in arce quadam, in qua uxor Phocæ erat: eique dixit. Vriqve ego metui mihi à te. itaque manebis in hac arce, donec ego voti mei fiam compos. cumque regno potitus ero; concedam tibi id quod statutum est, neque te fallam. Ac tunc Bardas Phocas rebellionem suam prodidit, seque Imperatorem nuncupavit, in Gjumada posteriori, anno 377: & possedit omnes eas regiones que sunt ad litus usque maris. Cumque negotia ejus feliciter succederent, timere sibi vehementer ab eo cepit Imperator Basilius, quem & pecunia jam deficiebat. unde coactus fuit mittere ad Regem Russorum, qui inimici ejus erant, auxilium ab eo implorans. is autem id ei promisit, petita ab eo affinitate. duxitque Rex Russorum sororem Basilij Imperatoris Romanorum, postquam hic ab eo obtinuit, ut religionem Christianam amplecteretur. Misitq; ad eum Basilius Episcopus, qui religione Christiana imbuerent tum ipsum, tum omnem populum ejus. Atque ante illud tempus nulla eis fuerat religio, nec professi erant quidquam. Sunt autem populus magnus: & ab eo tempore ad hoc usque omnes sunt Christiani. Hinc contendit Russorum Rex cum omnibus copijs suis ad Imperatorem Basilium. cumque eum jam convenisset, constituerunt occurrere Bardæ Phocæ, & terram marique ad eum contenderunt: & in fugam eum verterunt: potitusque est Basilius toto suo regno, & vicit Phocam, cumque occidit, tertio Muharrami, anno 379. & portatum fuit caput ejus Constantinopolim, atque ibidem affixum. Rebellaverat autem annum unum, & menses septem. Hac ut intellexit uxor Phocæ, dimisit Sclerum è carcere. & adjunxerunt se ei omnes ij hostes Imperatoris, qui cum Phocæ fuerant.

Phocam  
in vinculis  
detinet,

& rebellat.

Imp. Basilius supplicat à Russis petit.

Russi Christianam religionem amplectuntur.

Phocas vincitur & perit.

فلم يقبل منه أبوه فتركه ومضى إلى باسيل الملك واعلمه بصورة الأمر وسأله الفعاس إلى جثمان واجتمع مع السقلاروس وتفاوضا فيها يحتاجا إليه من العساكر والأموال وانفصلا علي وعد ان يجتمع مرة أخرى وعاد السقلاروس واجتمع مع الفعاس مرة أخرى فقبض الفعاس علي السقلاروس واعلمه بحصن كانت زوجته فيه وقال انني تخوفت منك فتبقي في هذا الحصن الي ان ابلغ قصدي فاذا استوليت على المملكة اوفيت لك بما تقره ولم اغدر بك وكاشف بردس الفعاس بالعصيان ودعي لنفسه بالملك في جمادى الاخرة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وملك ساير بلاد الروم الي شاطي البحر واستفحل امره وخاف منه باسيل الملك خوفا عظيما وبلغت امواله ودعته الضرورة الي تراسل ملك الروس وهم اعداء والتمس منه المعاضدة فاجابه ملك الروس الي ذلك والتمس منه المصاهرة وتزوج ملك الروس اخت باسيل ملك الروم بعد ان اشترط النصرانية وارسل اليه مطاربه نصره هو وجميع اهل بلاده ولم تكن لهم قبل ذلك شريعة ولا يعتقدون شيئا وهم امه عطية ومن ذلك صاروا جميعهم نصاري الي الان وتوجه ملك الروس بجميع عساكره الي خدمه باسيل الملك واجتمع به وانفصلا علي لقا بردس الفعاس وتوجهوا نحوه برا وبحرا وهم موه واستولي باسيل الملك علي جميع مملكته وظفر ببردس الفعاس فقتله في ثالث المحرم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وحمل براسه الي القسطنطينية ودصب بها وكانت مدة عصيانه سنة واحدة وسبعة اشهر واتصل الخبر بزوجة بردس الفعاس فاطلقت السقلاروس من الاعتقال واجتمع اليه جميع من كان مع بردس الفعاس من اعدا باسيل الملك



وطالب الملك لتقسه ولبس الخف الاحمر وارسل السقلاروس الي قسطنطين اخي باسبل الملك وساله ان يصلح امره مع اخيه باسبل الملك ويعود الي طاعته ويصفح عن ذنبه فاجابه الي ذلك وخلع نفسه في مستهل رجب سنة تسع وسبعين وثلاثماية واحضره قسطنطين الي اخيه باسبل ملك الروم ووطي بساطه واستقر الحال علي ان يجعل السقلاروس قربلاط

وغضب باسبل الملك علي اغابوس البطريرك ونفاه عن انطاكية والزمه المقام في احد الاديير بالقسطنطينية وله يومئذ في الرياسة اثني عشرة سنة وكان السبب في ذلك انه وجد في صناديق بردس الفعاس كتابا من اغابوس البطريرك يصوب رايه في الخروج عن طاعة الملك ويقوي عزمه فاقام في النفي قريبا من سبع سنين \* وفي هذه المدة عمل الشرطونات في كرسبه

وفي السنة الرابعة عشرة من ملك باسبل ملك الروم وهي سنة تسع وسبعين وثلاثماية حدثت بالقسطنطينية زلازل عظيمة ووقع ثلث كنيسة اجبا صافيا وحسفت دور كثيرة في نيقوميدية علي سكانها وجدد باسبل ما سقط في كنيسة اجبا صافيا وردة الي ما كان عليه

وفي مدة عصيان الفعاس واشتغال باسبل الملك لغزوه انتهر الباغر الفرصه وغزوا بلاد الروم دفعات واحرقوا واخربوا ونهبوا الي بلد سلوقيا فتجهز باسبل الملك لغزوهم وخرج الي طراقية في سنة ثمانين وثلاثماية واستدعي السقلاروس لبتوجه معه الي الغزاة وكان مريضا فحمل الي بين يدي الملك في سرير فلما شاهد حاله امره بالمقام في بيته ووصله بقنطار من ذهت لبتصدق به وتوجه الملك علي الباغر وبعد ايام يسيرة مات السقلاروس وذلك في سبع عشر من ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثماية

unde studuit imperium ad se trahere, atque induit caligas purpureas. sed postea misit ad Constantinum fratrem Basilij Imperatoris, absque eo petijt ut reduceret se in gratiam fratris ejus: se si delicto ei ignorasset, in obedientiam ejus rediturum. Is autem id fecit: unde & Sclerus imperio suo renuntiavit, initio mensis Regjebi anni 379. Duxitque eum Constantinus ad fratrem suum Basilium Imperatorem Romanorum: fuitque ei stratum tapetum. & compositum fuit totum negotium, idque eo modo ut Sclerus esset Cyropalates.

Porro Basilus Imperator indignatus contra Agabium Patriarcham, eum ejecit Antiochia, & manere coegit Constantinopoli, in quodam monasterio, cum jam presuisset duodecim annos. Causa autem ejus rei erat, quod Basilus in cistis Bardæ Phocæ invenisset epistolam quandam ejus, quâ approbabat consilium Phocæ de rebellionem, & confirmabat eum in isto proposito. Mansit autem in isto exilio fere septem annos: atque eo tempore fiebant sardoniam in sede ejus.

Anno autem decimo quarto Basilij Imperatoris Romanorum, qui erat 379 magni extiterunt Constantinopoli terramotus, & concidit tertia pars hagiæ Sophiæ: & corruerunt multa ædificia Nicomediæ in habitatores suos. Basilus autem restauravit ea quæ de templo hagiæ Sophiæ conciderant, eaque ad pristinam formam reduxit.

Eo autem tempore quo rebellaverat Phocas & totus fuerat Basilus Imperator in eo oppugnando, Bulgari, arreptâ occasione, oppugnaverant regionem Romanorum aliquoties, atque incendijs, vastatione, & direptione grassati erant usque ad civitatem Seleucia. Ea de causa armavit se Basilus Imperator ad bellum ijs inferendum: abiitque in Thraciam, anno 380. & vocavit Sclerum, ut secum in bellum iret. sed hic ager erat, & in lecto portatus est ad Imperatorem: qui cum coram vidisset valetudinem ejus, jussit eum manere domi suæ: deditque ei septuaginta aureorum millia eroganda in eleemosynas: & profectus est contra Bulgarios. & paucis diebus post obiit Sclerus, die scilicet decimo septimo Dulhuggiæ anno trecentesimo octuagesimo.

Reconliatur Imperatori.

Agabius Patr. Antiochenus remouetur.

شرطونات  
χερσονησια  
ordinationes

Terræmotus Constantinopoli.

Basilij expeditio in Bulgarios.

Sclerus moritur.

ita

ita ut inter eadem Bardæ Phocæ, & obitum Scleri non fuerint duo anni. Basilius autem Imperator occurrit Bulgaris, eosque in fugam vertit: perrexitque regionem eorum oppugnare quatuor annos. & plurima de munimentis eorum cepit, quorum quedam servavit: sed diruit ea quæ videbat teneri non posse; & inter cetera civitatem Berrhæam.

Tempeſtas  
in Aegy-  
pto.

Anno trecentesimo septuagesimo octavo die Sabbathi, qui vigesimus septimus erat Dulhiggia, accidit in Aegypto tonitru vehemens, & venti tempestuosi, qui durarunt ad mediam usque noctem: & obducta fuit urbs tenebris, quibus similes non viderant, donec illucesceret auro-ra, quo tempore egressa est à calo tanquam columna ignis, à qua & calum & terra vehementer rubebant. & apparuit in aëre tantum pulveris, ut respirationem impediret, ac duravit id usque ad horam quartam diei, quo tempore sol apparuit, mutato colore. & ita quoque mutato colore deinceps ortus est, ad diem usque Iovis, secundum Muharrami anni 379. Apparuit quoque in occidente stella cui coma erat die Solis, vigesimo die Rabij posterioris anni 379: & duravit dies aliquot & viginti, conspecta singulis noctibus: deinde evanuit.

obitus Iacobi f. Iosephi.

Anno 386 obiit Iacobus filius Iosephi f. Calefi Consiliarius Azizif. Muazzi domini Aegypti mense Dulhiggia. erat autem vir felicitis ingenij, boni regiminis, reverendus, valde peritus gubernationis regni. Fuerat autem primum Iudeus, sed islamismum amplexus erat tempore Casuri Achsjidæi. qui & ministerio ejus in quibusdam est usus. post mortem autem hujus contendit in Occidentem, ad Muazzum Lidinilla, eique auctor fuit, ut Aegyptum peteret. postquam autem Muazzus Aegyptum est ingressus, prefecit eum tributo: cujus inspectionem habuit donec eum constituit Consiliarium. tempore autem obitus ejus, vectus fuit Aziizus domum ejus. & oravit pro eo, ac luxit atque deflevit eum. & merebatur utique istud.

Terræmotus Antiochia.

Anno trecentesimo octuagesimo primo ortus est Damasci terræmotus magnus die

وكان بين قتل بردس الفعاس وموت السقلاروس دون سنتين \* واما باسبل الملك فانه لقي البلغر وهزمهم واقام وغار بابلادهم اربع سنين وفتح حصونا كثيرة من حصونهم وحفظ بعضها واخر ما علم انه لا ينضب وفي جملة ما اخرج مدينة باريا

وحدث في شهر لبله السبت السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وثلثمائة مخرج شديد ورياح عواصف ولم تزل الـ نصف الليل واسودت المدينة سوادا لم يروا مثله الي وجه الصبح وخرج من السماء مثل عمود فام واحمرت منه السماء والارض احمرارا شديدا وكان يظهر في الجون غبار كهمبر ياخذ النفس ولم يزل كذلك الي الساعة الرابعة من النهار وظهرت الشمس متغيرة اللون ولم تزل تطلع متغيرة اللون الي يوم الخميس ثاني المحرم سنة تسع وسبعين وثلثمائة \* وظهر كوكب له ذوابة في المغرب لبله الاحد العشرين من ربيع الاخر سنة تسع وسبعين وثلثمائة واقام نيفا وعشرين يوما يظهر كل لبله ثم غاب بعد ذلك

وفي سنة ثمانين وثلثمائة مات الوزير يعقوب بن يوسف بن كلسن وزير العزيز بن المعز صاحب مصر في ذي الحجة وكان رجلا جيدا العقل حسن السياسة كثير الهبة خبيرا بتدبير المملكة وكان يهوديا في اول امره واسلم في ايام كافور الاخشبدي وتصرف في بعد خدمه وخرج بعد موته الي الغرب وقصد المعز لدين الله وجملة الي قصد الديار المصرية فلما دخل المعز الي مصر قلده خراجها ولم يزل ينظر فيه الي ان قلده العزيز الوزير وركب العزيز الي دارة يوم موته وصلى عليه وحرن وبكا وكان مستحقا لذلك

وفي سنة احدى وثمانين وثلثمائة حدث بدمشق زلزلة عظيمة ليلة السبت



سابع عشر المحرم وسقط فيها زها الف  
دار ومات تحت الردم خلق كثير  
وحسب في تلك الليلة قرية من قري  
بعليك ولم تزل الزلازل متابعا الي يوم  
الجمعة الرابع عشر من صفر وخرج الناس  
من دورهم الي الصحاري \*

*decimo septimo Muharrami. ita ut ibidem  
corruerent ad mille domicilia: & sub rui-  
nis eorum multi mortales perirent. Corruit  
quoque eo die pagus quidam è pagis Bala-  
beci. & non cessarunt continui motus ante  
diem Veneris, 14 Safari. & exierunt ho-  
mines è domibus suis in campos.*

## CAPVT SEXTVM.

الخامس والعشرون من الخلفاء العباسيين  
وهو السادس والاربعون القادر  
بالله ابو العباس احمد بن اسحق  
بن المقدم بن المعتمد \*

*Vigésimus quintus Abbasidarum, &  
Chalifa quadragesimus sextus AHMED  
ABULABBAS CADIRVS BIL-  
LA, filius Ishaci, f. Mu&a-  
diri, f. Mutadidi.*

له بالخلافة لاحدي  
بويح عشرة ليلة خلت من شهر  
رمضان سنة احدي  
وثمانين وثلثمائة وتزوج سكبنة ابنة  
الملك بها الدولة بن عضد الدولة بن  
بويه في سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة علي  
صداق مائة الف دينار \*



*REATVS est Chalifa de-  
cimo nono Sjaabani, anno tre-  
centesimo octuagesimo primo.  
& duxit Sekinam filiam  
Regis Bahaiuddaula filij Adaduddaula  
filij Boja anno trecentesimo octuagesimo  
tertio, dotem ei dans centum aureorum  
millia.*

Cœpit 26  
Februarij  
A. C. 993.

وفي سنة خمس وثمانين وثلثمائة  
توفي صاحب ابو القاسم بن عياد  
وزير الملك فخر الدولة بن ركن الدولة  
بن بويه وهو اول من دعي بالصاحب  
من الوزراء وسبخته كان فاضلا عالما  
كرها مدبرا حسن السياسة والرسائل  
الحسنة البديعة والشاعر الجيدة الفايقه  
ومن جملة شعره قوله

*Anno 385 obiit Socius Abulcasimus  
f. Ajadi Consiliarius Regis Fachruddaula f.  
Rucnuddaula, f. Boja. atque hic primus  
inter Consiliarios vocatus est Socius.  
Ad naturam ejus quod attinet. Vir fuit e-  
gregius, eruditus, honorabilis, prudens, boni  
regiminis. epistolas scribebat elegantes &  
ingeniosas, & versus quoque bonos atque  
excellentes. inter alios autem versus &  
hos fecit.*

Cœpit 5  
Februarij.  
A. C. 995.  
Obitus A-  
bulcasimi  
f. Ajadi.

وقد احن لي من مات من كرم حنين ارض الي متاخر المطر \*  
وقد تبات يدي عن كاسها غضبا ومحبت الا دن ايضا بوعه الودر \*  
حي املك هدي ما تجود به واسع الحمد بالاخري على الاثر \*

ومن قوله ايضا *item hos*

وسادن صفاته تعجر عنها صفتي \*  
هوي لقبيل يدي فقلت لامل شفتي \*

وفي سنة ست وثمانين وثلثمائة  
كانت وفاة العزيز بالله صاحب مصر  
بالجم ببلبيس في شهر رمضان وقد  
ذكرنا ذلك وكانت مدة ملكه

*Anno trecentesimo octuagesimo sexto  
obiit Azizus Billa Dominus Aegypti,  
in balneo Belbaifi, mense Ramadan, uti supra diximus. Imperavit autem*

Cœpit 25  
Jan. A. C.  
996.  
Azizi Bil-  
la Regis  
Aegypti  
obitus.

annos

annos 21, menses 6 & dies 17. & vixit annos 42, menses 8, & dies 14. Ad naturam ejus quod attinet. Egregia fuit indolis, boni regiminis, & valde sollicitus de salute populi.

Succesor  
Hakemus  
Biamrilla.

Mortuo autem Aziſo Domino Aegypti, ceſſit imperium filio ejus Hakemo Biamrilla tertio Fatimidarum, filio Abulmansoris f. Barari, die Martis vigesimo octavo mensis Ramadani anni 386. natus autem erat Alcahira in Rabio priori anni 375, ita ut cum imperare inciperet natus esset annos undecim: sed administrabat pro eo imperium Arghuanus minister, jussu patris ejus Aziſi Billa.

Cœpit 13  
Ian. A. C.  
997.  
Fachrud-  
daula obit

Anno 387 obiit Fachruddaulas filius Rucnuddaula filij Boja, die decimo Sjaabani. & successit ei in Imperio Rajæ & dittonis ejus filius Ruſtemus Maghduddaulas f. Fachruddaula f. Rucnuddaula, f. Boja. atque id cognomen ei dedit Chalifa Cadirus Billa: qui & auctoritatem conſignatam ei miſit, & veſtem imperialem.

Eodem anno potitus est Fanuſus f. Waſmakini Gjorgjana & Tabriſtana.

Cœpit 3.  
Januarij.  
A. C. 998.

Anno 388 occiſus fuit Samsamuddaulas f. Adaduddaula: id quod hoc modo contigit. Commemoravimus ſupra exitum ejus è carcere, & quod poſſideret munimenta quadam Dailama. erant autem Abunaſrus affinis Firuzi, & Abulcaſimus filij Azzuddaula f. Muazzuddaula f. Boja, ibi incarcerati, inde ab obitu patris ſui. at poſtea corruerunt quosdam præfectos, ita ut eos dimitterent. Hinc multas collegerunt copias. & ſumpſit Abunaſrus quidem cognomen Nuruddaula Muhialumma, Abulcaſimus verò, Hiſamuddaula Sejjidulumma. abiitque Abulcaſimus Argjanum, cujus & dominium acquiſivit à Vicario quodam Samsami. Hinc contenderunt ad Samsamum ipſum: qui eos timens, cõtendit in arcem Sjrasi: ut ſe ibi miniret. ſed Præfectus arcis noluit eum intrmittere, unde cum trecentis viris abiit Ahwaſam. at occurrit patrueli ſuo Abulcaſimo f. Azzuddaula, prælioque commiſſo, occiditur:

صمصام الدولة فخاف منها وقصد قلعة شبران ليحصن بها فغلق والبها الباب في وجهه فضي في ثلثاية رجل الي الاهوار فلقي بن عمه ابا القاسم بن عمر الدولة فتقاتلوا فقتل صمصام بن

احدى وعشرين سنة وستة اشهر وسبعة عشر يوما \* وكان عمره اثنتين واربعين سنة وثمانية اشهر واربعة عشر يوما \* سبرته كان جميل السمرة حسن السياسة شديد الاهتمام بمصالح الرعية

قال ولما توفي العزيز صاحب مصر بويع بالخلافة لولده الحاكم باسم الله الثالث من الفاطميين ابن ابي المنصور بن برار يوم الثلثا الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلثاية وكان مولده بالقاهرة في ربيع الاول سنة خمس وسبعين وثلثاية ولما بويع له كان عمره احدى عشرة سنة فقام بتدبير الامر ارجوان الخادم بوصية ابيه العزيز بالله

وفي سنة سبع وثمانين وثلثاية كانت وفاة فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه وذلك لعشر مضين من شعبان فقام بالملك بعده في الري واعمالها ولده مجد الدولة رستم بن فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه لقبه بذلك الخليفة القادم بالله وبعث اليه بالعهد والخلع السلطانية

وفي هذه السنة استولى فانوس بن وسكين علي جرجان وطبرستان قال وفي سنة ثمان وثمانين وثلثاية كان مقتل صمصام الدولة بن عضد الدولة ومن حديث ذلك ان اكا ذكرا مخرجة من محبسة وبها كعب بعض قلع الديلم وكان ابو نصر صهر فيروز وابو القاسم ابن اعز الدولة بن معز الدولة بن بويه معتقلين بها من وفاة ابئها ثم انها خدعا بعض الموكلين فاطلقوها فجمعوا جموعا عظيمة وتلقب ابو نصر بنور الدولة محبي الامة وقويا وتلقب ابن القاسم بحسام الدولة سيد الامة وقويا وسار ابو القاسم الي ارجان فلكها من نايب صمصام وقصدا صمصام الدولة فخاف منها وقصد قلعة شبران ليحصن بها فغلق والبها الباب في وجهه فضي في ثلثاية رجل الي الاهوار فلقي بن عمه ابا القاسم بن عمر الدولة فتقاتلوا فقتل صمصام بن



واتي براسة الي ابي نصر بن عز الدولة في طست فلما راء قال هذه سنة سنهها ابوك يعني بقتله عز الدولة بن ٤٤ ٥٠ وفي سنة تسع وثمانين وثلاثماية استولى السلطان بن الدولة محمود بن سبكتكين صاحب الهند على اعمال خراسان واخذها من عبد الملك بن نوح الساماني وهو اخر الملوک السامانية ٥٠ وفي سنة احدى وتسعين وثلاثماية كانت وفاة ابي الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة بن عبد الله بن حمدان صاحب حلب وذلك في منتصف صفر فبقال ان جاربية سقته سما ويقال ان لول غلام ابيه دس ذلك علي ابي الفضائل وكان له الامر كله ولم يكن لابي الفضائل الا مجرد الاسم وكانت مدة مملكة ابي الفضائل تسع سنين وشهور وخلف ولدين ابا الحسن على و ابا المعالي شريف فعقد لهما الملك بحلب وقام بامرهما لول الخراجي وابنه منصور بن لول فبقيا كذلك مدة ثم اخرجهما لول فقبضيا الي مصر واستقر الملك للول وابنه منصور ٥٠

وفي هذه السنة قتل ابي نصر بن عز الدولة واتي براسة الي بن ٤٤ بها الدولة بن عضد الدولة وذلك بعد حروب طويلة جرت بينهما واستولى بها الدولة علي ما كان بيد ابي عز الدولة ٥٠ وفي سنة سبع وتسعين وثلاثماية خرج علي الحاكم صاحب مصر رجل من بني امية من ولادة هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحاكم واسمه الوليد وتلقب النايير باسم الله وجرت بينه وبين الحاكم حروب كثيرة اخرها ان الحاكم ظفر به وقتله بمصر بعد اشهره ٥٠ وفي سنة تسع وتسعين وثلاثماية كانت وفاة لول الخراجي صاحب حلب في ذي الحجة فملك حلب بعده مرتضي الدولة ابي نصر منصور بن لول واستقر له الامر فيها ٥٠

caput ejus in disco affertur ad Abunaf- rum f. Azzuddaula, qui eo viso, Hæc est, inquit, doctrina, quam docuit pater tuus, dum scilicet occidit Azzuddaulam f. patris sui.

Anno trecentesimo octuagesimo nono Cæpit 23 Decemb. A. C. 998. Sebectekini Dominus Indiae ditio- ne Chorasana, & eripuit eam Abdulmelico f. Nubi Samaneo, qui ultimus fuit Re- gum Samanearum.

Anno 391 obiit Abulfadajlus f. Saadud- daule, f. Saifuddaula, f. Abdalle f. Hamadani, Dominus Halebi, idq. in medio men- sis Safari. Ajunt autem puellam quan- dam venenum ei ministravisse. alij volunt Ministrum patris ejus Luluum id procura- visse. Erat autem penes Luluum omnis potestas, & Abulfadajlus solum habebat titulum. Regnavit Abulfadajlus annos novem, & aliquot menses. Filios reliquit duos, Alim Abulhasenum, & Sjerifum Abulmaalim, quibus cessit imperium Halebi: sed quod eorum nomine administra- bat Luluus Charaghæus, cum filio suo Mansore f. Lului. atque ita aliquamdiu man- serunt. Sed postea ejecit eos Luluus, & abierunt in Aegyptum: ac remansit Impe- rium Luluo & filio ejus.

Cæpit 1 Decemb. A. C. 1000. Abulfa- daijlus Rex Halebi moritur.

Luluus ejus filioꝝ eijcit.

Eodem anno occisus fuit Abunafrus f. Azzuddaula, & allatum fuit caput ejus ad patrielem ejus Bahaiuddaulam f. Adadud- daule: idque post longum inter eos bellum. & potitus est Bahaiuddaulas ijs omnibus que possederant duo filij Azzuddaulæ.

Anno 397 prodijt contra Hakemum Cæpit 27 Septemb. A. C. 1006. Dominum Aegypti vir quidam Ommia- des, è progenie Hisjami f. Abdulmelici, f. Merwanis f. Hakemi, nomine Walid, co- gnomen assumens Najri Biamrille. mul- tisque ab eo & Hakemo commissis prælijs, tandem eum vicit Hakemus, atque occi- dit, in Aegypto, cum jam menses aliquot turbasset.

Anno trecentesimo nonagesimo nono Cæpit 5 Septemb. A. C. 1008. Lului obi- tus, successor, Manfor. stabilitum.

Anno

Cœpit 14  
August.  
A. C. 1010  
Carwasus  
deficit ad  
Hakemum

Anno 401 oravit Carwasus f. Muçtadiri Præfectus Mausila nomine Hakemi Domini Aegypti. Hinc abiit Cufam, atque effecit ut ibi quoque ejus nomine oraretur. quâ re Rex Bahaiuddaulas, qui tunc Argjani erat, conturbatus, ad Carwasum scripsit, & factum ejus reprehendit. unde abolita fuit vocatio Hakemi, & restituta iterum vocatio Cadiri Billa: qui ad Carwasum misit dona, quæ triginta valebant aureorum millia, eumque increpavit. sed is excusatione apud eum est usus.

Cœpit 4.  
August.  
A. C. 1011  
Cadirus  
Billa scribit  
contra  
Reges Aegypti.

Anno 402 jusit Cadirus Billa scribi diploma, continens vituperium generis Chalifarum Aegypti, quodque originem ducerent à Disania, & Charisei essent, nec quidquam haberent commune cum Ali f. Abutalibis. id quod probavit allegatâ auctoritate magnorum aliquot auctorum, inter quos erant Nobiles illi Radis & Murtadis; item Abuhamid Ascaranus, & Abulhasenus Cadureus.

Cœpit 23  
Iulij. A. C.  
1012.  
Bahaiuddaula  
Regis Iracæ  
obitus.

Anno quadringentesimo tertio obiit Bahaiuddaulas f. Adaduddaula f. Rucnuddaula f. Boja, Dominus Iracæ: idque in Gjumada posteriori. accidit enim ei epilepsia, quæ prævalens, eum occidit. Regnavit autem in Iracæ annos viginti tres, & menses undecim. atque obiit Argjani. & regnavit post eum filius ejus Abusuggajus Sultanuddaulas: cui & Chalifa Cadirus Billa scripsit auctoritatem consignatam. quin & inauguravit eum: & constituit eum in locum patris ejus. is autem sedem imperij sui fixit Sjirazi.

Successor  
Sultanuddaulas.

Cœpit 2  
Iulij. A. C.  
1014.  
Mansor  
bellum infert  
filijs  
Kilabi, &  
capitur.

Anno 405 prodijt Māsor Abunasrus Murtadiddaulas f. Lului, Dominus Halebi bellum illatū filijs Kilabi, ut suo loco arci præfecerat Fatahum patris sui ministrum. acerimo autem prælio commissō, Salibus quidam filius Mardasi, f. Abuidrifi, f. Nasri f. Ghamily, ex filijs Kilabi cepit Mansorē. sed deinde eum dimisit, ut libertatem suam redemit altera parte eorū quæ possidebat; domesticorū nempe, pecuniarum, & suppellectilis. Hinc Mansor abiens, celerrime se recepit in Regionem Romanorum. Cumq; Fatahus rebellavisset in arce Halebi, & defecisset ad Hakemum, concessit ei Hakemus tributum Tsidonis, Beryti, ac Tyri, & cognominavit eū

Fatahus  
Præfectus  
Halebi rebellat.

قال وفي سنة احدى واربعماية خطب قرواس بن المقتدر صاحب موصل للحاكم صاحب مصر ثم مضى الى الكوفة فاقام بها الخطبة للحاكم وكان الملك بها الدولة يومئذ بارجان فانزعج لذلك فكاتب قرواس ينكر عليه ما فعل فانزلت دعوى الحاكم واعيدت دعوى القادر بالله ويعتد القادر لقرواس ما قيمته ثلاثين الف دينار وعاتبه فاعتذر اليه  
وفي سنة اثنين واربعماية امر القادر بالله بكتب محضر يتضمن القدح في تسمية خلفاء مصر وان اصلهم من الديسانية وانهم خوارج وعلي بن ابي طالب بري منهم واشهد فيه جماعة من الاكابر منهم الشريفان الرضي والمرضي وابو حامد الاشعري وابو الحسن القدوري

وفي سنة ثلاث واربعماية كانت وفاة بها الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب العراق وذلك في شهر جمادى الاولى وكان حدث به صرع يباليغ عليه فقتله وكانت مدة ملكه بالعراق ثلاث وعشرين سنة واحده عشر شهرا وكانت وفاته بارجان فقام بالملك بعده ولده سلطان الدولة ابى سجاج وكتب له الخليفة القادر بالله العهود وخلع عليه واقامه مقام والده واقام بشهرين بتدبير الملك

وفي سنة خمس واربعماية خرج مرتضى الدولة ابى نصر منصور بن لولى صاحب حلب لمحاربة بى كلاب واستناب بالقلعة فتح غلام ابيه واشتد القتال بين مرتضى الدولة وبى كلاب فاسره صالح بن مرداش بن ابي ادريس بن نصر بن جميل من بى كلاب ثم باعه نفسه بنصف ما يملكه من عين وورق وعروض واطلقه وعاد مرتضى الدولة هاربا الى بلاد الروم ولما عصي الفتح بقلعة حلب وانتهى الى الحاكم اقطعه الحاكم صبدا وببروت وصور وبقية



مبارك الدولة وسعدها واستمر مقامه بحلب من قبل الحاكم وعدل على الرعية واحسن اليهم ولم يزل كذلك حتي ان ورد عزيز الدولة ابن سجاع قايد في شهر رمضان سنة سبع واربع مائة فعصي بحلب ودعي الي نفسه

وفي سنة احدى عشرة واربع مائة كان مقتل الحاكم بامر الله وكان سببه انه بعث الي اخية ست الملوك ابنة عزيز يتهدها ويقول لها كلاما قبيحا فوافقت رجلا من اكابر الامراء يقال له ابن دواس على قتل الحاكم ووعده انه اذا قتله فوضت اليه تدبير المملكة \* واحضرت عبيدين من عبيد بن دواس وهبتهما الف دينار وقالت لهما اصعدا الي الجبل المقطم فاكمننا فيه فان الحاكم يصعد اليه وليس معه الاركابين وصيبا فاقتلاه واقتلا الصبي والركابين ففعلوا كما امرتهم وقتلاه وحملوا جثته اليها فدفنته عندها وفقدوا الناس الحاكم فاجوا واختلغوا واضطربوا ولم يدروا كيف امرة وقصدوا الجبل فلم يجدوا له اثرا فاحضرت ست الملوك وجوه الامراء واستخلفتهم ورتبت الامور واحكمتها والبست على ابن الحاكم ملايس الخلفاء وتوجته واشهرت موت الحاكم فاقامت عليه المائمه واحضرت الخادم صاحب السر وامرته ان يضبط ابواب القصر ويقف بين يدي ابن دواس ويقول مولانا الطاهر يقول لكم هذا قاتل ابي الحاكم بامر الله فاخذت السيف فقتلت بن دواس ثم قتلت العبيدين وكلن اطاعته علي سرها ورتبت لاني الحسن علي بن الحاكم اتابلي يقوم بتدبير الملك ولقبه الطاهر لاعران دين الله وكان مقتل الحاكم في شوال وكانت مدة ملكته خمس وعشرين سنة ونصف شهر وعمره سبع وثلاثين سنة \*  
 و dimidium mensem ; & natus esset annos triginta septem .

Mubarecuddaulam : perrexitque manere Halebi nomine Hakemi, & justus fuit populo, ac bene ei fecit : atque ita continuavit, donec venit Caidus Abusugjais Azizuddaulas, mense Ramadano, anno 407, qui rebellavit Halebi, atque imperio se ingessit.

Anno 411 occisus fuit Hakemus Biamrilla. cujus rei causa hac fuit. Miserat Hakemus ad sororem suam Settulmulucam filiam Azizi, eique minatus erat, & turpia loquutus : unde ea egit cum quodam e maximis primatum, cui nomen erat filio Dawasi, ut Hakemum interficeret : promisitque ei fore, ut, cum eum occidisset, ad ipsum traduceret gubernationem regni. Advocavit quoque duos de servis filij Dawasi, eisque dedit mille aureos, ac dixit. Ascendite in montem Mucattimum, atque ibi latitate. cumque in eum ascenderit Hakemus, duos tantum apud se habens equites, & pueram : occidite eum, item puerum, & equites. Ii autem fecerunt id quod ea jusserat, & occiderunt Hakemum, ac portarunt cadaver ejus ad ipsam, qua id apud se sepelivit. Cum autem homines eum desiderarent, commoti fuerunt valde, atque conturbati, ignorantes quid ei accidisset. ascenderuntque in montem : sed nullum ejus invenerunt vestigium. Convocavit autem Settulmuluca primarios Principes, eosque adjuravit : & negotia omnia ordinavit, atque stabilivit : induitque Alim filium Hakemi vestibus imperialibus, & coronavit eum, ac divulgavit mortem Hakemi. Hinc accusationem instituit. jussuque adesse ministro, secreti conscio, ei praecepit, ut clausis palatij foribus, se sifteret coram filio Dawasi, & diceret, Dominus noster Taherus ait vobis, hic est occisor patris mei Hakemi Biamrillae. hinc ea accepto gladio occidit filium Dawasi, deinde occidit quoque duos istos servos, & omnes eos quos secreti sui fecerat participes. & adjunxit Ali Abulhaseno f. Hakemi Atabalim, qui regnum administraret : & cognominavit Alim, Taherum Lijazdinillam. Incidit autem cades Hakemi in Sjewalum : cum regnasset annos

Cæpit 27  
 Aprilis.  
 A. C. 1020  
 Cædes Ha-  
 kemi Bi-  
 amillæ.

Successor  
 Alis f. Ha-  
 kemi.

Natura  
Hakemi  
pellima.

Ad naturam ejus quod attinet. mala fuit indolis, nullius religionis, & inconstans in omnibus suis negotijs. præcipiebat rem aliquam, & diligentissime in eam incumbere: mox autem ab ea recedens, pari diligentia destructioni ejus studebat. Ipse vicis noctu perambulabat, ut, quid populus diceret, ageretque, intelligeret. Subornabat quoque vetulas, quæ ingressæ ad homines observarent sermones eorum, eosque ad ipsum referrent. Prehendit & mulieres quasdam, easque occidit. & per præconem edictum promulgavit, ne mulier ulla domo sua egrederetur, neque in tectum suum ascenderet. Venit quoque sutores calceos facere mulieribus. unde populus gemuit. Cumque gravissima omnibus, & molestissima esset oppressio ejus, atque tyrannis in populum, clanculum ad eum direxerunt epistolas signatas, quibus imprecabantur ei mala. resque eo devenit, ut facerent statuam mulieris à chartis impletis, eamque induerent calceis, & cingulo, & collocarent in via, ad instar mulieris oppressæ, & manu sua tenentis libellum signatum, in quo erant omnis generis turpes detestationes. cum autem eam transiret Hakemus, non dubitavit quin mulier esset oppressa: & accessit, ut libellum è manu ejus acciperet: comperitque statuam esse, & legit libellum, invenitque in eo quod admiraretur. unde jussit incendi Mitfram, civemque ejus omnes interfici: sed hi pro vita sua fortiter dimicant. Cum autem multa loca incendiasset, obequitavit quotidie, & simulavit apud cives, incendium istud se inscio, & injussu suo factum esse. dumque incendiū fiebat, & ignis pergebat, ac plebs diripiebat, is dolorem simulabat. Post tres autem dies, convenerunt in templo cathedrali urbis, Seniores populi ac primores, & elevatis Alcoranis, gemuerunt cum fletu, & supplicatione ad Deum Opt. Max. & scripserunt ad Hakemum, dicentes. Nos servi tui sumus, & civitas hæc est civitas tua, & in ea uxores nostræ, & liberi nostri. neque scimus quenquam nostrum delictum aliquod commisisse, quod hoc commeruerit. Si autem vis nos migrare, migrabimus. At si hoc fit absque venia tua, sine nos oppugnare hosce servos, & milites. Is autem respondit. Ego id vobis nec permisit, nec præcepi. & misit interim clam ad eos servos, ut pergerent.

Mitfram  
incendit.

وسيرة كان مردى السيرة فاسد والعقيدة مضطربا في جميع اموره يامر بالشى ويبالغ فيه ثم يرجع عنه ويبالغ في دفعه وكان يطوف الاسواق لبلاب بنفسه ليطلع على اخبار الرعية واحوالهم ويرتب عجائز يدخلن على الناس ويستعملن اخبارهم وينقلن ذلك اليه وقبض على جماعة من النساء فقتلن وبادى مناديه ان لا تخرج امرأة من منزلها ولا تشرف فوق سطحها وامر الاساكفة ان لا يصنعوا اخفافا للنساء فضج الناس من ذلك وعظم عليهم واشتد ظلمه وعسفه للرعية فسدوا اليه الرقاع المختومة فيها الدعا عليه واقتضى الحال بهم الي ان عملوا تمثالا من قرطيس محشوة والبسوة خفا وانزرا ونصبوه في الطريق بصورة امرأة متظلمة وفي يده رقعة مختومة تتضمن كل شتم قبيح ولما جاز الحاكم بالصورة لم يشك انها امرأة متظلمة فتقدم لهاخذ الورقة من يدها فوجدها تمثالا فقرأ الورقة فوجد فيها ما استعظمه فامر باحراق مصر وقتل كل من بها فقاتل المصريون عن انفسهم قتالا شديدا واحرق مواضع كثيرة ثم صار يركب كل يوم ويظهر للناس ان الذي وقع من الحريق بغير علمه ولا امره ويظهر التوجع والحريق يعمل والنار تسري والرقاع ينهب وبعد ثلاثة ايام اجتمع مشايخ مصر واشرفها الي الجامع ورفعوا الاصاحف وضجوا بالبكاء والتضرع الي الله تعالي وكتبوا للحاكم يقولون نحن عبيدك وهذه البلد بلدك وفيها حرمانا واولادنا وما علمنا ان احد منا جنا جناية اوجبت هذا وان امرت ان نرحل مرحلنا وان كان هذا بغير امرك فاطلقنا نقاتل هؤلاء العبيد والاجناد فاجابهم اني ما ادنت لهم في ذلك ولا امرت به ثم بعث الي العبيد والاجناد سرا ان يستمروا



علي ما هم عليه ويتأهبوا للقتال فقاتلوا قتالا شديدا وعزم اهل مصر علي قصد القاهرة فخاف الحاكم منهم فركب حمارة ومضي الي العبيد قصرهم عن الحريق بعد ان احرق ربع مصر ونهب نصفها ونهب العبيد نساء الناس ففشقوا بهن واشترهن اهلهم من العبيد بالاموال وقتل جماعة من النساء انفسهن خوفا من العار قال وكان خلق من الجهال والرعايع يعتقدون في الحاكم الالهية فكانوا اذا راوه صاحوا يا الالهنا يا محيي يا مميته

وكان قد شدد علي النصارى واليهود واخرى كنايسهم واحجف بهم فاسلوا منهم خلق كثير ثم رجع عن ذلك وسمح لمن اسلم بالردة عن الاسلام وادن لهم في عمارة كنايسهم ويقال انه قال لداعية كم في جريدتك قال ستة عشر الفا يعتقدون انك الاله وحاصل الامر انه كان مجتمعاً له فساد العقيدة وعدم العقل وبويغ بعده لولده ابي الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي وذلك يوم الثلثا آخر شوال سنة احدى عشرة واربعمائة للهجرة ستة عشر يوماً بعد قتل ابيه الحاكم وكان مولده بالقاهرة في ليلة الاربعاء لعشر خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلثمائة وكان عمره لما تولى الخلافة ست عشرة سنة ولقب الطاهر لاعتزله دين الله

قال وفي سنة ثلاث عشرة واربعمائة وثبت علي ابي سجاع قايد صاحب حلب غلام له هندي اسمه بيرون فقتله على فراشه بالقلعة \* وهذا ابي سجاع كان امير اعلي حلب من جهة صاحب مصر وتغلب بعد ذلك علي حلب وعصي بها وكان تغلب بعزير الدولة وكانت مدة ولايته خمس سنين وشهور \* ولما قتل عزير الدولة استولى ابي المنعم بدر علي البلد وكان ابي المنعم هذا غلاماً لمنجويك من التركي مملوك العزيز صاحب مصر وكان بدر وعزير

in opere capto, seque ad pugnam pararent. & pugnarunt fortiter. Sed cum cives deinde statuerent contendere Alcahiram, timere ab eis cepit Hakemus, conscensoque asino, abiit ad servos istos, eosque ab incendio avertit, cum jam quarta urbis pars conflagrasset, & altera direpta esset. Rapiebant quoque servi uxores civium, easque violabant: & redimebant eas sui ab illis pecuniâ. quin & quaedam mulieres se ipsas interfecerant, metu opprobrij. Caterum stulti quidam & plebei deitatem Hakemo adscribebant, & quotiescunque videbant eum, clamabant, O Deus noster, O vivere faciens, & mori.

Afflixit quoque Christianos & Iudæos, & templa eorum diruit, eosque vexavit. unde multi ex ijs Islamismum sunt amplexi. sed, mutata deinde sententiâ, dedit eis, qui ad Islamismum defecerant, eidem renuntiare: & permisit eis restaurare templa sua. Quin ajunt eum Praconi suo dixisse. Quot habes in catalogo tuo? hunc autem respondisse. Sedecim millia confitentur te esse Deum. Paucis. concurrebant in eo atheismus & insania.

Succedit ei filius suus Alis Abulhasenus f. Hakemi, f. Azizi f. Muazzi f. Mansuri, f. Caijmi, f. Mahadis, idque die Martis ultimo Sjewali, anno Hegiræ 411. sedecim diebus post cadem patris sui Hakemi. Natus autem erat Alcahira, die Mercurij decimo quarto mensis Ramadani, anno trecentesimo nonagesimo quinto. ita ut annos haberet, cum Imperator fieret, sedecim. & cognominatus fuit Tahirus Lijza-dinilla.

Anno 413 irruit in Caijdum Abusugjaum Dominum Halebi servus quidam ejus Indus, nomine Birus, cumque occidit, super strato ejus, in ipsa arce. fuerat autem hic Abusugjaus Praefectus Halebi, nomine Domini Aegypti; sed rebellas deinde, Halebum sibi subjecerat, & cognomen assumpsit Azizuddaula. Imperavit annos quinque, & aliquot menses. & potitus, post cadem ejus, urbe est Badrus Abulmughimus, qui servus fuerat Manghubekini Turca, captivi Azizi, Domini Aegypti; & amicitiam ac familiaritatem coluerat

cum

Affligit Christianos.

Succedit ei Alis.

Cæpit 6 Aprilis. A.C. 1022. Caijdus Rex Halebi occiditur.

ei succedit Badrus.

*cum Azizuddaula. Cumque Azizuddaulas imperio potitus esset, hic eum elegit, & sibi assumpsit, praefecitque arci Halebi, nomine suo: unde & eo occiso, imperio est potitus; idque die decimo Rabij prioris: & cognomen sumpsit Waliuddaula. Sed cum deinde advenisset exercitus Aegyptiacus, nomine Tahiri Domini Aegypti, traditum ei Halebum fuit, à Badro. erant autem in eo, ex Ducibus Tahiri, Alis Abulhasenus Safiuddaulas, filius Gjafaris, f. Balahi, Ketamaus; & Iamanuddaulas Saadas Minister. ac praefecturam obtinuit, Iamanuddaulas quidem arcis; Safiuddaulas vero urbis.*

qui expellitur ab Aegyptis.

Cœpit 26 Martij. A. C. 1023

*Anno autem 414 deposuit Tahirus Dominus Aegypti Safiuddaulam Ketamaum praefecturâ urbis Halebi, & praefecit ei Hasenum Abumuhammedem Sanaduddaulam filium Muhammedis, f. Thaabani, Ketamaum.*

#### Initium Nobilitatis Mardafidarum.

**P**rimus ex ijs Halebi regnavit Salihus filius Mardasi, cujus genus & negotia quaedam commemoravimus, in rebus gestis anno 405. Cum autem hic ageretur annus, contendit Salihus iste Halebum, cum magno exercitu ex filijs Kellabi, alijsque, & arctissimâ id cinxit obsidione. unde cives id ei tradiderunt, pacificè; & is id accepit, atque ingressus est, decimo quarto Dulkiadae, anno 415: ac cognomen sumpsit Asaduddaula. Hinc contendit ad arcem, in qua erat Mausufus Minister, quem Tahirus deposito Iamanuddaula surrogaverat, quique in ea se muniverat. Salihus autem cives cum aquitate tractavit, & optime se cum ijs gessit, & Vicarium inter eos suum constituit Scribam suum Suleimanem Abulmansorem f. Tausi, atque abijt Balabecum, idque vi cepit, multis mortalibus occisis. Suleimanem autem Vicarium Salihis, Halebi, quod attinet. cum obsidio arcis jam invalesceret, eosque (qui in ea erant) aqua & victus deficerent, tradiderunt eam Mausufus & socius ejus Suleimani, certas quasdam stipulati condiciones. Cumque Suleiman Salihum per literas certiore fecisset de expugnatione arcis,

Salihus potitur Halebo.

& Balabeco.

atque arce Halebi.

الدولة بينهما مودة وصحبة فلما ملك عزيز الدولة حلب اصطفاه وقربه وولاه قلعة حلب من جهته فلما قتل عزيز الدولة استولى بدر عليها وذلك في عاشر ربيع الاول ولقب نفسه ولي الدولة وامينها ثم وردت العساكر المصرية من جهة الطاهر صاحب مصر فتسلخوا حلب من بدر وكان معهم من قواد الطاهر صغي الدولة ابن الحسن علي بن جعفر بن بلاح الكتامي ومن الدولة سعادة الخادم فتولي القلعة من الدولة وتولي المدينة صغي الدولة ✠

وفي سنة اربع عشرة واربعمائة عزل الطاهر صاحب مصر صغي الدولة الكتامي عن مدينة حلب وولاهها سند الدولة ابا محمد الحسن بن محمد بن ثعبان الكتامي ✠

#### ابتداء دولة بني مرداش

اول من ملك منهم حلب صالح بن مرداش وقد ذكرنا نسبه وبعض اموره في حوادث سنة خمس واربعمائة فلما كانت هذه السنة قصد صالح حلب في جمع كتيف من بني كلاب وغيرهم وحاصرها حصارا شديدا فسلم اهل البلد حلب الي صالح صلحا فتسلها ودخلها في رابع عشر ذي القعدة سنة خمس عشرة واربعمائة وتلقب اسد الدولة فقصد الي القلعة وفيها موصوف الخادم وكان طاهر قد عزل من الدولة وولاه مكانه وتحصن بالقلعة واما صالح فانه عدل في اهل البلد واستعمل معهم جميل السيرة واستخلف فيهم كاتبه ابا المنصور سليمان بن طوف ومضي الي بعلبك وفتحها عنوة وقتل بها خلق كثير \* واما سليمان بن طوف فاني صالح علي مدينة حلب فانه لما اشتد امر حصار القلعة وقتل عنهم الماء والمونة تسلها موصوف ورفيقه لسليمان بعد ان اشترطا وكتب سليمان الي صالح يعلمه بفتح قلعة حلب



فقدم اليها في اقرب وقت وصعد اليه  
القلعة وملكها وقتل موصوف ورتب  
الامور وسلك طريق العدل وصفت له  
البلاد من بعلبك الي عرقه ✠  
وفي هذه السنة كانت وفاة  
الملك سلطان الدولة ابي سجاع بن بها  
الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة  
بن بويه وذلك في شهر ابر في شوال  
وكانت مدة ملكه بالعراق اثني  
عشرة سنة وعمره اثنتي عشرة سنة  
وكان لما مرض عهد اليه ولده ابي  
كالنجار بن سلطان الدولة وهو يومئذ  
بخورستان فخطبوا له ثم اثني عزم القواد  
والاجناد فخطبوا له شرف الدولة بن  
بها الدولة فجمع ابي كالنجار بن سلطان  
الدولة جبوشة والنقوا واقتتلوا قتالا شديدا  
في وقعات متعددة فغلب هذا تارة  
وغلب هذا تارة واخر الامر ان ابا  
كالنجار ملك شبران واستقر بها واقام  
الملك شرف الدولة علي بن بها الدولة  
بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن  
بويه ببغداد ثم مات فيها عن مرض حاد  
وعمره ثلاث وعشرين سنة واشهر ولما توفي  
جرت فتن وتخبطات ببغداد واخر الامر  
ان الملك استقر لاخيه جلال الدولة  
ابي طاهر فيروز وهو يومئذ بالبصرة  
فخطب له علي المنابر ثم يات الاجناد  
ولوا ابن اخيه ابي كالنجار بن سلطان  
الدولة وخطبوا له وبلغ الخبر جلال  
الدولة فاحتشد وخصن بالبصرة ✠  
وفي سنة عشرين واربعماية كان  
مقتل اسد الدولة صالح بن مرداش  
صاحب حلب وذلك ان صاحب مصر  
جهن بوسكين الدريدي امير الجبوش  
لقتل صالح بن مرداش واخذ حلب منه  
فالتقوا بالاقحوانه من عمل طبرية علي شاطي  
نهر الاردن واقتتلوا قتالا شديدا فقتل  
صالح وقتل معه ولده الاصغر في جمادي  
الاولي وبعث براسهما الي مصر وافلت  
ولده شبل الدولة ابي كامل نصر بن  
صالح ومعز الدولة ابي علوان بمال

*hic primo quoque tempore eo contendit, atque in arcem ascendit, ejusque possessionem cepit. Mausufum occidit, & negotia omnia disposuit. Ambulavit autem in via justitie. & cessit ei omnis regio inde à Balabeco, usque ad Ircam.*

*Eodem anno vitâ excessit Imperator Sultanud-  
Abusugjaüs Sultanuddaulas, f. Bahaiud-  
daula, f. Adaduddaula, f. Rucnuddaula, f. Boja, idque Ssirazi, mense Sjewalo. Imperaverat autem in Iraca annos duodecim, ac natus erat annos triginta duos. Cum autem egrotaret, successorem designavit filium suum Abucalangharum f. Sultanuddaula, qui tum temporis erat in Churistana. itaque ejus nomine oratum fuit. Sed deinde Duces, & milites, mutatâ sententiâ, orarunt nomine patris ejus Sjarfuddaula f. Bahaiuddaula. Unde Abucalangharus copias suas collegit. & concursu facto, acriter dimicarunt, multis praelijs: vicitque, modo hic, modo iste. Tandem Abucalangharus obtinuit Ssirazum, atque ibi mansit. Rex autem Alis Sjarfuddaulas f. Bahaiuddaula, f. Adaduddaula, f. Rucnuddaula, f. Boja, mansit Bagdadi: ubi deinde obiit ex morbo acuto, annos natus 23 & aliquot menses. Eo autem mortuo, seditiones atq; tumultus orti sunt Bagdadi. sed tandem imperium cessit Firuzo Abutahiro Ghelaluddaula, qui tum temporis erat Basra, ejusque nomine oratum fuit in suggestis. sed deficientes deinde milites, Principem constituerunt filium fratris ejus Abucalanghari f. Sultanuddaula: atque ejus nomine orarunt. quod ut intellexit Ghelaluddaulas, milites collegit, & se munivit Basra.*

*Anno 420 occisus fuit Salihus Asadud-  
daulas f. Mardasi Dominus Halebi. Miserat enim Rex Aegypti Busekinum Dari-  
reum Ducem exercitus bellum ei illatum, qui Halebum ei eripuit. & concursu facto in Achuana, quæ est ditionis Tiberiadis, ad ripam fluvij Iordanis, acriter pugnarunt: occisique sunt Salihus, & filius ejus natus minimus, in Gjumada priori: & misit capita eorum in Aegyptum. Sed evaserunt duo alij ejus filij, scilicet Nasrus Abucamilus Sjabluddaulas f. Salih, & Bamalus Abuuhvanus Muazzuddaulas: qui,*

Sultanud-  
daulæ Re-  
gis Iracæ  
obitus.

successor  
Abucalan-  
gharus,

Ssirazi:

& Sjarfud-  
daulas,  
Bagdadi.

Obitus  
Sjarfud-  
daulæ:

successor  
Ghelalud-  
daulas.

Cæpit 19  
Januarij.  
A. C. 1029

Salih Re-  
gis Halebi  
ædes.

qui, ut venerunt Halebum, dominium ejus obtinuerunt, per societatem. Imperaverat autem parens eorum Halebi annos quatuor, & aliquot menses.

*Cœpit 9*  
*Januarij.*  
*A.C. 1030.* Anno quadringentesimo vigesimo primo irruit Sjabluddaulas in fratrem suum Muazzuddaulam, eumque ejecit Halebo, & solus obtinuit dominium Halebi, atque ibi mansit.

*Cœpit 29*  
*Decemb.*  
*A.C. 1030*  
*Cadiri*  
*Bille Chalife obitus.* Anno quadringentesimo vigesimo secundo obiit Cadirus Billa Chalifa Bagdagensis, mense Dulhiggia. Imperavit autem annos quadraginta unum, & aliquot menses: quantum temporis nulli Chalife ante eum contigit. Vixit annos octuaginta sex, & aliquot menses. Ad naturam ejus quod attinet. Sincerus fuit, multa justitia, & eleemosynarum, probus, & religiosus. sed vim passus est in imperio suo, omni dominio existente in manibus Bojdarum: unde frequenter recitabat hosce versus.

Natura.

سبق القضاء بكل ما هو كايين والله يا هذا ليرتكك كايين \*  
معني ما يكفي ويترك ما به يعي كايينك للحوادث امن \*  
او ما تربي الدنيا ومصرع اهلها فاعمل ليوم فراقها يا خايين \*  
واعلم بانك لا ينا لك فالذي اصبحت تجعه لغبرك خايرن \*  
يا عامر الدنيا انعم من لا لم يبق فيه بالمينه ساكن \*  
الموت شي انت تعلم انه حق وانت بذكره متهاون \*  
ان المينة لا يومر من افت في نفسه يوما ولا تستادن \*

& dicebat Deus Opt. Max. benignus est erga nos, cum spiramus mentionem ejus, & infitimus laudi ejus. Impij autem contemnunt eum, qui si confiderent in ipso, protegeret eos.

*Imperium.* Chalifatum sustinuit, ait Chronologus, annos unum & quadraginta, menses tres, & dies viginti tres. quorum initium dies fuit Veneris, finis vero, Luna: elapsis annis Hegira quadringentis & viginti uno, mensibus undecim, & diebus duodecim. annis vero solaribus mundi, sex mille, quingentis, & viginti tribus, mensibus quatuor, & diebus tribus.

*Res Christianorum.* Quod autem ad ea attinet qua Christianorum historia narrant tempore hujus Chalife p. m. accidisse. Ajunt anno 393 constitutum fuisse Patriarcham Abuna Zachariam, anno septimo imperij Hakemi Domini Aegypti, die Solis, vigesimo Baba,

Zacharias  
Patr. Alex.

قوصلا الى حلب فاكاهها شركة بيها فكانت مدة مملكة صالح والدجا بحلب اربع سنين وشهور \*  
وفي سنة احدى وعشرين واربعمائة وثبت شبل الدولة علي اخيه معر الدولة فاخرجه من حلب وانفرد شبل الدولة بمملكة حلب واستقر بها \*

قال وفي سنة اثنتين وعشرين واربعمائة كانت وفاة القادر بالله خليفة بغداد في شهر ذي الحجة فكانت مدة خلافته احدى واربعمين سنة وشهور ولم تكن هذه المدة لاحد من الخلفاء قبله وكان عمره ست وثمانين سنة وشهور \* سيرته كان صحيح الاعتقاد كثير البر والصدقات صالحا متدينا الا انه كان مقهورا علي امره والملك كله بيد يي بويه وكان ينشد داها هذه الابيات \*

كان يقول الله تعالي المنة علينا ان الهمنا لذكرك ووقفنا لشكره ان اهل المعاصي هانوه ولو توكلوا عليه لعصمهم \*

قال المورخ كانت خلافته احدى واربعمين سنة وثلاثة اشهر وثلاثة وعشرين يوما اولها يوم الجمعة واخرها يوم الاثنين لثمة اربعمائة واهدي وعشرين سنة واحد عشر شهرا واتي عشر يوما للهجرة لتمام ستة الف وخمسمائة وثلاث وعشرين سنة واربعة اشهر وثلاثة ايام شمسية للعالم \* والذي ورد تواريخ النصاري من الحوادث في ايامه رضي الله عنه انه قدم في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة البطرک ابن ابراهيم خرياس في السنة السابعة من خلافة الحاكم صاحب مصر في يوم الاحد العشرين من يابه



سنة سبعماية وعشرين للشهداء اقام  
ثمان وعشرين سنة منها في الاضطهاد سبع  
سنتين ورمي للسماع بأمر الحاكم هن  
وسوسنة النوبي بعد ان جوعت السباع  
فلم تضرها واعتقلوا ثلاثة اشهر وافرح  
عنها وخفي تسع سنين ومات في ثامن  
طوية سنة سبع مائة وثمان واربعين  
للشهداء ودفن في الحبش وخلا الكرسي  
بعده اربعة وسبعين يوما

وفي سنة سبع واربعماية وثم احد  
اكابر البلغر علي القطومرس تلام  
سهويل الذي كان ملك علي البلغر  
فقتله وجار مملكة البلغر وكتب  
الي الملك باسيل بان يكون من  
الداخلين في طاعته واقام علي ذلك سنة  
واحدة وقتله بعض اصحابه فكتب  
اكابر البلغر الي الملك باسيل برغمهم  
اليه ودخلهم في طاعته فسام ملك  
الروم الي البلغر في شوال سنة ثمان  
واربعماية واستولي علي مملكة البلغر  
ولي علي القلاع ولاة من الروم وذلك  
في السنة الرابعة واربعين من مملكة  
باسيل الملك وفي سنة الف وثلاثماية  
وثلاثين للاسكندر وعاد الملك الي  
القسطنطينية واختلط الروم بالبلغر  
وتزوجوا من بعضهم البعض وزالت  
تلك الصغايين التي بينهم

قال وفي سنة ثمان واربع مائة ورك  
الي مصر داع عجمي يسمي مجدا بن  
اسعبل وتلقب بالدمري وقصد خدمة  
الحاكم واحسن اليه وانعم عليه فدعي  
الناس ان يعتقدوا في الحاكم انه الاله  
الذي صنع العوالم واعلن هذه الدعوة  
واشهرها ولم ينكر الحاكم عليه بل  
احسن اليه وشكره علي ذلك وانكر  
الناس هذا الاعتقاد وعملوا علي قتل  
الدمري ووثب عليه بعض الاتراك  
في مركب الحاكم فقتله ونهب داره  
واقبتن الناس وغلقت ابواب القاهرة  
واستمرت الغينة ثلاثة ايام وقتل جماعة  
من الدمرية وقبض بعد ذلك علي

anno septingentesimo vigesimo Martyrum.  
& sedisse annos viginti octo, & septem qui-  
dem annos in persequutione. objectus fuit  
leonibus jussu Hakemi, una cum Sausana  
Nubiensi, sed qui, licet famelici, eis tamen  
non nocuerunt: unde post tres menses di-  
missi sunt. Latuit autem annos novem: &  
obijt octavo Tubæ, anno Martyrum septin-  
gentesimo quadragesimo octavo. ac sepul-  
tus fuit in Aethiopia: vacavitque post eum  
sedes septuaginta quatuor dies.

leonibus  
obijcitur  
& salvus  
evadit.

Anno quadringentesimo septimo irrui-  
t quidam è Principibus Bulgarorum in Ca-  
tomerum, Ministrum Samuelis, qui Rex  
erat Bulgarorum, eumque occidit, & ty-  
rannicè occupavit regnum: scripsitque ad  
Imperatorem Basilium, se velle ei subijci,  
atque obedire: atque in eo fuit annum in-  
tegrum. Hinc occidit eum quidam mili-  
tium ejus. & scripserunt Primores Bulga-  
rorum ad Imperatorem Basilium, se desi-  
derare eum, & cupere ei subijci. unde abijt  
Imperator Romanorum ad Bulgaros, mense  
Sjewalo, anno 408, & positus regno eo-  
rum, arcium Praefectos constituit Romanos,  
idque anno quadragesimo quarto imperij  
Basilij Imperatoris, qui annus erat 1330  
Alexandri. redijtque Imperator Constan-  
tinopolim, & commixti sunt Romani  
cum Bulgaris, ac matrimonijs juncti. &  
cessarunt, qua inter eos fuerant, ini-  
micitia.

Catome-  
rus Rex  
Bulgaro-  
rum occi-  
ditur.

Anno 408 venit in Aegyptum pseudo-  
propheta quidam barbarus, cui nomen erat  
Mubammedi filio Ismaelis, & cognomen  
Dararæo. Hic in ministerium se dedit Ha-  
kemi, qui ei benefecit, & gratificatus est.  
auctor autem erat populo, ut crederet Ha-  
kemum esse Deum, qui universum creasset.  
atque hanc suam haresin manifestabat,  
& divulgabat: nec eum detestabatur Ha-  
kemus, sed bene tractabat, & ob factum  
istud laudabat. Verum populus confesso-  
nem eam reprobans, studuit Dararæum in-  
terficere. irruique in eum Turca quidam,  
in curru Hakemi, & occidit eum. ac di-  
repta fuit ejus domus. & tumultu à populo  
excitato, clausæ sunt portæ Alcabiæ: dura-  
vitq; tumultus tres dies: & occisi sunt ali-  
quot Dararæani. Deinde autè prehensus fuit

Muham-  
med f. Is-  
maelis  
pseudo- scribe in Ara-  
propheta. bicis  
Et in Latino Dararæi  
a quo secta Drufionum.

Turca

*Turca, qui eum occiderat, ac in carcerem coniectus; & interfectus, ob crimen quoddam ei affictum.*

Alhadis  
pseu-  
propheta.

*Post Dararæum autem istum alius quidam prodijt pseudopropheta barbarus, nominatus Hamza f. Ahmedis, & cognominatus Alhadis. hic consedit prope Alcahiram, in loco quodam dicto Mesghidbîro: vocavitque populum ad opinionem Dararæi, & constituit aliquot doctores, eosque collocavit Mitsra, & in ditione ejus, nec non in Syrijs. ubi omnimodam prædicarunt licentiam, & permiserunt suis, ducere sorores, filias, atque matres: & sustulerunt pietatis studia, scilicet jejunium, orationem, & peregrinationem. auscultabat autem eis populus multus. quin ipse Hake-mus curam ejus Alhadis habebat, & interrogabat eum de affeclis ejus, & numero eorum. abstinuit quoque ab ijs que muneris ejus erant, precibus scilicet, & concione in templis, diebus Veneris, & mense Ramadanano, ac utroque festo habendis. Cessare quoque fecit peregrinationem Meccanam, per aliquot annos, & peregrinatus est Thalabiam Arabum. Cessavit quoque portatio tapeti, quod solebat ad Caabam Iamânicam mitti. Considerabant autem Musli-mi quid de ijs rebus futurum esset, quòd recederet à fide Islamismi. Atque ita cæpit secta Dararæorum, & celebris facta est inter mortales, maximè tamen Wadinnamri Tyri, Tsidone, & in monte Beryti, vicinifque Syria locis.*

Sanutius  
Patr. Alex.

*Ait Chronologus. Constitutus Patriarcha Iacobitarum Alexandria est Sanutius, anno decimo imperij Taheri, Domini Aegypti (qui quadringentesimus vicesimus primus, erat Hegira, & incidit in annum 748 Martyrum,) die Solis, vigesimo quinto Barmahati: seditque annos 25 cum dimidio. & obiit mense Baba anni Martyrum 774. amans autem erat pecunia, & sumebat sartoniam. vacavit autem post eum sedes annum unum & menses quinque.*

الشترطونيد  
Xepordria  
i. e. pecuniam pro ordi-  
natione exigebat.

التركي قاتل الدريري وحبس وقتل  
علي ذنب خلق له

وظهر بعد ذلك الدريري داع اخر  
عجبي يسمي حمزة بن احمد ويلقب  
بالهادي ونزل بظاهر القاهرة في  
الموضع المعروف بمسجد بهر ودتسي  
الناس الي مقالة الدريري واقام جماعة  
من الدعوة وتبئهم في مصر واعمالها  
والشامات ودعوا الي الاباحة وقسحوا  
دكاح الاخوات والابنات والامهات  
واسقطوا جميع التكلفات من الصوم  
والصلاة والحج واستجاب لهم خلق  
كثير وكان الحاكم يعتني  
بالمهادي ويسال عما حصل من اهل  
دعوته وعددهم \* وقطع الحاكم ما  
جرى به رسمه من صلواته وخطبه في  
الجوامع في ايام الجمعة وفي شهر رمضان  
والعيدين وعطل الحج الي مكة عدة  
سنين واحتج بتعلب العرب وانقطع حمل  
الكسوة التي جرت العادة بتجهيزها  
الي الكعبة الميمنية واستشعر المسلمون  
بما ظهر من هذه الامور لاجرافه عن  
دين الاسلام وظهر مذهب الدريرية  
واشتهر بين الانام واكثرهم بوادى  
النمر وصور وصيدا وجبل بهروت وما  
جاوزها من بلاد الشام

قال المورخ قدم البطررك ساندوتين  
لليعاقة علي الاسكندرية في السنة  
العاشرة من خلافة الطاهر صاحب  
مصر وفي سنة احدى وعشرون واربع  
ماية يوافق ذلك سنة سبع مائة وثمان  
واربعون للشهدا في يوم الاحد خامس  
وعشرين برمهات اقام خمس وعشرين سنة  
ونصفا وتنبح في بابة سنة سبع مائة  
واربع وسبعين للشهدا وكان محبا  
لمال واخذ الشرطونية وخلا الكرسي  
وبعد سنة وخمسة اشهر





## CAPVT SEPTIMVM.

السادس والعشرون من الخلفاء  
العباسيين وهو السابع والأربعون القائم  
بامر الله ابو جعفر عبد الله  
بن القادر بن اسحق بن  
المقنن بن المعتض \*

له بالخلافة يوم توفي والده  
بويح القادر وهو يوم الاثنين  
الاثني عشر من ذي الحجة  
سنة اثنين وعشرين واربعماية وكان  
والده جعله ولي عهده وخطب له بذلك  
علي المنابر

وفي هذه السنة قصد الملك جلال  
الدولة بن بها الدولة بن ضد الدولة  
بن مكن الدولة بن بويه بغداد واستولى  
عليها وخطب له علي المنابر وخالع عليه  
الخلافة القائم بامر الله الخلع السلطانية  
ولاه ما وراء بابه وذاك في القابله  
شاهنشاه الاعظم ملك الملوك واستقر  
له الامر

وفي سنة ست وعشرين واربعماية  
ورد كتاب السلطان بن الدولة محمود  
بن سبكتكين بانه فتح في بلاد  
الهند مدنا كثيرة وقتل من الكفار  
بها خمسين الفاوسبي سبعين الفا وثم  
ما يريد عن الف الف دينار وان كان  
وجد الغر قد افسدوا عليه فاقوع بهم  
وفتح جرجان وطبرستان وبلادا كثيرة  
وفي سنة سبع وعشرين واربعماية  
كانت وفاة الطاهر صاحب مصر  
بالقاهرة في شعبان فكانت مدة  
ملكه خمس عشرة سنة وشهور وبيع  
لولده المستنصر بالله اي قيم معبد بن  
الطاهر بن الحناك يوم توفي والده  
وهو يوم الاحد نصف شعبان سنة سبع  
وعشرين واربعماية وعمرة يومئذ ثمان  
سنتين وشهور وقبل ست سنين وشهور  
ولم يبايع لاحد قبله اصغر منه سنا  
ومولده كان بالقاهرة يوم الثلاثاء

*Vigésimus sextus Abbasida-*  
*rum, & Chalifa quadragesimus-*  
*septimus ABDALLA ABVGJAFAR*  
*CAIMVS BIAMRILLA, filius*  
*Cadiri, f. Ishaci, f. Mu-*  
*ctadiri, f. Mutadidi.*



*REATVS fuit Chalifa eo die*  
*quo pater ejus Cadirus obiit,*  
*qui dies erat Luna duodeci-*  
*mus Dulhiggia, anni qua-*  
*dringentesimi vicesimi secundi. Constitu-*  
*erat autem eum pater ejus Socium fæderis,*  
*atque eo titulo oratum quoque ejus nomi-*  
*ne fuit in suggestis.*

*Eodem anno venit Rex Ghalaluddau-*  
*las f. Bahaiuddaula, f. Adaduddaula, f.*  
*Rucnuddaula, f. Boja, Bagdadum: eoque*  
*est potitus: & oratum ejus nomine fuit in*  
*suggestis. induitque eum Chalifa Caiymus*  
*Biamrilla veste imperiali: & prefecit eum*  
*aula sua, & cognomini ejus addidit Sja-*  
*hensjah Maximus, Rex Regum. ac sta-*  
*bilisum ei fuit imperium.*

*Anno 426 allata sunt literæ à Prin-*  
*cipe Iamanuddaula, Mahmudo f. Sebuc-*  
*takini quibus significabat se cepisse in India*  
*urbes multas, & millia infidelium occidisse*  
*quidem quinquaginta, ac cepisse septua-*  
*ginta, ac spolia nactum esse, quæ plus quam*  
*millies mille valerent aureos. Verum cum*  
*deinde reversus esset, comperit Gazos irru-*  
*ptionem in terras suas fecisse, itaque op-*  
*pugnauit eos, & cepit Gjorgjanum & Ta-*  
*bristanam, urbesque multas.*

*Anno 427 obiit Taberus Dominus Ae-*  
*gypti, Alcahira, mense Sjaabano, ut re-*  
*gnauerat annos 15, & aliquot menses.*  
*& inauguratus fuit filius ejus Maabadus*  
*Abutamimus Mustansirus Billa filius Ta-*  
*heri, eodem die quo pater ejus obiit, qui dies*  
*erat Solis, in medio Sjaabani, anno 427.*  
*natusque erat eo tempore annos octo, &*  
*aliquot menses, aut, secundum alios, annos*  
*sex & aliquot menses, neque quisquam*  
*ante eum minor ipso annis inauguratus*  
*fuit. natus autem erat Alcahira, die Martis,*  
*vigesimo*

Ghalalud-  
dauilas Bag-  
dadum oc-  
cupat.

Cœpit 16  
Novemb.  
A.C. 1034

Cœpit 9  
Novemb.  
A.C. 1039

vigesimo quarto Dulbiggia anno 420 atque imperium sustinuit annos 60: nec cuiquam ante eum tam diuturnum imperium contigit. Abdurrahmanus tamen Nasirus Lidinilla f. Mundiri, Omniades, Imperator Andalusia tantum quoque temporis fere imperavit.

### Initium Principum Salghucidarum.

Cæpit 3  
Octob.  
A.C. 1038

Anno 430 cæperunt Principes Salghucida. & primus quidem ex ijs inauguratus fuit Muhammed Abutalib Togrulbecus. cuius fratres erant David Ghacarbecus, Firus, & Arselanus. Atque hi filij erant Michaelis f. Salghuci f. Dacaci. qui Dacacus vir fuit Turca, animosus, boni consilij, & regiminis. hic primus ex ijs Islamismum est amplexus. & Rex Turcarum consilio ejus utebatur, eumque sibi assumebat, in bello suo inter Turcas. Moriens autem filium reliquit Salghucum jam adultum, cui & Rex Turcarum commisit regimen exercituum suorum. sed cū deinde metueret sibi ab astutia ejus, statuit eum interficere, quod cum Salghuco subolevisset, fugit ad Regem Ghabie Haronem Sababuddawam, absque eo auxilium petijt, ad oppugnandam regionem infidelium Turcarum: unde is eum iurvit numerofo exercitu: sed occisus fuit Salghucus ab infideli quodam, in prælio, jam natus annos centum & septem. Filiū reliquit Michaëlem; cui liberi sunt nati illi, quorum nomina supra cōmemoravimus. Commorabantur autem in Mauranahara. & obediverunt isti Michaëli quam plurimi Turca, nullum Imperatorem, præter eū, agnoscentes. cumque contingeret ut Princeps Mahmudus f. Sebuçtakini Rex India trajiceret fluvium Ghahonem, opem laturus Warachano Regi Mauranahara, salutavit Michaël Regem Mahmudum, qui miratus est animum ejus & strenuitatem, quodque familia ejus morem ei gereret: & ab eo petijt, ut upud se maneret, fore ut cum revertetur, committeret ei Chorasanam defendendam contra hostes. at is id recusavit, unde iratus Mahmudus, in vincula eum conjecit, & rediens, in ijs detinuit.

رابع عشر ذي الحجة سنة عشرين وأربع مائة فكانت مدة خلافته سبعين سنة فلم يزل الخلافة قبله مثل هذه المدة إلا الناصر لدين الله عبد الرحمن بن المنصور الأموي خلفه الأندلس ولي قريب من ذلك

### ابتدا السلاطين السلجوقية \*

قال في سنة ثلاثين وأربع مائة كان ابتدا السلاطين السلجوقية فأول من بويج منهم طغرلبيك أبو طالب محمد وأخوته جقربك داود وقبرون وارسلان هؤلاء أولاد مبيكايل بن سلجوق بن دقاق وكان دقاق رجلا تركيا شهرا صاحب رأي وتدبير وهو أول من دخل في دين الإسلام منهم وكان ملك الترك يتدبر برأيه يستصحبه في حروبه بين الأتراك ولما توفي دقاق خلف ولده سلجوق وبلغ أشده فغوض إليه ملك الترك تدبير عساكرة ثم عزم ملك الترك على قتله خوفا من عايلته فبلغ ذلك سلجوق فهرب إلى ملك الجابية شهاب الدعوة هرون فاستجد به ليعزى بلاد كفرة الترك فأمده بجيش كثير فقتل سلجوق شهيدا من بعض الكفار وكان عمه يومئذ مائة وسبع سنين وخلف ولده مبيكايل بن سلجوق ونشأ لمبيكايل الأولاد الذين ذكرنا أسماءهم وكان مقامهم في ما وراء النهر وكان في طاعة مبيكايل هذا خلق عظيم من الترك ولا يتدبرون لاحد غيره وأتفق أن السلطان محمود بن سبكتكين سلطان الهند عبر نهر جوهون لمساعدة وزير خان ملك ما وراء النهر فاتي مبيكايل إلى السلطان محمود فاعجبه هتة وشجاعته وأتقباد قبيلته إليه فطلب منه أن يكون صحبته وأن ينزله إذا عاد في أرض خراسان ليعيها من العدو فلم يجبه إلى ذلك فغضب السلطان محمود عليه واعتقله ثم رجع السلطان وهو باعقاله



فتبعه اصحاب ميكايل وقبيلته فاقاموا  
 بهرج خراسان ثم توفي السلطان مجود  
 وهو نادم علي اتراك الانراك اصحاب  
 بن سلجوق في بلاد خايغاهم كارق  
 ماكانهم \* ولما توفي السلطان مجود  
 بن سيكتكين ملك ابنه ابن سعيد  
 مسعود بن مجود فجهر اليه اصحاب  
 بن سلجوق من عشيرته عسكرا فجزمهم  
 وكسرتهم واسر منهم جماعة ثم توفي  
 ميكايل بن سلجوق فاجتمعت  
 السلجوقية الاتراك علي ولده ابي طالب  
 محمد الملقب طغرليك فحارب عسكرا  
 مسعود بن مجود فكسرتهم وقتل منهم  
 خلقا واسر خلقا وتبعهم طغرليك الي  
 طوس فهاجم البلد وملكه وهو اول بلد  
 صار بيد السلجوقية واجتمع طغرليك  
 واصحابه فيه وحصنوه ثم خرجوا منه  
 الي نيسابور فلما فاما السلطان  
 مسعود فانه هرب الي الهند واوغل  
 في بلادها واقام فيها زمنا وولت  
 خراسان منه وطمع السلجوقية في البلاد  
 واستولوا عليها واخذوا اموالها وعاد  
 السلطان مسعود لما بلغه ذلك فقاتله  
 بنوا سلجوق فجزموه فارسل القائم بالله  
 يعظهم ويحثهم علي حفظ بلاد المسلمين  
 ثم قاتلهم مسعود ثانية فجزموه هزيمة ثانية  
 قبيحة واستقر ملكهم

وفي سنة احدى وثلاثين واربعماية  
 ظهر السلطان مسعود بن مجود علي  
 طغرليك بن ميكايل بن سلجوق  
 وهزمه وقتل من اصحابه خلقا كبيرا  
 واسر منهم جماعة واخذ سلاحهم  
 وفي سنة اثنتين وثلاثين واربعماية  
 عاد السلطان طغرليك بن ميكايل بن  
 سلجوق الي نيسابور وانهم السلطان  
 مسعود بن مجود بن سيكتكين  
 الي غزنة واستولي اصحاب طغرليك علي  
 خراسان وظهر من قتلهم للناس وسفكهم  
 الدما ما لا يحمد ولا يعد

*fugit Princeps Masudus f. Mahmudi f. Sebuçtakini Gaznam, ac potiti sunt milites  
 Togrulbeci univèrsa Chorasana, visique sunt tot homines occidere, ac tantum san-  
 guinis effundere, ut comprehendi, aut numerari non potuerint.*

*unde sequuti eum sunt milites Michaelis,  
 & familia ejus. substiteruntque in plani-  
 tie Chorasana. Postea vita excessit Rex  
 Mahmudus, pœnitentiâ ductus quod Tur-  
 cas, milites scilicet filij Salghuci, in regione  
 sua reliquisset: metuens ne locum suum oc-  
 cuparent. Mortuo autem Rege Mahmu-  
 do filio Sebuçtakini, regnum accepit filius  
 ejus Masudus Abusaidus filius Mahmudi,  
 qui ex suis exercitum misit contra milites  
 filij Salghuci. Hic exercitus eos oppugna-  
 vit, & fudit, quibusdam etiam captis.  
 Hinc & Michael f. Salghuci obiit, junxe-  
 runtque se Turca Salghucida filio ejus  
 Muhammedi Abutalibi cognominato To-  
 grulbeco, qui oppugnans exercitum Ma-  
 sudus f. Mahmudis, eundem fudit, quibus-  
 dam captis, & quibusdam caesis: persequu-  
 tusque eos est Tusum usque, quod oppidum  
 adortus, cepit. atque id primum fuit op-  
 pidum quod in potestatem Salghucidarum  
 venit. & in eo congregati Togrulbecus  
 ac milites ejus, id muniverunt. Deinde  
 exierunt inde Naisaburum, & eo quoque  
 sunt potiti. Rex autem Masudus fugit in  
 Masudus  
 Indiam, & in regionem ejus penetravit, fugit  
 inque ea diu substitit, deserta Chorasana:  
 quam Salghucida, gnæviter se in ea geren-  
 tes, subjugarunt, & opibus spoliarunt. Salghuei-  
 da subju-  
 gant Cho-  
 rasanam.  
 quod cum intellexisset Princeps Masudus,  
 reversus est, sed bello eum petierunt Sal-  
 ghucida, & in fugam verterunt. unde &  
 Caiymus Biamrilla monuit atque hortatus  
 est eos, ut regionem Muslimorum custodi-  
 rent. Hinc adortus iterum eos est Masu-  
 dus, sed illi & secundo eum in fugam tur-  
 pem verterunt. & stabilitum fuit eis im-  
 perium.*

*Anno 431 prodijt Princeps Masudus Cœpit 22  
 f. Mahmudi contra Togrulbecum f. Mi- Septemb.  
 chaëlis f. Salghuci, eumque in fugam ver- A.C. 1039  
 tit, & multos de militibus ejus cecidit,  
 & quosdam etiam cepit. cepitque arma  
 eorum.*

*Anno quadringentesimo trigesimo se- Cœpit 11  
 cundo reversus est Princeps Togrulbecus, Septemb.  
 f. Michaelis, f. Salghuci Naisaburum, & A.C. 1040*

Anno

Cœpit 31  
August.  
A. C. 1041  
Muazzud-  
daulas po-  
tetur Hale-  
bo.

Anno quadringentesimo trigesimo ter-  
tio potitus est Muazzuddaulas Marda-  
sides Halebo. Cum enim Nasrus Sjablud-  
daulas f. Salibi f. Mardasi ejecisset fra-  
trem suum Muazzuddaulam Halebo, &  
solus absque eo imperium obtinuisse; bel-  
lum ei intulit Dux copiarum Busekinus  
Dariræus, cum magna multitudine, præ-  
lioque commisso, ad flumen Asium, inter  
Hamatam, Cefartabum, & Sjaizarum  
anno quadringentesimo vigesimo nono, oc-  
cisus fuit Nasrus f. Salibi, cum Halebi im-  
perasset annos octo, & aliquot menses.  
Occiso autem Sjabluddaule, venit frater  
ejus Muazzuddaulas Halebum, idque  
possedit. sed cum deinde metueret, ne Da-  
riræus dux copiarum eo veniret, arci præ-  
fecit filium patris sui Muclidum filium  
Camili, f. Mardasi Kilabiden, abijtque  
ad Euphratem, & opem imploravit à Ia-  
manitis, aliisque Arabibus, contra Dari-  
ræum. sed antequam id fieret, venit Dux  
copiarum Dariræus Halebum, eoque est  
potitus, mense Ramadano, anno quadrin-  
gentesimo vigesimo nono. Fuerat autem  
hic Dariræus captivus Turca: veneratque  
cum mercatoribus in Syriam, emeratque  
eum Darirus Dailamus, (qui Darirus  
erat unus ex Principibus ac primatibus  
Syria) donoque eum dederat Regi Aeg-  
ypti, apud quem cum aliquamdiu fuisset,  
compertus fuit animosus, & promo-  
vit eum Rex. atque ita status ejus au-  
ctus fuit, donec constituit eum Ducem  
copiarum, & potitus fuit Halebo, sicuti  
ante narravimus. Cum autem hic annus  
ageretur, scilicet quadringentesimus tri-  
gesimus tertius, obiit iste Dariræus Dux  
copiarum, die vigesimo quinto Gjumada  
prioris. & tradiderunt Halebenses oppi-  
dum Bamalo Muazzuddaule fil. Salibi  
Mardasida, cui & stabilitum ibi fuit im-  
perium.

Mors Ma-  
fudi Regis  
Chorafanæ

Eodem anno occisus fuit Princeps Ma-  
fudus f. Mahmudi f. Sebuçakini, Regis  
Chorafana, India, & Mauranaharæ.  
qui fuit rex fortis, & strenuus, peritus  
bellandi, ac bene regens subditos suos,  
atque regiones: & successit ei frater ejus  
Imperator Muhammed fil. Mahmudi.

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة  
كان استيلا معز الدولة بن مرداش  
علي حلب وذلك ان شبل الدولة نصر  
بن صالح بن مرداش كان قد اخرج  
اخاه معز الدولة من حلب وانفرد بالامر  
دونه فاجاء اليه امير الجيوش بوسكين  
الدميريري في جمع عظيم فتقاتلوا علي  
نهر العاصي بين حماة وكفرطاب  
وشيزر وذلك في شهر سنة تسع  
وعشرين واربع مائة فقتل شبل الدولة  
بصر بن صالح فكانت مدة ملكه  
بحلب ثماني سنين وشهور \* فلما قتل  
شبل الدولة وصل اخوه معز الدولة حلب  
ملكها ثم خاف من الدميريري امير  
الجيوش ان يقصد حلب فولي اليه  
القلعة ابن عمه مغلد بن كامل بن مرداش  
الكلافي وسار معز الدولة اليه ناحية  
الفرات واستنجد ببني يمن وشبههم من  
العرب علي الدميريري فلم يتم له امر وصل  
امير الجيوش الدميريري الي حلب  
ملكها في رمضان سنة تسع وعشرين \*  
واربع مائة فكان هذا الدميريري  
مملوكا تركيا وصل مع التجار الي  
الشام فاشتره دميرير الديلمي وكان  
دميرير الديلمي اميرا من امرا الشام  
وجوهرهم فاهداه دميرير الي خليفته  
مصر فاقام عنده مدة ثم ظهر منه شهامة  
فقدمه الخليفة وترقى حاله الي ان  
جعله امير الجيوش وكان من استيلايه  
علي حلب ما وصفناه ولما كانت  
هذه السنة سنة ثلاث وثلاثون واربع مائة  
توفي الدميريري امير الجيوش لست  
يقين من جمادي الاولي فسلم اهل حلب  
البلد الي الامير معز الدولة حال بن  
صالح بن مرداش واستقر ملكه بها  
وفي هذه السنة قتل السلطان مسعود  
بن محمود بن سيكتكين ملك خراسان  
والهند وما وراء النهر وكان ملكا  
شجاعا حازما بصيرا بالحروب حسن  
السياسة في مدينته وبلاده فقام بالملك  
بعده اخوه السلطان محمد بن محمود



وكان ابن اخيه مودون بن  
سعيد بغزنه فلما بلغه ذلك واستبلا  
عه على الملك سار السبه فقاتله  
فظفر به وقتله وعاد الى غزنه واستقر  
ملكه بها ☞

قال وفي سنة خمس وثلاثين واربعمائة  
قدم من الغز الف وستماية وخمسون  
فارسا ومعهم اربعة امرا يقال لهم  
كوكباس وابو علي بن الدهقان  
والحاج اسراييل وابو منصور فافسدوا في  
البلاد بامد ومباقرين وفي يومئذ بيد  
الامير ابي نصر بن مروان وقصدوا  
نصيبين وقطعوا شجارها وحاصروها  
مدة ثم توجهوا الى الموصل فخاف  
صاحبها قرواس بن المقتدر منهم  
فصالحهم على مال جملة اليهم فخر ببلاد  
ديار بكر وبلاد جزيرة كلها ثم قصدوا  
الموصل وهجموها وقتلوا بها وسبوا وافسدوا  
واستولوا عليها واقاموا بها مدة ثم  
اجتمع العرب عليهم من كل جانب  
وحصروهم وقتلوهم حتى اخرجهم من  
الموصل ثم جرت بينهم وبين العرب حروب  
كان الظفر فيها للعرب وقتل من الغز  
جماعة وانهموا الي مباقرين فنهبوا  
ما امكهم ثم دخلوا اذربيجان ☞  
قال وفي هذه السنة كانت وفاة الملك  
جلال الدولة ابي طاهر فبرور بن الملك  
بها الدولة بن عضد الدولة بن ركن  
الدولة بن بويه صاحب بغداد فكانت  
مدة ملكه ست عشرة سنة واحد عشر  
شهرًا وولد ولده الملك العزيز ابي منصور  
الملك بعده وخطب له على المنابر ☞  
وفي سنة اربعين واربعمائة كانت  
وفاة الملك ابي كالتجار بن سلطان  
الدولة بن بويه فكانت مدة ملكه  
علي العراف الاعلى اربع سنين وشهرين  
ولما توفي قام بالملك بعده الملك الرحيم  
ابو نصر ولده وقصد دار الخلافة فتغلب  
علي بغداد وخلع عليه الخليفة القائم  
بامر الله وتوجه وطوقه وسورة وهو  
اخر ملوك بني بويه ☞

*Erat autem nepos ejus ex fratre, Maududus f. Saïdi, Gazna: qui cum id intellexisset, & patrum suum regnum occupasset; abijt bellum ei illatum, eumque vicit, & occidit. hinc redijt Gaznam: ubi & regnum ei fuit stabilitum.*

*Anno 435 venerunt de Gazis mille sexcenti & quinquaginta equites, cum quatuor Ducibus, qui vocabantur Cucias, Abualis f. Dabcani, Haghbus Israël, & Abumansor; irrueruntque in regionem, in ditione Amida & Majafarikini: quod eo tempore possidebat Princeps Abunafrus f. Merwanis. Hinc contenderunt Nasibinum, ejusque arbores succiderunt, & aliquamdiu id obsederunt. Deinde abierunt Mausilum, cujus Dominus Carwasus f. Muçtadiri sibi metuens, allatâ pecuniâ pacem ab ijs redemit. at destructis reliquis urbibus Diarbectra, & Mesopotamia, redierunt Mausilum, idque adorti sunt, & cade, captivitate, atque direptione grassantes, subjugarunt. Cumque ibidem aliquamdiu substitissent, convenerunt undique contra eos Arabes, eosque obsederunt, & oppugnarunt, donec eos urbe ejecerunt. Deinde aliquot certarunt pralijs, quibus vicerunt Arabes, & multi Gazi interfecti sunt: fugeruntque reliqui Majafarikinum, & raptis ijs quæ poterant, ingressi sunt Aderbigjanam.*

Cœpit 10  
August.  
A. C. 1043  
Gazi ir-  
rumpunt  
in Persi-  
dem.

pelluntur  
ab Arabi-  
bus.

*Eodem anno vita excessit Rex Firus Abubaberus Ghelaluddaula f. Regis Bahaiuddaula, f. Adaduddaula, f. Rucnuddaula f. Boja, Dominus Bagdadi. cum regnasset annos tredecim & menses undecim: & successit ei in imperio filius ejus Abumansor Melecaçizus, cujus nomine & in suggestis oratum fuit.*

Ghelalud-  
daulz Re-  
gis Bagda-  
di obitus.

*Anno quadringentesimo quadragesimo obiit Rex Abucalangharus f. Sultanuddaula Boijtes, qui in Iraca superiori imperaverat annos quatuor, & menses duos. Ei autem vita defuncto successit in regno filius Abunafrus Melecrabimus, qui contendit in arcem imperialem, ac potitus est Bagdado. & inauguravit eum Chalifa Caymus Biamrilla, & coronâ, torque, atque armillis ornavit. Atque hic ultimus fuit Regum Bojitarum.*

Cœpit 16  
Iulij.  
A. C. 1048  
Abucalan-  
ghari obi-  
tus.

successor  
Abunafrus,  
ultimus  
Bojitarum.

Anno

Cœpit 26  
Maij.  
A. C. 1050  
Maududi  
Regis In-  
dię obitus.

Carwafi  
Domini  
Aegypti  
obitus

Cœpit 1  
Aprilis.  
A. C. 1055

Salghuci-  
da Bagd-  
adum veni-  
unt.

Bafaserzi  
imperium  
& historia.

Togrulbe-  
cus venit  
Bagdadum

Finis Boij-  
tarum.

Cœpit 21  
Martij.  
A. C. 2956

Anno 442 obiit Princeps Maududus f. Masudi, f. Mahmudi f. Sebućakini, Rex India, successitque ei patruus ejus Abdurraşidus f. Mahmudi.

Eodem anno obiit & Princeps Carwasus Mutamiduddaulas f. Mućtadiri Dominus Mausli, qui Princeps fuit strenuus, & magna potentia.

Anno 447 cœperunt Salghucida imperare Bagdadi. id quod hoc modo contigit. Turca quidam nomine Ruslanus Abulharithus Mutaffirus, dictus & Bafaseraus, potens factus erat in Iraca, & prospero rerum successu usus, potitus erat regione: celebrisque factus, terrori & timori erat Principibus Arabum & Barbarorum. jamque nomine ejus orabatur in suggestis Iracę, nec quidquam restabat Melecrahimo Boijta præter nudum titulum. Chalifa autem Caiymus Biamrilla, cum intellexisset Bafaseräum cogitare de occupanda arce imperiali, scripsit ad Togrulbecum f. Michaëlis Salghuciden, qui in tractu Raja erat, opem ab eo petens, eumque hortans, ut in Iracam veniret. erat autem eo tempore Bafaseraus Wasiti: & deseruerunt eum quidam ejus milites, qui reversi Bagdadum, domum ejus diripuerunt, atque incenderunt. Venit autem Princeps Togrulbecus Bagdadum mense Ramadano. erat q̄ Bafaseraus ad Euphratem, prope Rahabam: & scripsit ad Mustansirum Billam Dominum Aegypti, atque ejus nomine oravit Rahabę. is autem jovit eum pecuniã. Togrulbecus, ut Bagdadum, venit prehedit Melecrahimum: & cessavit oratio ejus, in fine Ramadani. atque ita desijt imperium Boijtarum, quod duraverat annos centum & viginti septem. Laus sit ei cujus imperium non transit. Veniens autem Princeps Togrulbecus Bagdadum adduxit octodecim elephantes, & domicilium fixit in arce imperiali, fuitque ei Bagdadi stabilitum imperium.

Anno 448 duxit Chalifa Caiymus Biamrilla Cadigham sororem Principis Togrulbeci, dotem ei dans centum aureorum millia.

قال وفي سنة اثنى عشر واربعمين واربعم مائة توفي السلطان مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب الهند ملك بعده عمه عبد الرشيد بن محمود

وفيهما توفي الامير معتد الدولة قرواس بن المقتدر صاحب الموصل وكان اميرا شجاعا عظيم القدر  
قال وفي سنة سبع واربعمين واربعمائة كان ابتدا السلاطين السلجوقية ببغداد وكان من حديث ذلك ان الماطر ابا الحارث مرسلان التركي المعروف بالبساسري كان قد عظم قدره بالعراق واستعمل واستولى على البلد فظاهر اسمه وعظمت هيئته وخافته على امرا العرب والعجم وخطب له على منابر العراق ولم يبق للملك الرحيم بن بويه الا مجرد الاسم \* ثم بلغ الخليفة القائم بامر الله ان البساسري قصد دار الخلافة للقبض عليه فكاتب الخليفة السلطان طغرليک بن ميکاييل بن السلجوق وهو بنو احي الرمي يستصرخه ويحضه على المسير الى العراق وكان البساسري يومئذ بواسط ففارق جماعته من اصحابه وعادوا الى بغداد فنهبوا دار البساسري واحرقوها وقدم السلطان طغرليک ببغداد في رمضان والبساسري على الفرات الى الرحبة وكاتب المستنصر بالله صاحب مصر وخطب له بالرحبة فامده المستنصر بالاموال \* ولما وصل السلطان طغرليک الي بغداد قبض على الملك الرحيم وقطعت خطبته في سلخ رمضان وانقرض ملك بني بويه وكانت مدة ملكهم مائة سبع وعشرين سنة فسبحان من لا يزل ملكه \* ولما قدم السلطان طغرليک ببغداد قدم معه ثمانية عشر قبلا ونزل بدار المملوك واستقرت له ببغداد السلطنة

وفي سنة ثمان واربعمين واربعمائة تروح الخليفة القائم بامر الله خذجة اخت السلطان طغرليک على صداق مائة الف دينار

Eodena



وفيهما سار السلطان طغرليك من بغداد طالبا بلاد الموصل ومعه المناجنيق والعرادات وكانت مدة مقامة ببغداد ثلاثة عشر شهرا وثلاثة عشر يوما ومضي الي تكريت وحاصرها ووقعت فتدن بالكوفة واسط وعين القمر وخطب بها للمستنصر بالله صاحب مصر

قال وفي سنة تسع واربعين واربع مائة خلع الخليفة القائم بامر الله علي السلطان طغرليك الخلع السلطانية وتوجه وطوقه وسوره وكتب له عهدا علي ما ورا بابه واستقرت سلطنته ومما كتبه ولم يبق له بالعراقين وخراسان منازع

وفي هذه السنة سلم الامير معز الدولة بن صالح بن مرداش حلب الي نايب المستنصر بالله صاحب مصر طوعا لعجزه عن حفظها وذلك في ذي القعدة فكتب صاحب مصر الي مكين الدولة الحسن بن علي بن يلهم بن دينار العقيلي يامره بالمسير الي حلب وانه قد قلده حربها فدخل حلب متوليا عليها لاربع بقين من ذي القعدة

وفي سنة خمسين واربع مائة كان خلع القائم بامر الله واقمت دعوة المستنصر بالله ببغداد وسببه ان السلطان طغرليك كان قد صعدي الموصل ثم توجه الي نصيبين لفتح البلاد وقهدها ومعه اخوه ابراهيم فراسل البساسري ابراهيم اخا السلطان طغرليك في العصبان علي اخيه واطمعه في الملك ووعده بمعاذته فحالف ابراهيم الجند ومضي بجيش كتيف الي الري عاصيا لاخيه ولما كان يوم الاحد ثامن ذي القعدة دخل البساسري بغداد ومعه الرايات المصرية مكتوب عليها الامام المستنصر بالله امير المؤمنين ابو قهم معبد فلما كان يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة خطب للمستنصر بالله صاحب مصر \* بالجامع وعقد الجسر وعبرت عساكر البساسري

*Eodem anno abijt Princeps Togrulbecus Bagdado petitem regionem Mansila, avehens secum balistas & catapultas, cum Bagdadi substitisset tredecim menses & tredecim dies. contendit autem Tecritam eamque obsedit. at seditione orta Cusa, Wasiti, & Ainuttamri, oratum fuit ibidem nomine Mustansiri Billa Domini Aegypti.*

*Anno 449 induit Chalifa Caijmus Biamrilla Principem Togrulbecum veste imperiali, eumque coronavit, & torque atque armillis ornavit: scripsitque ei auctoritatem consignatam de praefectura aula sua. & stabilitum ei fuit imperium, atque regnum: nec in utraque Iraca & Chorasana quisquam fuit reliquus qui litem ei moveret.*

*Eodem anno tradidit Princeps Bamalus Muaazzuddaulas f. Salih Mardasides Halebum Vicario Mustansiri Billa Domini Aegypti, sponte, quod id non posset custodire; idque mense Dulkiada. & scripsit Dominus Aegypti ad Hasenum Macinuddaulam f. Alis, f. Ialhami, f. Dinari, Ocailiten, mandans ei ut contenderet Halebum, se bello ejus ipsum praeficere. unde is id ingressus est, ut Praefectus, die vigesimo septimo Dulkiada.*

*Anno 450, depositus fuit Chalifatu Caijmus Biamrilla, & electus Mustansirus Billa, Bagdadi. cujus rei causa haec fuit. Princeps Togrulbecus ascenderat Mausilum, & inde contenderat Nasibinum, ad capiendas & subjugandas urbes: eratque cum eo frater ejus Ibrahimus. Sed misit Basaserus ad Ibrahimum fratrem Principis Togrulbeci, sollicitans eum ad rebellionem, contra fratrem ejus, & spem ei dans imperij, ac promittens fore, ut ei succurreret. unde Ibrahimus, juramento à militibus sumpto, cum magno exercitu abijt Rajam, rebellans contra fratrem suum. Facto autem die Solis, octavo Dulkiada, ingressus est Basaserus Bagdadum, cum labaris Aegyptiacis, quibus inscriptum erat Princeps Maabadus Abutamimus, Mustansirus Billa, Imperator fidelium.*

*Facto autem die Veneris, decimo tertio Mustansirus Billa Dominus Aegypti renuntiatur Chalifa.*

Coepit 10 Martij. A. C. 1057 Togrulbecus inauguratur.

Halebum traditur Regi Aegypti.

Coepit 27 Februar. A. C. 1058 Caijmus Biamrilla Chalifatu deponitur.

Ibrahimus frater Togrulbeci rebellat.

Mustansirus Billa Dominus Aegypti renuntiatur Chalifa.

transje-

transferunt in latus urbis Orientale. & oratum quoque fuit nomine Mustansiri Billa in templo cathedrali Rufasæ. Deinde prehendit Basaseræus Principem Principum filium Muslimæ Consiliarium Caijmi Biamrilla, eumque compedivit, & vehi iussit camelo, indutum cucullo laneo, & pileo rubro longo & angusto, ac circumjectis collo ejus pellibus. atque ita eum circumduxit per vicus Bagdadi, ponè eum existente quodam qui verberibus eum impelleret. Deinde insutus fuit cuti tauri, eo ipso die detractæ, cornibus capiti ejus impositis, & suspensus ad uncus, & indesinenter cæsus, donec expiravit, Caijmus autem Billa abiit in exercitum, & fixum ei fuit tentorium in latere urbis orientali. ac diripuit plebs aulam imperialem, indeque sumpsit res innumeras. Facto autem die Veneris, quarto Dulbiggia, non fuit oratum in templo Chalifæ, nec quisquam in eo precatus est. at in reliquis templis oratum fuit nomine Mustansiri Domini Aegypti. cessavitque eo die imperium Abbasidarum. Deinde translatus fuit Caijmus Biamrilla Haditham, atque ibi in vinculis detentus, & traditus Præfecto ejus Mahraso, apud quem & mansit.

Cœpit 17  
Februarij  
A. C. 1059.

Anno quadringentesimo quinquagesimo primo, Basaseræus, iussu adesse supremo Iudice Abuabdalla f. Damianis, & Oratoribus ac nobilioribus Hasjemidis, ab iisdem impetravit consensum, & iuramentum fidelitatis Mustansiro Billa Domino Aegypti.

Togrulbecus fratrem suum vincit.

Eodem anno bello petijt Princeps Togrulbecus fratrem suum Ibrahimum, eumque vicit, & strangulavit nervo arcus, ac multos Turcomanos, qui auxilium ei tulerant interfecit. Ad statum autem suum reversus, & potens factus contendit Bagdadum, ut tolleret quoque Basaseræum, & Chalifam domum suam reduceret. misitque ad Chalifam res pulchras, & vestes, & quinque aureorum millia. Vxori autem ejusdem misit sexaginta quinque vestes muliebres. Cum autem appropinquaret Bagdado, obviam ei venit Mahrasus Dominus Hadithæ, habens apud se Chalifam Caijnum Biamrillam. idque die 11 Dulkiadae.

الى الجانب الشرقي وخطب للمستنصر بالله بجامع الرصافة \* ثم قبض البساسري علي مرييس الروسا بن المسلمة وزير القايم بامر الله فقبده واركيه جملا والبسه جبته صوف وطرطور احمر وجعل في رقبته جلودا وطوف به في محال بغداد ووراه من يصغعه وخطب عليه جلد ثور قد سلخ في ذلك اليوم وجعلت قرونة علي راسه وعلق بكلايبين ولم يزل يضرب حتي مات \* ومضي القايم بامر الله الي العسكر فضرب له خيمة بالجانب الشرقي ونهبت العامة دار الخلافة واخذوا منها ما لا يحصي \* فلما كان يوم الجمعة لاربعة ماضين من ذي الحجة لم يخطب بجامع الخليفة ولا صلي فيه احد وخطب بساير الجوامع للمستنصر صاحب مصر وانقطعت دعوة بني العباس في هذا اليوم ثم حمل القايم بامر الله الي حديثه فاجعل بها وسلم الي صاحبها مهراس فكان عنده

وفي سنة احدى وخمسين واربعماية احضر البساسري قاضي القضاة ابا عبد الله بن الدامعاني والخطباء والاشراف من بني هاشم واخذ عليهم العهود والبيعة للمستنصر بالله صاحب مصر

وفي هذه السنة ظهر السلطان طغرليك علي اخيه ابرهيم فظفر به وخنقه بوتر قوس وقتل وفاء من التركمانية من كان عاضدا لابرهيم وعاد السلطان الي حالته وقوي وتوجه طالبا بغداد لقتل البساسري واعادة الخليفة الي داره وسبر السلطان طغرليك الي الخليفة الطافا واتوايا وخمسة الف دينار وسير لزوجته خمسة وستين ثوبا نسائية ولما قرب السلطان من بغداد سار للقائه مهراس صاحب حديثه ومعه الخليفة القايم بامر الله وذلك لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة \*

M m

Vtque



ولما قدم السلطان طغرلبيك بغداد  
 نهى عسكرة بغداد لاسيما الكرخ  
 وجهر من الالات والسرادات والمراكب  
 شيا كثيرا وسبر جمعها الى الخليفة  
 القائم بامر الله مع وزيره عبد الملك  
 الكندي والاستاد ابي بكر  
 فضربت السراوق للخليفة فنزلها واقام  
 بها يومين ثم دخل بغداد والسلطان  
 طغرلبيك يشي بين يديه وهو قابض  
 على لجام بغلته حتى دخلا باب الحجرة  
 وذلك لخمس بقين من ذي القعدة  
 فكانت مدة غيبته عن بغداد سنة  
 واحدة

واما البساسري فانه قبل وصول  
 السلطان الي بغداد سار الى واسط  
 وجمع الغلات وتركها في السفن  
 ولما بلغه دخول الخليفة والسلطان  
 بغداد صعد الى النعانية فسبر اليه  
 السلطان حمار مكين في جماعة من  
 الامراء وطاقية من العسكر وهو يتبعهم  
 بجبوشة في سلخ ذي القعدة وتقاتلوا  
 فقتل البساسري وحمل راسه الي السلطان  
 في ذي القعدة وعمل على قناة وظيف  
 به بغداد ومضى السلطان الى واسط  
 وترتب امورها وسكن الناس ثم عاد  
 الي بغداد في سنة اثنيتين وخمسين  
 واربعماية وخلع عليه الخليفة واكرمه \*  
 ثم سار الى الجبل واستخلف ببغداد  
 وزيره عبد الملك الكندي ثم عاد  
 الي بغداد في هذه السنة بعد اصلاحه  
 الجبل وترتب احواله

وفي هذه السنة استولى على الدولة  
 محمود بن نصر بن صالح بن مرداش  
 علي حلب فان معز الدولة صاحبها  
 كان سلهما لصاحب مصر طوعا  
 وولاهها صاحب مصر مكين الدولة  
 الحسن بن علي بن يلمر فلما كانت  
 هذه السنة عصي الاحداث من اهل  
 حلب وسلوا البلد الي عز الدولة محمود  
 في مستهل جمادى الاخرة وبقي مكين  
 الدولة بالقلعة في محاصرة عز الدولة

*Vique Princeps Togrulbecus Bagdadum ve-*  
*nit, diripuerunt milites ejus urbem, &*  
*imprimis eam ejus partem quæ Kercha no-*  
*minabatur. & collectis multis instrumen-*  
*tis, tabernaculis & curribus, ea omnia mi-*  
*sit ad Chalifam, cum Consiliario suo Ab-*  
*dulmelico Kenderæo, & Astado Abubecro.*  
*Collocato autem tentorio Chalifæ, is id in-*  
*gressus est, inque eo mansit biduum. deinde*  
*ingressus est Bagdadum, comitante ipsum*  
*Principe Togrulbeco, qui & frenum Mula*  
*ejus tenebat, donec portam lapideam in-*  
*grederetur, idque die vigesimo quinto Dul-*  
*kiade. Abfuerat autem Bagdado annum*  
*integrum.*

*Basaseræus autem, antequam veniret*  
*Princeps Bagdadum, abierat Wasitum:*  
*collectasque fruges navibus imposuerat: sed*  
*cum intellexisset Chalifam una cum Prin-*  
*cipe Bagdadum ingressum esse, contendit*  
*Numaniam. Et misit Princeps contra eum*  
*Himarmacinum cum aliquot Ducibus, &*  
*parte quadam exercitus. sed is cum suis co-*  
*pys eos persequutus est, sub finem mensis*  
*Dulkiada. commissoque pralio occisus fuit*  
*Basaseræus, & portatum caput ejus, eodem*  
*mensis Dulkiada, ad Principem, imposi-*  
*tumque hastæ circumportatum per urbem*  
*Bagdadum. Hinc abiit Princeps Wasitum,*  
*resque ejus composuit, & cives compefecit.*  
*Cumque deinde, anno quadragesimo*  
*quingagesimo secundo reversus Bagda-*  
*dum esset, munera ei dedit, & honorem*  
*exhibuit Chalifa. Deinde abiit in Gjeba-*  
*lam, relicto Bagdadi Vicario, Consiliario*  
*nempe suo Abdulmelico Kenderæo. & eo-*  
*dem anno, restitutis & compositis rebus*  
*Gjebale, Bagdadum est reversus.*

*Eodem anno potitus est Mahmudus Az-*  
*Zuddaulas f. Nasri, f. Salihî, f. Mardasî*  
*Halebo. Muaz Zuddaulas enim Dominus*  
*ejus id sua sponte tradiderat Domino Aeg-*  
*gypti, qui prefecerat ei Hasenum Maci-*  
*nuddaulam f. Alis, f. Ialhami. Cum au-*  
*tem hic ageretur annus, rebellantes junio-*  
*res quidam cives oppidum tradiderunt*  
*Mahmudo Az Zuddaulæ, initio mensis Gju-*  
*madæ posterioris. mansit autem Macinud-*  
*daulas in arce, obsessus ab Az Zuddaula,*

donec

Bagdadum  
 redit,

eoque re-  
 ducit Cha-  
 lifam.

vincit Ba-  
 saseræum.

Corpit 6  
 Febr.  
 A.C. 1070

Mahmu-  
 dus potit-  
 tur Hale-  
 bo.

donec ex Aegypto auxilium ei latum venit Hasenus Abualis Nasiruddaulas Hamadanides. Et tunc, concursu facto prope Kinnasrinam, captus fuit Nasiruddaulas Hamadanides, at deinde dimissus à Mahmudō Azzuddaula, abiit in Aegyptum ad Mustansirum Billam. Hoc intellecto Macinuddaulas misit ad Aribum Abudawabam Asaduddaulam f. Salibi, eique urbem tradidit, qui eam ingressus est decimo Sjaabani, & reliquum istum diem tenuit. sed cum deinde videret se defendere eam non posse, rursus eā exiit, & adveniens duodecimo Sjaabani Mahmudus Azzuddaulas urbem recuperavit, & tenuit donec annus iste expiravit.

Cœpit 26  
Ianuarij  
A.C. 1061  
Muazzud-  
daulas ex-  
pellit  
Mahmu-  
dum Ha-  
lebo.

Anno 453 potitus est Muazzuddaulas Mardasides oppido Halebo. Hic enim, cum in Aegypto esset, & intellexisset ea quæ contigerant, bellumque istud: abiit in Syriam, & congregatis propinquis suis, ac consanguineis, obsedit Halebum, quod tum tenebat Mahmudus f. Nasri, idque cepit, mense Rabio priori, quo eodem & arx ei fuit tradita.

Difcordia  
nata inter  
Chalifam  
& Togrul-  
becum.

Eodem anno petijt Princeps Togrulbecus à Chalifa Caijmo Biamrilla, ut filiam suam ei uxorem daret, id quod Chalifa recusavit: factæque ea de re fuerunt legationes, & comminationes, quas longum foret enarrare.

Cœpit 15  
Ianuarij  
A.C. 1062

Anno quadringentesimo quinquagesimo quarto iussit Princeps Togrulbecus, ut Præfecti Chalifæ administratione pecuniæ publicæ abstinerent. quod cum malè admodum haberet Chalifam, suasum ei fuit, ut Principi morem gereret dando ei filiam suam uxorem, id quod, invitus tamen, fecit: unde Princeps mandatum suum, quo voluerat Chalifæ opes suas eripi, revocavit: & vehementer gavisus, misit ad Chalifam magna munera.

Chalifa  
suam filiam  
despondet  
Togrulbe-  
co.

Obitus  
Muazzud-  
daulæ.

Eodem anno vita excessit Muazzud-  
daulas Mardasides, Dominus Halebi. id-  
que vigesimo quinto Dulkiadæ: & sepultus  
fuit in arce loco, Ibrahimî, ac factus ei fuit  
tumulus, qui mansit usque adtempora Re-  
gis Ridwani, qui iussit eum dirui, & solo  
adequari, ac vestigia ejus sustulit. Ad  
naturam ejus quod attinet. Rex fuit

ali an حضر من مصر ناصر الدولة أبو  
علي الحسن بن حمدان نجدة ماكين  
الدولة فالتقوا علي قنشرين فاسر ناصر  
الدولة بن حمدان ثم اطلقه عز الدولة  
محمود رضي الي مصر الي المستنصر بالله\*  
فلما بلغ مكين الدولة الخبر بعث  
الي اسد الدولة ابي دوايه عطية بن  
صالح فسلم اليه مدينة حلب فدخلها  
في عاشر شعبان فاقام بقية ذلك اليوم  
ثم خرج عنها لما عجز عن حفظها فوصل  
عز الدولة محمود في ثاني عشر شعبان  
فسلم مدينة حلب واقام بها الي ان  
خرجت هذه السنة ☞

وفي سنة ثلاث وخمسين واربعمائة  
استولي معز الدولة بن مرداش على  
مدينة حلب وكان بمصر فلما بلغه  
ما وقع من الجواث والقتال خرج الي  
الشام وجمع اقاربه وعشيرته ونازل حلب  
وبها محمود بن نصر وفتحها معز الدولة في  
شهر ربيع الاول ثم تسلم القلعة بذلك ☞  
قال وفي هذه السنة طلب السلطان  
طغرليك من الخليفة القائم بامر الله  
ان يزوجه ابنته فامتنع الخليفة من  
ذلك وجرت مراسلات وتهديدات  
يطول شرحها ☞

وفي سنة اربع وخمسين واربعمائة رسم  
السلطان طغرليك بان يقصر يدي  
وكلاء الخليفة عن مال الديوان  
وطولع الخليفة بذلك واشهر عليه بان  
يجيب السلطان الي مرواج ابنته فاجابه  
الخليفة وهو كاره فافرح السلطان  
عما كان امره بالقبض عليه من صباح  
الخليفة وسر السلطان بذلك سرورا  
عظيما وسهر الي الخليفة هدايا عظيمة ☞  
وفي هذه السنة كان وفاة معز  
الدولة بن مرداش صاحب حلب  
وذلك لست بقين من ذي القعدة  
ودفن بالقلعة في مقام ابراهيم وعمل له  
ضريح ودام الضريح الي زمن الملك  
رضوان فامر بقلع الضريح وبلط عليه  
وادهب اثره\* سميرته كان ملكا



جوادا عادلا حلما وهما روي عن  
حلمه ان طشنداره كان يصب على  
يديه من الابريق ففعل الطشندار عن  
نفسه ضرب ببليبة الابريق ثنية معز  
الدولة فسقطت في الطشت ولم ينله من  
مكرهه وقال هذا بقضا الله وقدره \*  
ولما توفي معز الدولة استقر الامر بحلب  
لاخيه اسد الدولة ابي دوايه عطية بن  
صالح بن مردائش فوصل اليه عن الدولة  
محمود بن نصر اخيه فحاصره وحاربته مدة  
وطال الامر فخرج اسد الدولة وسلم  
حلب لعز الدولة فلما كان

وفي سنة خمس وخمسين واربعمائة  
توفيت ابنة الخليفة اليه السلطان  
طغرليك ففرح بها وخلع على عثمان  
الخليفة جميعهم واحسن لهم

قال وفي هذه السنة كانت وفاة  
السلطان طغرليك يوم الجمعة لثمان بقين  
من شهر رمضان بالري فكانت مدة  
ملكه خمس وعشرين سنة وعمره سبعين  
سنة فكانت مدة اتصاله بابنة الخليفة  
ستة اشهر وايمانا وكان ملكا حلما  
سايسا مدبرا عظمت هيبته في القلوب  
واطاعته الملوك وكاتبوه \* ولما توفي  
قام بالملك بعده ابن اخيه السلطان  
عز الدولة اليه ارسلان محمد بن دوان  
بن مبيكاييل بن سنجوق واستقر ملكه  
وخطب له ببغداد وبعث اليه الخليفة  
العهد بالسلطنة واستوزر نظام الملك  
الطواسي

قال وفي سنة سبعين واربعمائة  
عصي ناصر الدولة ابي علي الحسن بن  
حمدان وجماعة من القواد بمصر وحصروا  
المستنصر بالله في قصره واخذوا جميع  
الاموال وركبوا اليه الومير قطابوه  
بالاموال ولم يكن معه ما يعظمهم  
فكتب اليه المستنصر برقعة اخبره فيها  
بمصورهم وما طلبوه فخرج جواب  
الرقعة بخط المستنصر شعرا  
اصبحت لا ارجو ولا اتقي شهر  
الهي وله الفضل \*

*liberalis, justus, & clemens. ac clementia  
quidem ejus exemplum hoc narratur. Qui  
ab aqua ei erat, cum è gutturnio aquam su-  
per manus ejus effunderet, imprudenter  
epistomium gutturnij, in unum dentium  
primorum ejus impegit, ita ut is in pollu-  
brum decideret. neque tamen propterea  
punitus fuit. sed ajebat Muzuddaulas  
Providentiâ Dei, ac potentiâ id contigit.  
Mortuo autem Muzuddaula cessit impe-  
rium Halebi fratri ejus Atiho Abudawaba  
Asaduddaula f. Salih, f. Mardasi. Sed  
prodijt contra eum Mahmudus Azuddau-  
las f. Nasri fratris ejus, eumque obsedit,  
& bello aliquamdiu vexavit. tandem  
exijt Asaduddaulas, & traditum fuit Ha-  
lebum Azuddaula, qui id possedit.*

Successor  
Asadud-  
daulas.

qui expel-  
litur ab  
Azzud-  
daula.

Anno 455 ducta fuit filia Chalife ad  
Principem Togrulbecum, qui eâ gavisus,  
ministris Chalife omnibus munera dedit,  
& bene eos tractavit.

Cœpit 4  
Ian. 1063.

Eodem anno obiit Princeps Togrulbecus,  
die Veneris, 23 Ramadani, Rajja, cum an-  
nos regnasset 25, & natus esset 70: post sex  
menses, & aliquot dies, quam junctus fuisset  
cum filia Chalife. Rex fuit clemens, pru-  
dens, & peritus regiminis, cujus terror cor-  
da mortalium invaserat, ita ut obedirent  
ei Reges, atque ad ipsum scriberent. Ei au-  
tem vita defuncto successit in regno filius  
fratris ejus Princeps Muhammed Olbarsa-  
lanus Adaduddaulas f. Davidis f. Michæ-  
lis f. Salghuci, cui & stabilitum fuit re-  
gnum, ita ut nomine ejus oraretur Bagda-  
di. Misitque Chalifa ad eum auctoritatem  
consignatam imperij. is autè Consiliarium  
assumpsit Natamulmelicum Tawasaum.

Togrulbe-  
ci obitus

successor  
Olbarsa-  
lanus.

Anno 460 rebellavit in Aegypto Hase-  
nus Abualis Nasruddaulas Hamadanides,  
una cum quibusdam ducibus: obsiderunt-  
que Mustansirum Billam in arce sua, ac  
sumpserunt omnes opes, & equitarunt ad  
Consiliarium, petieruntque ab eo pecunias,  
is autem cum nihil haberet quod ijs daret,  
scripsit ad Mustansirum epistolium, quo si-  
gnificavit ei obsidionem eorum, & quid ab  
ipso peterent. Responsum autem Mustansiri  
ad epistolium claudebatur carmine

Cœpit 11  
Nov. A.  
C. 1067.

Manicavi, non sperabo, neq; timebo  
nisi Deū meum, cui est excellentia.

Avus

Avus meus in filio meo est : & ego  
in patre meo : Dictum autem  
meum unio est & justitia.

Opes, opes Dei sunt: & servi, servi Dei  
sunt: dare autem melius est quam recu-  
sare, & cognoscent improbi ad quam  
mutationem sint redigendi. *Deinde mi-  
lites à cæptis suis destiterunt, & ad obedi-  
entiam reversi sunt: deditque ijs Mustansir-  
rus munera, & cessavit seditio.*

Cœpit 20  
Octobris  
A. C. 1069

Anno 462 oravit Imperator Mahmudus  
Az-Zuddaulas f. Nasri Dominus Halebi no-  
mine Imperatoris fidelium Caymi Biamril-  
la, & Principis Adaduddaula: cum antea  
agnovisset dominium Mustansiri Domini  
Aegypti. Cujus rei causa fuit, quod Prin-  
ceps Adaduddaulas contenderat Halebum,  
idque obsederat aliquamdiu. donec egres-  
sus Az-Zuddaulas ei supplicavit, quem ipse  
muneribus donavit, bene tractavit, &  
Halebo restituit; atque ita ab eo recessit.

Romano-  
rum expe-  
ditio in  
Syriam.

Eodem anno profectus est Imperator Ro-  
manorum Constantinopoli in Syriam, &  
obsedit Mambaghum sedecim dies: cumque  
prodissent contra eum Muslimi, in fugam  
eos vertit, cæsis quibusdam, & quibusdam  
captis. Sed cum deinde commeatus Roma-  
nos deficeret, major eorum pars fame periit,  
reliqui autem Constantinopolin reversi sunt.

Cœpit 9  
Octobris  
A. C. 1070

Romani  
cæsi à Sara-  
cenis.

Anno 463 contendit Princeps Olbarsa-  
lanus Achlatum, in occursum Romanis,  
cum 40000 equitibus. contra quos prodijt  
Patricius quidam cum magnis copijs, sed  
quas vicit Princeps, capto & duce earum,  
quem & naso mutilavit. Deinde ipse pro-  
dijt Romanorum Imperator, cui Princeps  
occurrit in loco dicto Zahra, idque die 20  
Dulkiada, & oppugnavit Romanos die Ve-  
neris, eosque in fugam vertit, & occide-  
runt Muslimi eo die atque nocte Romanos  
innumeros. quin & ipse Romanorum Im-  
perator captus fuit. sed dimisit eum Prin-  
ceps, eâ lege, ut afferret 1500 aureorum  
millia, & in singulos annos tributum sol-  
veret 360 millium aureorum: ac dimitte-  
ret omnes Muslimos, qui capti in Imperio  
Romano essent. Cum autem Romanorum  
Imperator in regionem suam reversus es-  
set, comperit Romanos alium Imperatorem  
constituisse, unde is vitâ se simulans capeffere velle monasticam, vestes induit laneas:

Imperator  
Roman.  
captus.

جدى ببني وانا في اي وقولي  
التوحيد والعدل \*

المال مال الله والعبيد عبيد الله  
والاعطا خير من المنع وسبعلم الذين  
ظلموا اي منقلب ينقلبون \* ثم انصرف  
الجند عما كانوا بصدرة وعادوا الى  
الطاعة فخلع عليهم المستنصر بالله  
فسكنت الفتنة ☩

قال وفي سنة اثنتين وستين واربعمائة  
خطب الامير عن الدولة محمود بن نصر  
صاحب حلب لامير المؤمنين القائم  
باسم الله والسلطان عضد الدولة وكان  
قبل ذلك يدعى للمستنصر صاحب مصر  
وسبب ذلك ان السلطان قصد حلب  
فحاصرها مدة فخرج اليه عن الدولة  
محمود مستعظفا فخلع عليه واحسن اليه  
ورده الي حلب ورجل عنه ☩

وفيها سار ملك الروم من  
القسطنطينية الي الشام فنزل علي منبج  
ستة عشر يوما وسار اليه المسلمون  
فهزمهم وقتل وسبي ثم انقطعت الميرة عن  
الروم فهلك اكثرهم جوعا وعاد من بقي  
مهم الي القسطنطينية ☩

وفي سنة ثلاث وستين واربعمائة سار  
السلطان الي ارسلان نحو اخلاط في  
اربعمين الف فارس للقاء الروم فخرج  
اليهم بطريق في جموع عظيمة فنصر عليهم  
السلطان واسر مقدمهم فجدع اذنه  
ثم وصل ملك الروم بنفسه فلقاه السلطان  
فكان يعرف بالرهرة وذلك لخمس  
بقيين من دي القعدة فقاتلهم السلطان  
يوم الجمعة فهزمهم وقتل المسلمون منهم  
يومهم ولبلهم ما لا يحصي واسر ملك  
الروم فاطلعه السلطان علي ان يحمل الف  
الف وخمماية الف دينار وتقرر عليه  
قطيعة كل سنة ثلثمائة الف وستين  
الف دينار واطلاق كل اسير من في  
بلاد الروم من المسلمين \* فلما وصل  
ملك الروم الي بلاده وجد ان الروم قد  
ملكوا عبرة فاطهر الزهد ولبس الصوف



وبعث الي السلطان مايي الف دينار  
وجوهرا قيمته تسعون الف دينار وحلف  
انه لا يقدم علي غير ذلك \* ثم قصد  
ملك الروم مستضيغا به فاخذة ملك  
الارمن وشمل عبديه وبعث الي السلطان  
واعلمه بذلك ☩

وفي سنة اربع وستين واربعماية  
كان مقتل السلطان الب ارسلان  
وذلك انه كان قد خرج من بغداد  
وعبر نهر جبحون في مايي الف  
مقاتل في شهر صفر وكان  
ببعض القلاع رجل خوارزمي اسمه  
يوسف قد امتنع وتحصن في القلعة  
فامر السلطان ان يضرب له اربعة  
اوتاد وتشد اطرافه اليها فقال  
يوسف الخوارزمي يا فتنتي مثلي يقتل  
هذه القتل فغضب السلطان واجتد  
عليه واخذ القوس والنشاب ورماه ثلاث  
مرات وهي تحطي وكان اذا رمي لم  
يخط فعدا يوسف اليه وضربه بخصرته  
بسكين وادرك الجند يوسف فقتلوه  
وشدت جراح السلطان وعاد الي جبحون  
وتوفي لعشر مضين من ربيع الاول  
وكانت مدة مملكته تسع سنين \*  
وسبته كان شجاعا عادلا حلما حسن  
الطوية والاعتقاد مواطبا على الصلاة  
والصدقة كثير الخوف من الله مجاهدا  
في سبيل الله \* ولما جرح قال ما قصدت  
جهة الا واستعنت بالله عليها الا هذا  
الوجه ولما كان بالامس صعدت تلا  
فارجت الارض تحتي من عظم الجيش  
وكثرة العسكر فقلت في نفسي انا  
ملك الدنيا ولا يقدم احد علي محاربي  
ولم تخطر ببالي قدرة الله تعالي وانا  
استغفر الله جل جلاله \* ثم احضر الجند  
وزيرة نظام الملك واوصاهم بولده  
ملكشاه واستخلفهم له ولما توفي اجلسوا  
في الملك بعده ولده السلطان جلال  
الدولة وجار الي مرق فدفن بها والده \*  
ولما بلغ ماروبيل بن داود  
atque ibidem patrem suum sepelivit. Cum autem Marubilus f. Davidis intellexisset

misitque ad Principem ducenta aureorum  
millia, & lapidem cujus pretium nonagin-  
ta millium aureorum erat. ac juravit se  
plus prestare non potuisse. Deinde conten-  
dit ad Imperatorem Romanorum, cum eo  
commoraturus, sed cepit eum Rex Arme-  
norum, oculisque orbavit: quod, misso ad  
Principem nuntio, ei significavit.

Anno 464 occisus fuit Princeps Olbarsa-  
lanus, id quod hoc modo contigit. Exierat  
Bagdado, & trajecerat fluvium Gjaiho-  
nem, cum ducentis militum millibus, men-  
se Safaro. Erat autem in arce quadam vir  
quidam Chawarzanus, cui nomen erat Io-  
sepho. hic rebellans sese in ea arce munive-  
rat, jusseratque Princeps, ut quatuor palis  
positis extremitates ejus affigerentur, un-  
de Iosephus, O sceleste, inquit, an mei simi-  
lem decet ista nece affici? Princeps iratus,  
& furens contra eum, arcum prehendit  
cum telis, & tribus eum vicibus petijt; sed  
quibus omnibus aberravit, cum alioqui ja-  
culans non aberraret. hinc Iosephus ad eum  
transcurrit, & ferijt eum in latere ejus  
cultro. Milites autem comprehensum Io-  
sephum interfecerunt. Cumque gravia es-  
sent Principis vulnera, redijt ad Gjaiho-  
nem, atque obiit, die decimo Rabij prioris,  
cum regnasset annos 9. Ad naturam ejus  
quod attinet, strenuus fuit, justus, patiens,  
ingeniosus, sincerus, assiduus in precibus,  
& eleemosynis, valde timens Dei, & pro-  
pugnator religionis. Cum autem vulnera-  
tus esset, dixit. Nusquam unquam contem-  
di, nisi implorato auxilio divino, nisi hac  
vice. quin & hesterno die, cum ascendissem  
in collem, contremuit terra sub me, à ma-  
gnitudine exercitus & multitudine copia-  
rum, dixique apud me, ego utique Rex  
mundi sum, neque poterit quisquam bel-  
lum mihi movere. Nec venit mihi in men-  
tem potentia divina. at veniam delicti  
peto à Deo Opt. Max. Deinde advocavit  
milites, & Consiliarium suum Natamul-  
melicum, & commendavit eis filium suum  
Melicsjahum, petijtque ut juramentum ei  
præstarent. Ut autem expiravit colloca-  
runt in regnum post eum filium ejus Prin-  
cipem Ghelaluddaulā, qui Marvam abiit,  
obitum

Cœpit 29  
Septemb.  
A. C. 1071  
Olbarsala-  
ni mors,  
ejusque  
occasio.

ejusdem  
natura.

Successor  
Melicsja-  
hus Ghela-  
luddaulas.

contra quē  
rebellat  
Marubilus

obitum Principis, abijt Rajam, regna peti-  
turus. sed prevenit eum Princeps Ghela-  
luddaulas Melicsjahus, & concursu facto  
prope Hamadanum, die quarto Sjaabani,  
in fugam vertit exercitum patris sui Ma-  
rubili: qui deinde prehensus fuit, & ad fi-  
lium fratris sui adductus. Et sic stabilitum  
fuit imperium Melicsjahi, & oratum fuit  
nomine ejus in suggestis Bagdadi, & in  
omnibus regnis.

Cœpit 27  
Augusti  
A. C. 1064  
Chalifa  
Caijmi Bi-  
amrillae  
obitus.

Anno quadringentesimo sexagesimo  
septimo obiit Caijmus Biamrillas Impera-  
tor fidelium, die decimo mensis Sjaa-  
bani, cum Chalifatum sustinisset annos  
quadraginta quatuor, menses septem, &  
dies viginti octo, & natus esset annos quin-  
quaginta quinque, menses octo, & dies 8.  
Ad naturam ejus quod attinet. fuit Caij-  
mus pia memoria eruditus, patiens, mitis,  
sincerus, sanorum consiliorum, justus, &  
vehementer timens Deum Optimum Ma-  
ximum.

Imperium.

Chronologus ait eum Chalifatum susti-  
nuisse quadraginta quatuor annos, septem  
menses, & viginti octo dies, quorum ini-  
tium fuit dies Martis, finis Iovis. elapsis  
annis Hegiræ quadringentis sexaginta sex,  
septem mensibus, & decem diebus: annis  
autem solaribus mundi 6566, septem men-  
sibus, & septem diebus.

Christo-  
dulus Patr.  
Alex.

Quod ad ea attinet quæ narrant Chri-  
stianorum historia. Referunt Patriarcham  
Abunam Christodulum propositum fuisse  
Patriarcham Iacobitarum Alexandriae  
mense Keihaco, anno Martyrum septingen-  
tesimo sexagesimo quarto, & sedisse annos  
triginta, ac obiisse die Sabbathi, decimo  
quarto Keihaci, anno septingentesimo no-  
nagesimo quarto. Obijt autem Muallaca in  
Aegypto: vacavitque post eum sedes cen-  
tum & duodecim dies: & constitutus post  
eum Patriarcha Iacobitarum Alexandriae  
fuit Abuna Cyrillus, Dominica Palma-  
rum, die decimo sexto Barmudæ, anno  
Martyrum septingentesimo nonagesimo  
quarto. Alij tamen dicunt eum propositum  
fuisse vigesimo septimo Amsjiri, & confir-  
matum vigesimo secundo Barmahati, ac se-  
dissime annos 14, menses 3 & dimidium, at-  
que obiisse die Solis duodecimo Banna, anno

Cyrrillus  
Pat. Alex.

وفاة السلطان سار الي الرعي طالب  
الممالك فسبقه السلطان جلال الدولة  
ملكشاه والنقوا قرب بغداد لاربع مضمين  
من شعبان فهنرم عسكره ماروبيل  
ثم قبض عليه واتي به الي ابن اخيه  
واستوقف الامر لسلطان ملكشاه  
وخطب له على المنابر ببغداد وجميع  
الممالك

قال وفي سنة سبع وستين واربعمائة  
كانت وفاة القائم بامر الله امير  
المومنين لعشر خلون من شعبان  
وكانت مدة خلافته اربع واربعين  
سنة وسبعة اشهر وثمانية وعشرين يوما  
وعمره خمس وخمسين سنة وثمانية اشهر  
وثمانية ايام \* وسيرته كان رضي الله  
عنه عالما حلما من وفاد حسن الاعتقاد  
سلم الطوية عادلا شديد الخوف من الله  
تعالى

قال المورخ ان مدة خلافته اربع  
واربعين سنة وسبعة اشهر وثمانية وعشرين  
يوما اولها يوم الثلاثاء واخرها الخميس لتقبة  
اربع مائة ست وستين سنة وسبعة اشهر  
وعشرة ايام للهجرة ولتمام ستة الف  
وخمسمائة ست وستين سنة وسبعة اشهر  
وسبعة ايام للعالم شمسية

وما ورد تواريخ النصارى ان البطررك  
ابونا ارسطودلس قدم بطركا  
للبعاقة على الاسكندرية في كيهك  
سنة سبعمائة اربع وستين للشهدا اقام  
ثلاثين سنة ومات يوم السبت رابع عشر  
كيهك سنة سبعمائة اربع وتسعين  
للشهدا وكانت وفاته بالعلقة بمصر  
وخلا الكرسي بعده مائة واثنى عشر  
يوما وصبر بعده ابونا كيرلس  
بطركا على البعاقة بالاسكندرية  
في يوم اخذ الزيتونة سادس برمودة سنة  
سبعمائة اربع وتسعين للشهدا وقبل انه  
قدم في السابع والعشرين من امشير  
وكمل في ثاني وعشرين برمهاث واقام  
اربع عشرة سنة وثلاث شهور ونصفا  
ومات يوم الاحد ثاني عشر بونونه سنة

Marty-



فأما غاية وثمانية للشهدا بكنيسة الحنارة  
بجزيرة مصر وخال الكريسي بعده مائة  
اربعة وعشرين يوما

*Martyrum octingentesimo octavo, in tem-  
plo Machtara, in insula Aegypti. vacavit-  
que post eum sedes centum & viginti qua-  
tuor dies.*



## CAPVT OCTAVVM.

السابع والعشرون من الخلفاء العباسيين  
وهو الناصر والاربعون المقتدي  
بالله ابو القاسم عبد الله  
بن محمد بن القايم  
يامر الله

*Vigesimus septimus Abbasi-  
darum, & Chalifa quadragesimus  
octavus, ABDALLA ABULCASIMVS  
MUCTADIS BILLA, filius Mu-  
hammedis, filij Caijmi  
Biamrilla.*

له بالخلافة يوم توفي جده  
بويق القايم يامر الله وهو عاشر  
شعبان سنة سبع وستين  
واربعماية فبايعه الاكابر والاشراف  
وصلى على جده ودفنه واستقرت خلافة  
المقتدي واستحل امره وعمرت بغداد في  
ايامه وخطب له باليمن والشام وبمس  
المقدس واسترجع المسلمون في ايامه الرها  
وانطاكية من ايدي الروم وكانت  
له قوة عالية وشجاعة وهيبة فقامت  
حرمة الخلافة



*REAVS fuit Chalifa eo die  
quo avus ejus Caijmus Biam-  
rilla obiit, decimo nempe Sja-  
abani anno 467. ac juramen-  
tum fidelitatis praestiterunt ei Primates  
quique & Nobiles. Oravit pro avo suo,  
cumque sepelivit. Stabilitus autem fuit  
huic Muctadi Chalifatus, & prosperum  
fuit ejus imperium. Bagdadum ejus tem-  
pore incolis floruit. & oratum ejus nomine  
fuit in Iamana, & Syria, ac Hierosolymis.  
recuperarunt quoque ejus tempore Muslimi  
à Romanis Rubam & Antiochiam. cumq;  
magnanimus esset, & fortis, ac metueret-  
tur, constitit Chalifatui sua auctoritas.*

fortuna-  
tum Mu-  
ctadis im-  
perium.

وفي هذه السنة كانت وفاة عز  
الدولة محمود بن نصر صاحب حلب  
وكانت مدة ملكته الثانية بعد ان  
تسلها من عهده عشرين سنين وكان  
شجاعا كريها ممدوحا وهو الذي  
يقول فيه بن حبوس قصيدة

*Eodem anno obiit Mahmudus Azzud-  
daulae f. Nasri Dominus Halebi, cum se-  
cundo regnavisset, (accepta urbe à patruo  
suo Atiho) decem annos. Strenuus fuit, ho-  
norable, & laudatus. & is est de quo isto  
carmine loquitur filius Habusi.*

Azzud-  
daulae Re-  
gis Halebi  
obitus.  
laus.

ابا الله الا ان يكون لك السعد وليس لما معبه منع ولا مرد \*

قضت حلب ميعادها بعد مظلمة وابيض وصل ما مضى قبله صد \*

تجزلوا الوصل حولك غصبة اذا طلبوا نالوا وان عقدوا شدق \*

وخطبة سمر وبيض صوارم وصافته رصف وصافته جردق

والتا توفي عز الدولة قام بالملك بعده  
ولده الامير نصر بن محمود بن مرداش  
وامه ابنة الملك العزيز ابي المنصور بن  
جلال الدولة ابي طاهر بن بويه \*  
قال وقتل في سنة ثمان وستين واربعماية  
وذلك ان وثب عليه جنده الاتراك  
بظاهر حلب فقتلوه للبلعين مضطربا من  
شوال فكانت مدة ملكته سنة واحدة

*Azzuddaule autem vitâ defuncto succes-  
sit in regno filius Imperator Nasrus, fi-  
lius Mahmudi Mardasides. cujus ma-  
ter fuit filia Abulmansoris Melecazihi fi-  
lij Abutaheri Ghelaluddaule Boijta. Oc-  
census autem hic fuit anno 468: irruentes  
enim in eum milites ejus Turca eum in-  
terfecerunt, prope Halebum, die secun-  
do Sjewali, cum regnasset annum unum.*

successor  
Nasrus.

qui occidi-  
tur.

Ambu-

Nasrilaus. *Insistebat vestigijs patris sui, quod ad honorem, liberalitatem, magnanimitatem, & vita integritatem. celebravitque cum filius Habusi, Poëta ejus, Carmine cuius pars hæc est,*

Explevit Religio seculum neque finierit eam tibi seculum : qui autem viribus pollet illi incumbit commemoratio ejus.

Vtique studuit ipsa terrarum quieti, cum afflictæ forent, fulmina earum evaserunt gaudium, & pluvix aurum.

Cum nubes se propriam terræ reddidit aquam expetenti, dum pluit, in quavis pluvia nobis gutta fuit.

Res octo non disjungentur, postquam tu junxisti eas; neque separatae sunt, quamdiu in te animus fuit.

Conscientia tua & pietas, liberalitas tua & opulencia, eloquium tuum & explicatio, deliberatio tua & victoria.

Postquam ad te habitatum confugere, ampliata fuit potentia, & adaucto splendore gloriosum evasit seculum.

*Ex eodem poemate etiam hoc est,*

Exoptans exhibet tibi excusationem suam, jam enim angustasunt præ encomijs tuis & pectus & fama.

Cum quieti te prorsus dedisti non desijt efferre sese, cum vero ævum nomine tuo implevisti, cessandum fuit.

*Ex illo & hoc est,*

Gratificatus mihi fuit Nasrus mille aureis, qui perierunt, sed hoc scio restituet eos Nasrus.

liberalitas  
ejus.

*Dixit, per Deum ! si dixisset duplicabit eos Nasrus, duplicassem ipsi; jussitque ei dari mille aureos in paropside argentea. ferunt autem cum filius habusi hoc carmine celebrasset Nasrum filium Mahmudi, illudque hoc dono compensatum esset, Poëtas quosdam ad Nasrum scripsisse, qui circa aulam ad captandam illius gratiam obversantes, repulsam passi erant, hoc modo,*

وكان سالك طريق والده في الكرم والعطا والحزم وحسن السيرة وامتدحه ابن حبوس شاعره بقصيدة من جملتها \*

كما الدين دهرًا ما قضاة لك الدهر فمن كان ذا قدر فقد وجب الندم \*

لفظ طلب هدي البلاں بويلها بوارقها بشرر وامطارها تيم \*

اذا ما عام خص ارضا بغبته ها ها طلالا في كل قطر لنا قطر \*

مأبئة لم تفرق مد جمعها فلا افرقت ما دب في ناظر صغر \*

صبرك والتقوى وجودك والغني وانطك والمعني وشرمك والنصر \*

بك الجات للاوا وامتدت المي وضوعفت اللالا وافتخر العصر \*

ومنها

يقبل المني عليك اعتذاره فقد ضاق عن اوصافك البطم والنتر \*

وهيت جدا لا يقصر صاعدا ومليت اياما عن اسمك يعمر \*

ومنها

وجاد بن نصر لي بالف تصرمت واني علم سوف يخلقها نصر \*

قال نصر والله لي قال سبضعها نصر لاضعفتها له وامر له بالف دينار في طبق فضة \* ويقال انه لما امتدح ابن حبوس نصر ابن محمود بهذه القصيدة واجاز عليها هذه الجائزة كتب بعض الشعراء الى نصر وكانوا يترددون الي باب طالبين مرفدة فلا يودن لهم فكتبوا \*



علي بابك المهون منا عصابة مغاليس  
فارجم ضعف هولاء المغاليس \*  
وقد قنعت منك العصا بة كلها  
بعشر الذي اعطيته لابن

حبوس \*

وما بيننا هذا التفاوت كله  
ولكن سعبد لا يقاس  
هنحوس \*

فامر لهم بعشر الذي اعطاه لابن  
حبوس قال والله لو قالوا بمثل الذي  
اعطيته لابن حبوس لاعطيتهم مثله  
ولما قتل نصر بن محمود ملك حلب  
بعده اخوه الامين سابق بن محمود بن  
نصر بن صالح بن مرداش وهو اخر  
ملوك بني مرداش بحلب

قال وفي سنة تسع وستين واربعماية  
قصد ايسر المعروف بالافسبس مصر  
وكان هذا ايسر قد استولى علي حص  
ودمشق واماها وما قصد مصر  
اضطرب اهلها وعزم صاحبها المستنصر  
بالله علي الهرب في الليل فاجتمع  
اهل القاهرة والسودان مع الجبوش  
وخرجوا الي ايسر وكسروه وهرموه  
وكان في جموع كثيرة فعاد مقتولا  
وهجم في طريق الرملة وقتل من  
ظفريه وتوجه الي القدس فقتل منه  
ثلاثة الف انسان وقتل القاضي  
والشهود صبرا بين يديه ومضي الي  
دمشق

وفي سنة سبعين واربع مائة كتب  
السلطان جلال الدولة ملكشاه الي  
اخيه تاج الدولة يامره بالمسير الي الشام  
واخذها ظنا ان ايسر قد قتل في وقعته  
مع المصريين فسار تاج الدولة الي ديار  
بكر فبلغه سلامة ايسر صاحب دمشق  
وبلغ ايسر مسير تاج الدولة اليه  
وبذل له مالا يحمله اليه في كل  
سنة فرضي جلال الدولة بذلك  
وكتب الي اخيه تاج الدولة وصرفه  
عنه ثم سار تاج الدولة الي منبج  
ثم توجه الي حلب وفي يهد السابق

Ad portam tuam fortunatam expe-  
ctat turba pauperum, ut te mise-  
rescat egestatis eorum :

Fiet autem à te fatis turbæ huic uni-  
versæ decima ejus parte quod de-  
disti filio Habusi ;

Neque inter nos tantum est discrimen ; sed non comparatur fortunatus cum infelici.

*Iussitque illis dari decimam ejus partem, quod filio Habusi largitus fuerat, hoc addens, per Deum ! si dixissent quantum dedisti filio Habusi, tantumdem dedissem ipsis.*

*Cumque Nasrus interisset, imperavit post illum Halebo frater ejus Sabacus Elaminus fil. Mahmudi, f. Nasri, f. Mardasi, fuitque ultimus Regum Mardasidarum, qui Halebum tenuerunt.*

Successor  
frater ejus  
Sabacus.

*Anno 469 contendit Isarus cognomine Afsyffus in Aegyptum, jamque in potestatem redegerat Emiffam, & Damascum ejusque ditiones. cum vero Aegyptum accederet, perculsi fuerunt incolæ ejus, ita ut Mustansirus Billa Dominus ejus statuerit noctu capere fugam ; sed populus Alcahiræ & Saudanæ cum militaribus copijs juncti contra Isarum prodierunt, eumque superatum in fugam verterunt ; etiamsi multæ secum agmina duceret. atque ita debellatus redijt ; grassatus tamen fuit in itinere Ramla, & quemcunque superare potuit, occidit. Tum Hierosolymas concessit, ubi tria hominum millia peremit, & ex improviso Iudicem & Notarios cum coram eo venissent, interfici iussit : indeque Damascum profectus fuit.*

Cœpit 4  
Augusti  
A. C.  
1076.

Isarus ab  
Aegypto  
repelliit.

Hieroso-  
lymis mul-  
tos occidit

*Anno 470 scripsit Rex Gjelaluddaulas Melicjabus ad fratrem suum Tagjuddaulam pracipiens illi ut ad Syriam expugnandam se conferret, concepta opinione, Isarum in praelio contra Aegyptios perijisse. Tagjuddaulas autè ut Diarbecram profectus fuit, intellexit Isarum Dominum Damasci salute frui ; hic vero ut illum ad se venire percepit, obtulit certam ipsi opum summam quotannis offerendam : quam conditionem accepit Gjelaluddaulas, & ad fratrem Tagjuddaulam litteras misit, quibus ab illo Manbagum abire jussus fuit ; unde Halebum concessit quod in potestate erat Sabaki filij*

Cœpit 25  
Iulij  
A. C.  
1077.

Isarus à  
Gjelalud-  
daula pa-  
cem redi-  
mit.

filij

filij Mahmudi, f. Nasri Mardasida. sed cum eo Tagjuddaulas potiri haud posset, Harranam discessit, atque inde Diarbecram: seque contra munivit Dominus Nasibini, & Sergjara, nempe Muslimus f. Coraisi f. Bedrani Acaleus.

Cœpit 4  
Iulij. A.  
C. 1079.

Tagjud-  
daulas po-  
titur Da-  
masco in-  
terfecto  
Ifaro.

Anno autem quadringentesimo septuagesimo secundo potitus fuit Damasco Tagjuddaulas Nisus filius Barselani Salghucides; ejusque rei causa fuit: cum copie Aegyptiaca eam obsessum venissent, Isarus qui in urbe erat auxilium petijt à Tagjuddaula; quo Damasco appropinquante exercitus Aegypti inde castra movit. Sed Tagjuddaulas Isarus ad se foras progressumprehendit, atque interfecit. Et Damasco subjugata omnibus ejus divitijs & thesauris potitus fuit. Incole autem Damasci qui ob insolentiam violentiae, & iniquitatis, quam in eos Isarus exercebat, in Iracam Chorasnam, aliasque ditiones aufugerant, in urbem Damascenam reversi sunt; utpote quae sub Salghucida potestate hospitatis evaserat.

Eodem anno Sjarfuddaulas filius Muslimi, filij Coraisi subjugavit Halebum; hic enim Sjarfuddaulas Dominus Mansila litteras miserat ad Gjelaluddaulam, quibus veniam ab eo petebat expugnandi Halebi, inde addicens illi trecenta aureorum millia annua. quod Gjelaluddaulas concessit ipsi, pactumque libello confirmavit. Atque ita Sjarfuddaulas Halebum contendit, quod suberat imperio Sabaci filij Mahmudi, filij, Nasri, fil. Salehi Mardasida Halalaei; idque cum aliquamdiu obsessisset, inter eos convenit, ut Sjarfuddaulas potiretur Halebi imperio, Mardasides vero viginti aureorum millia in tributum quotannis solveret, atque ita Sjarfuddaulas occupata urbe & arce Halebo imperavit.

Cœpit 22  
Iulij. A.  
C. 1080.  
Sedydud-  
daulas ca-  
pit Sjaiza-  
rum.

Anno autem quadringentesimo septuagesimo tertio Sedyduddaulas Abulhasenus Alis filij Mucledi, filij Nasri, filij Mancadi Catanus occupavit arcem Sjaizari, quam Romani possidebant: nam positus ibi castris eam obsederat ingenti cum exercitu: atque ita addicta securitate ad deditorem tandem adegit. cui & ipse, & posterij ejus continuo imperarunt, donec eam cepit

بن محمود بن نصر بن مرداش فامتعت عليه ثم توجه تاج الدولة الي حران ثم الي ديار بكر فتحصن صاحب نصيبين وسنجار وهو مسلم بن قريش بن بدران العقيلي.

قال وفي سنة اثنتين وسبعين واربعماية استولى تاج الدولة نيس بن البرسلان السلجوقي علي دمشق وسببه ان جبوش مصر وصلت فحاصرها وبها ايسر فبعث ايسر الي تاج الدولة يستجد به فتوجه اليه فلما قرب من دمشق رحل عسكر مصر عنها ووصل تاج الدولة اليها وخرج ايسر اليه فقبض عليه وقتله واستولى تاج الدولة علي دمشق واحتوي علي جميع اموالها وخزائنها وتراجع اهل دمشق اليها وكانوا قد هربوا منها لفرط ما كان ايسر يعاملهم به من الجور والظلم وصار دمشق والشام يومئذ بيد السلجوقية مضافا الي العراق وخراسان وغيرها من الممالك.

وفي هذه السنة استولى شرف الدولة بن مسلم بن قريش علي حلب وكان هذا شرف الدولة صاحب الموصل فكتب الي السلطان جلال الدولة يستدنه في فتح حلب وضمن له كل سنة عنها ثلثمائة الف دينار فادن له في ذلك وكتب له توقيعا فقصد شرف الدولة حلب وفي بيد سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداش الهلالي فحاصرها مدة ثم اتفقا علي ان يتسلم شرف الدولة حلب ويقطع بن مرداش في كل سنة عشرين الف دينار وتسلم شرف الدولة حلب وقلعتها ومالكها.

قال وفي سنة ثلاث وسبعين واربعماية ملك سديد الدولة ابن الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكتاني حصن شبر و كان بيد الروم فنزل عليه وحاصره وكانت له عشيرة كبيرة فتسلها بالامان ولم ينزل بيده و بيد اولاده الي ان اخذها



الملك العادل نور الدين محمود بن  
بريكي رحمه الله عقيبا لزلزلة التي  
جاءت بشهر وأهلكته في منفذ  
في

قال وفي سنة خمس وسبعين وأربع  
ماية توفي سيد الدولة أبي الحسن علي  
بن منقذ صاحب شهر وكان مدة  
ملكه لها سنة واحدة وشهور وكان  
أميرا جليلا شجاعا عالما وله شعر جيد  
من جملة قوله في غلام له ضربه وكان  
يحب \*

اسطى عليه وقلبي لم يكن من لقي  
ورد به غيظا لي عنقي \*  
واستقر إذا عاقبت خنقا  
واين دل الهوى من عزة  
الخنق \*

ولما توفي سيد الدولة ملك شهر  
بعده ولده أبي المرهف نصر بن علي  
بن منقذ ويلقب بلقب والده ملك  
الدولة

وفي سنة سبع وسبعين وأربع مائة  
ورد استقر الحاجب من عند السلطان  
جلال الدولة ملكشاه إلى بغداد متوليا  
عليها وفيها ولد الوزير

وفي هذه السنة عصى بهن بن  
البرسلان علي أخيه السلطان جلال  
الدولة وفتح مرو وأباحها للجند ثلاثة  
أيام وانتهى هي وأصحابه الأموال  
وانتهكوا المحارم وشربوا الخمر في  
الجامع في شهر رمضان فقصده أخوه  
السلطان جلال الدولة فسار بهن إلى  
قلعة برجس وتحصن بها فنزل وضايقه  
وحاصره وظفر به وقبده واعتقله في بعض  
القلاع

وفي هذه السنة كان مقتل شرف  
الدولة بن قریش صاحب حلب والموصل  
وذلك أنه لما ملك حلب واستقر بها  
صار إلى انطاكية قاصدا فتحها  
وفي يومئذ بيد سليمان بن قطيس  
فخرج إليه سلطان واقتلوا وانهمز  
شرف الدولة وهو متحن بالجراح مات

Rex Mahmudus Adilus Nuridinus f. Zika,  
cujus misereatur Deus: quod contigit post  
terremotum, qui Sjaizarum concutiens  
Mancaditum & Iamanitum familias de-  
levit.

Anno autem 475 obiit Sedjuddaulas Cœpit 1  
Iunij. A.  
C. 1082.  
Obitus Se-  
dijuddau-  
la.  
Abulhasenus Alis filius Mancadi Domi-  
nus Sjaizari, postquam per annum & ali-  
quot menses eidem præsuisset. eratque Prin-  
ceps excellens, strenuus sapiens, & in Poë-  
si egregius. inter cetera hoc ejus dictum  
extat in famulum quendam quem percussit  
serat, attamen amore prosequabatur.

Insultabam ipsi, animus tamen meus  
accedere haud poterat; pro eo au-  
tem compressit collum meum.

Cumq; castigassem ipsū, se collo hu-  
miliavit: ubi autē incitat amor præ  
vehementia sua ad stragulandum?

Cum vero vita defunctus esset Sedj- Sedjudd-  
daulae suc-  
cessit fi-  
lius.  
duddaulas, paruit postea Sjaizarum filio  
ipsius Abulmerhaso Nasro f. Alis f. Man-  
cadi; qui cognomine patris sui cognomina-  
tus fuit Melicuddaulas.

Anno 477 contulit se Castacarus Ianitor Cœpit 9  
Maii. A.  
C. 1084.  
jussu Regis Gjelaluddaula Melicsjahi Bag-  
dadum, ut imperio illius præfesset; ibique  
erat filius Consiliarij.

Hoc anno rebellavit Nisus fil. Barselani Nisus re-  
bellat con-  
tra Gielal-  
luddau-  
lam.  
insolentia  
cius.  
in carce-  
rem conii-  
citur.  
aduersus fratrem suum Regem Gjelalud-  
daulam; cepitque Marwam à qua exerci-  
tum quidem per triduum continuit, ipse  
vero cum comitatu suo diripuit opes, lege  
prohibitis stuprum intulerunt, & vinum  
in templo potarunt ipso mense Ramadano.  
ut autem frater ejus Rex Gjelaluddaulas eo  
contendit, recepit se Nisus in castellum Ber-  
gjesum in quo se muniuit; at ille ibi castra  
metatus arctissime eum obsedit. & supera-  
tum, ac compedibus constrictum castello  
cuidam jussit includi.

Eodem anno internecio contigit Sjar- Mors Sjar-  
fuddaulæ.  
fuddaulæ f. Coraisi Domini Halebi & Man-  
sila, & quidem hoc modo. cum ille Halebi  
imperium sibi firmum asseruisset, ad inva-  
dendam Antiochiam concessit; quam tunc  
temporis tenebat Solymanus f. Ptolomei.  
quo contra eum egresso & prælium commit-  
tente Sjarfuddaulas in fugam conversus fuit,  
& ex vulneribus obrigescens expiravit,  
emise-

emiserat autem quasdam copias ex suis, sed urbis porta illis occludebantur.

Cœpit 29  
Aprilis A.  
C. 1085.

Tagiud-  
daulas au-  
xiliane  
Artako  
Halebum  
capit.

Anno 478 Rex Tagiuddaulas consecutus fuit dominium Halebi; cum enim intellexisset Dominum ejus Sjarfuddaulam occisum esse, illuc iter instituit; venitque ipsi subsidio Artacus Turcomanus, qui Hulwanam, & Habelam potestati subjecerat sua. eratque hic Artacus pater Muluci & Artacia, qui simul conspiraverant, ut Solimano filio Ptolomæi Domino Antiochiæ bellum inferrent. dimicarunt autem haud procul à porta Halebi, & postquam multis prælijs certatum esset, Solimanus tandem interfectus fuit, & socij ejus fugâ ceperunt. Tagiuddaulas autem Halebum occupavit, & totius Syriae imperium ipsi consummatum fuit.

Cœpit 6  
Martii A.  
C. 1090.

Batyna in-  
vadit Ca-  
stella.

Anno 483 incepit Batyna invadere Castella Barbarorum atque Arabum, primumque quod occupavit Rodiara fuit à partibus Arabum. parebat autem castellum hoc Camaho amico Regis Gjelaluddaulæ, ejusque ibi vicarius consilio Batyna assentiens & acceptus ab Haseno f. Masbaci Batineo 1200 aureis, tradidit illud. erat autem Hasenus ille Marwades nobilitate illustris. posteaquam vero ad Ducem Abdalrezacum in Herama perscripsisset, ipse in Aegyptum venit, & quemcumq; Batyna invitavit, se adjunxit secta ipsorum. tum ille inauguravit eum nomine populi, cujus ipse caput erat, illumque multi sequuti sunt. Cum vero imperium ejus accrevisset & feliciter procederet, interminatus ipsi fuit Rex Gjelaluddaulas, & obedientiam ab illo exegit. Cumque Legatus coram eo venisset, quosdam ex affeclis suis accersiri jussit & adolescenti cuidam ex ijs annuens dixit, interfice te ipsum, atque ita fecit; tum alteri innuit, ut ex arce se precipitem daret, quod item fecit & comminatus fuit: tum vero Rex Legato dixit: ejusmodi 70000 subditi hac in me observantia feruntur, atque hoc tibi pro responso esto. Reversusque fuit Legatus ad Regem, hoc ipsum commemorans illi, qui admiratione percussus eos missos fecit, & ob eos sollicitus fuit. Diversa deinde castella oppugnavit, & invaserunt, ex quibus erat castellum

accrevit  
eius impe-  
rium.

summa  
subdito-  
rum in eū  
observan-  
tia.

فبعث جماعة من اصحابه فاغلقت من دونهم ابوابها

وفي سنة ثمان وسبعين واربع مائة استولى الملك تاج الدولة على حلب وذلك لما بلغه مقتل شرف الدولة صاحبها سار الى حلب وجاء ارتق التركماني مناصرا له وكان ارتق قد تغلب على حلوان والحبل وهذا ارتق والد الملوك والارتقية فاتقيا علي حرب سلمان بن فطلس صاحب انطاكية فاقتلوا على باب حلب وكان بينهم حروب كثيرة اخرها ان سليمان قتل وانهم اصحابه وتسلم تاج الدولة حلب وصفت له مملكة الشام باسرة

وفي سنة ثلاث وثمانين واربع مائة كان ابتداء ملك الباطنية لقلاعهم جالعج والديلم واول قلعة ملكها الباطنية قلعة يقال لها الروديار من نواحي الديلم وكانت هذه القلعة لقماح صاحب السلطان جلال الدولة وداييه بها يرمي برأي الباطنية فاعطاه الحسن بن مصباح الباطني الفاي ومايي دينار فسلطها اليه واصل هذا الحسن بن مروي وكان كاتبا للرئيس عبد الرزاق بهرام ثم سار الى مصر فتلقى من دعاه الباطنية مذهبهم ثم دعاه هو داعية القوم والراس فيهم فتبعه خلق كثير ولما عظم امره واستفحل وبعث اليه السلطان جلال الدولة يتهدده ويدعوه اليه طاعته فلما حضر عنده الرسول احضر جماعة من اصحابه واوصي اليه شاب منهم وقال له اقتل نفسك ففعل ثم اوصي اليه اخر بان يرمي نفسه من القلعة ففعل وتقطع وقال لروس السلطان ان برعبي من هولاء سبعين الفاً هذه طاعتهم الي وهذا هو الجواب فعاد رسول السلطان اخبر بذلك فبعجهم وتركهم واشتغل عنهم ثم استولوا على قلاع كثيرة وغلبوا عليها ومنها قلعة



الاموت وهي مقر عظمتهم وكرسي  
ملكهم

وفي سنة خمس وثمانين وأربع مائة  
كانت وفاة السلطان جلال الدولة  
ملكشاه بن السلطان عضد الدولة  
السلجوقي هو ثالث ملوكهم فكانت  
ملكته عشرين سنة وأشهر وكان  
عمره سبعة وثلاثين سنة وخمس أشهر  
وسبترته كان ملكا جليلا عالما  
كرها شجاعا وافر العقل حسن العقيدة  
جمل الطوية اسقط المكوس وانزل  
الظالم وعمر القناطر والجسور والانهار  
وبنا الجامع المعروف بجامع السلطان  
ببغداد وبنا المدرسة الحنيفة المجاورة  
لقبة الامام ابي حنيفة برصافة بغداد  
واوقف عليها الوقوف العظيمة وبنا  
الاسواق والبلاد وحارب الاعداء ودفن  
الغنائم وفتح الفتوحات الكثيرة  
وكانت ملكته من اقصى بلاد الترك  
الي القدس الشريف والى اقصى بلاد اليمن  
وكانت بته رحمة الله جميلة فامت  
السبيل واكثر الخصب وخافته الناس  
خوفا عظيما وهابوه هيبه شديدة فكف  
الظالم وانتصف المظلوم وكان يقف  
المرأة والضعيف والمظلوم ولا ينصرف حتي  
تقضي حاجاتهم وقبل انة دخل مرة  
بطوس الي مشهد علي بن موسي الرضي  
للزيارة ومعه وزيره نظام الملك فقال  
ايها دعوت قال دعوت بان يظفر ك الله  
باخبك لبس وكان ذلك وقت  
عصبانه ومحاربه له فقال اني لم ادع  
هكذا واكني قلت اللهم ان كان  
اخي اصلح للمسلمين مي فظفري بي وان  
كنت اصلح منه لهم فظفري به واخباره  
في هذه المعني كثيرة وكان قد جرى  
بينة وبين الخليفة المقتدي وفقه فكتب  
الي الخليفة يقول له تنح عن بغداد فبعث  
اليه الخليفة يقول اجلي عشرة ايام  
فاتفق ان السلطان توفى قبل

*Alamuta, quod pro potentia sua presidio,  
& imperij sede habuerunt.*

*Anno 485 excessit à vita Rex Gjelalud-  
daulas Melicsjahus fil. Regis Adaduddaulæ  
Salghucides, eratque illorum Rex tertius.  
imperium ejus duravit 20 annos & aliquot  
menses; vixit autem 37 annos & 5 men-  
ses. Quod ad mores ejus attinet: erat Rex  
eximius, sapiens, liberalis, strenuus, pra-  
stans ingenio, sinceritate probatus, insignis  
pietate, diminuebat tributa, prohibebat  
ne injurie fierent: & pontes, vias, fluvio-  
sque fieri curabat, & construi templum  
Bagdadi, quod templum Regis appellatur;  
nec non Collegium Hanisæum prope Sacel-  
lum Antistitis Abulhanysæ in via strata  
Bagdadi, illudque magnis beneficijs dona-  
vit: foraciam & oppida construxit, &  
oppugnandis inimicis spolia multa conse-  
cutus fuit, compluresq; victorias obtinuit.  
ita ut ab extremis Turcarum oris, usque ad  
nobilem Hierosolimam, & finem Iamanæ,  
imperium ejus extensum fuerit: atque hoc  
laudabili ejus studio effectû fuit, ut itinera  
tuta forent, & rerum abundantia floreret,  
ipseque populo non timori tantum, sed &  
magno terrori esset, conpesceretur iniquus,  
& jus redderetur injuriam passo. Neque  
mulier, pauper, aut quisquam injuria af-  
fectus in judicium accedens dimitteba-  
tur, nisi causis ejus dyjudicatis. Fertur  
autem cum aliquando Tusum ingressus esset  
ad sepulchrum Alis fil. Mosi visitationis  
gratia, interrogasse Consiliarium suum  
Netamulmelicum, qui una cum eo erat,  
quidnam precatus esset, qui respondit, ut  
te Deus fratre tuo Niso victoriâ superiorem  
præstet, eo autem tempore rebellionem &  
bellum contra eum Nisus moverat: ipse ve-  
rò, dixit, haud istiusmodi precatio mea,  
sed talis fuit, Omnipotens Deus, si fra-  
ter magis convenit Muslimorum salu-  
ti, quam ego, victoriâ ipsi de me con-  
cedas; si vero ego potior eo sum in  
commodum illorum, me illo superio-  
rem reddas. Multaq; alia in hanc senten-  
tiam dicta ejus referuntur. Inter ipsum  
autem & Chalifam Muçtadim jam sæ-*

Cœpit 11  
Februarij  
A. C. 1092

obitus  
Gjelalud-  
daulæ.

virtutes  
ejus.

*du pactum erat: scripserat enim ille ad Chalifam ut à Bagdado discederet, qui ab illo sibi concedi petijt terminum 10 dierum, sed evenit ut Rex vita defungeretur ante*

obitus Re-  
gis Giel-  
luddaulæ.

discef-

successor  
filius Mah-  
mudus.

Mater eius  
Barcana  
regno præ-  
est.

inaugura-  
tio Mah-  
mudi.

discessum illius, idque Bagdadi, ubi & sepultus fuit. Quatuor autem filios post se reliquit, Mahmudum, Muhammedem, Barkiarucum, & Singjarum. Præceperat autem Rex ut filio Mahmudo regnum Bagdadi assignaretur, cujus tunc temporis ætas erat 5 annorum & 10 mensium. Sed mater eius Barcana filia Terahi è stirpe Afrasiani Regis Turcarum gubernationi filij præfuit, ut pote quæ consilio & intelligentia pollebat, decemque Turcarum millia tenebat. Optime autem tuebatur & milites & terram; atque exercitus donationibus sibi conciliavit, ut filio juramentum fidelitatis præstarent. Misitque ad Chalifam Muçtadaum Biamrillam petens ab eo ut mandaret filio imperium confirmari, qui & consensit in inaugurationem ejus, ita ut illius nomine in suggestis oratum fuerit. Et coram præsentibus imperialibus ornavit Regem Mahmudum f. Gjelaluddaule, coronarunt & gladio cinxerunt. Neque videbatur quifquam populo majorem gravitatem modestia & quiete præ se ferre supra ætatis suæ modulum: nam neque manum extendebat, neque pedem movebat, aut aliquod sui membrum inclinabat. tum allocutus eum fuit Consiliarius Abulmansor fil. Hamijri hoc modo, jubet tibi dici imperator fidelium. retribuatur tibi Deus pro patre tuo optimum quodque, quod tribuit vivo, & mortuo: Vtique favit ipse electioni tuæ, imperio, atque eminentiæ: Atque ita arbitrium ejus & benevolentia erga te certa rata assertaque esto. quæ verba ut Rex Mahmudus audivit, Imperatori fidelium firmavit fidem, & gratias egit. tum Consiliarius ad Matrem ejus accessit, & congratulatus ipsi fuit de filij præfectura, & nomine Chalife ipsam consolatus ob meritum fuit, & significavit, quæ præfecturam ei concessisset: ipsa vero postquam præcata esset, gratiasque egisset, cum filio suo unico Nahrawanam egressa fuit, & pro eo bellum gessit. Ut vero Tagjuddaule Niso Domino Damasci de obitu fratris Gjelaluddaule renunciatum fuit, se ipsum inauguravit, & ad Imperatorem fidelium Muçtadaum misit, qui Bagdadi imperium obtinere posset, quod recusatum ipsi fuit. Deinde discessit Tagjuddaule Rahabam

Tagjuddaule  
regnum am-  
bit.

مضيه وكانت وفاته ببغداد  
ودفن بها وخلف أربعة أولاد وهم  
محمود ومحمد وبركياروق وسنجر  
وكانت وصية السلطان لولده  
محمود فخطب له بالسلطنة ببغداد  
وعمره يومئذ خمسة سنين وعشرة أشهر  
وكانت أمه بركان خاتون  
ينت طراح من نسل افراسيان  
ملك الترك فقامت بتدبير ولدها  
وكانت امرأة مدبر عاقلة وكان  
معها من الترك عشرة الف فضبطت  
الجند والبلدان واحسن ضبط وارضت  
العساكر بالاموال واستحلفهم لولدها  
محمود وبعثت الي الخليفة المقتدي بامر  
الله تسالنه ان يامر بالخطنة لولدها  
فاجاب وتقدم بان يخلع عليه ويخطب  
له علي المنابر فحضر ابن المنصور بن حمير  
ومعهم الخلع فافاضوها علي السلطان  
محمود بن جلال الدولة وتوجوه وقلدوه  
سيفاً ولم ترا الناس اعظم منه هدوا  
وسكوناً علي صغر سنه ولم يمد يديه  
ولا حرك رجله ولا اومى شي من اعضائه  
وقال له الوزير ابن منصور بن حمير  
يقول لك امير المؤمنين جراك الله  
عن والدك افضل ما جرحي ومهت  
فلقد وفق في اختيارك وتدبيرك  
والمنزلة الرفيعة واقد صدقت ظنك  
وحققت اعتقادك فبك فحرم السلطان  
محمود لما سمع هذا الكلام ودعا لامير  
المؤمنين واستحسن منه ذلك ثم دخل  
الوزير الي والدته فهناها بولاية ولدها  
وعزها في مروجها عن الخليفة وعرفها  
ولايته لها فدعت وشكرت وخرجت  
بابنها وحبدها النهروان فعسكرت به \*  
فلما بلغ تاج الدولة نيس صاحب  
دمشق وفاة اخيه جلال الدولة خطب  
لنفسه وبعث الي امير المؤمنين المقتدي  
يلتمس من الخطبة ببغداد فامتنع من  
ذلك ثم سار تاج الدولة الي الرحبة  
cumque



فأكثرها فدخل في طاعته قسم الدولة  
وكان السلطان جلال الدولة قد قسم  
حاجب من أخيه تاج الدولة وسلمها إلى  
قسم الدولة وجعله نائبه فيها

وفي سنة ست وثمانين وأربع مائة انفصل  
قسم الدولة عن تاج الدولة وصار إلى  
بركباروق بن جلال الدولة ملكشاه  
واجتمع الي بركباروق جمع كبير من  
الخلق وقدموه إلى محمود لصغر سنه وان  
القيم بأمرة امرأة وان السلطان بركباروق

أكبر ولد أبيه وأحقهم بالسلطنة

وفي سنة سبع وثمانين وأربع مائة  
توفيت بركان خاتون أم محمود  
فاختلفت احوال ابنها وتفرقت عنه  
جموعه واجتمع لآخيه السلطان بركباروق  
جمع عظيم فقصده بغداد ودخلها ولي  
السلطنة وانهم محمود منه

وفي هذه السنة توفي أمير المؤمنين  
المقتدي وسببه ان السلطان بركباروق  
لما دخل بغداد حمل الي الخليفة اموالا  
عظيمة وهدايا وتحق وساله ان يخطب  
له بالسلطنة فتقدم الخليفة باسا كتاب  
العهد فكتب ثم حل اليه لينظر فيه  
فنظر فيه وعلم عليه وتركه الي جانبه  
واحضر الخلع واعدها ليخلعها عليه  
ثم قدم اليه الطعام فتناولوه وغسل يديه  
واعاد نظره في العهد وتامله وهو على  
اجمل حاله في ختمه ونقشه وبين يديه  
قهرمانه اسمها شمس النهار فقال لها  
ما هذه الاشخاص الذي دخلوا علينا  
يغير ان فالنفتت القهرمانه فلم ترا  
احدا فالنفتت اليه فرأته قد تغير لونه  
واسترخت يديه ورجليه وانحلت قواه  
وسقط على الارض فظنت انه قد غشي  
عليه فحلت ازراره فاذا هو مات  
فسحبته وامسكت نفسها عن  
البكا واستدعت من الخادم فاستدعا  
الوزير ابا منصور وولده وكان قد  
عهد اليه ابوه بالخلافة فعرباه وهنياه

*famulum vocavit, qui Consiliarium Abulmansorem accersivit, & filium Chalifae, cui pater antea Chalifatum assignaverat, ipsiq; eum denudarunt & juxta mortuo solverunt.*

*cumque eam occupasset, descendit in leges ejus Casmaruddaulas, cui Princeps Gjelaluddaulas Halebum fratri suo Tagjuddaula ereptum suo nomine regendum tradiderat.*

*Anno 486 Casmaruddaulas factus à Tagjuddaula divortio ad Barkiurucum f. Gjelaluddaula Melicsjahi recessit, multaque copia se Barkiaruco adjunxere, quae illum adversus fratrem Mahmudum incitarunt, idque minoris aetatis causa, & quod mulier imperio praeset: tum etiam quod Barkiarucus fratrum suorum maximus esset, cui pra illis regnandi jus competeat.*

*Anno 487 obiit Barcana Chatunis mater Mahmudi, & in contrarias partes abeuntibus amicis copia ejus defecerunt, ingensque multitudo se fratri ejus Barkiaruco associavit; quapropter Bagdadum contendit, quod ingressus fuit, & occupato regno Mahmudum in fugam conjecit.*

*Hoc eodem anno è vita excessit Imperator fidelium Muctadeus, ejusque rei haec causa fuit; Rex Barkiarucus cum Bagdadum intrasset oblati Chalifae magnis opibus, muneribus, & ornamentis ab eo petebat, ut in regno inaugurari posset, quod concessit Chalifae jubens litteris consignari pactam auctoritatem, quae ut scriptae essent aperuit illas ut inspiceret, & signatas à latere positas reliquit: atque apportari jussit imperiale ornamentum, quo parabat condecorare ipsum. Tum ut allatus cibus ipsi appositus esset, manusque lavisset, iteratò inspectas litteras expendebat, erant autem admodum insignes sigilli impressione, atque sculptura; & ancilla, quae coram eo aderat, Sol diei cognominata, dixit, quoniam illa persona sunt, quae sine venia ad nos accedunt? cumq; circumspiciens ancilla neminè animadvertisset, ad ipsum respexit, viditque colorem ejus jam immutatum, & manibus pedibusque flaccescentibus vires ejus dissolvi, ita ut humi procideret; ipsa autem putabat animi diliquium ipsi accidisse, & ut vestem ejus lineam soluit, mortuum invenit: & pro eo cum benedixisset Deo à lachrymis sibi temperans Iaminum*

Cœpit 1.  
Febr. A.  
C. 1093.

Barkiarucus ad regnum aspirat.

Cœpit 27  
Januar. A.  
C. 1094.

Barkiarucus potitur regno.

Obitus Imperatoris  
Muctadzi,

Conti-

Natura  
ejus.

*Contigit autem obitus Muḥtadei medio mense Muharramo anni 487: ejusq; Chalifatus duravit 19 annos & aliquot menses: vita autem ejus 38 annos, 8 menses & aliquot dies. Et quod naturam ejus attinet, peritus fuit Religionis & studiosus doctorum virorū, pius & proborum amator, strenuus, benignus & egregius etiam versus componebat, è quorum summa hi sunt,*

*Per eum qui si voluisset aliud ab eo quod in nobis est, infesta reddidisset per populum negotia negotijs!*

*Eduximus è tenebris Iniquitatis, cum caliginosa evasisset nox ejus, manè iustitiæ formosum.*

*Quod si oculus meus aliò respexit, ne palpebræ ejus cooperiant adversarium somni.*

*Et si aliò quam ad te pes meus extensus fuit, ne securus sit ab errore & offendiculo.*

*Per Deum! ego ille liberator fui qui supra dies prævalui ut immutarentur.*

*Inquit Chronologus, substitit Chalifatus ejus novemdecim annos, quinque menses & quinque dies, quorum primus & ultimus fuere dies Veneris; elapsis annis Hegira 480 & 15 diebus, annis vero solaribus mundi 6585 & quatuor mensibus.*

*Prout autem referunt Chronica Christianorum, Patriarcha Iacobitarum Alexandria creatus fuit Michaël, qui detentus in carcere fuerat Singjara ex ditione Nestorubi. & præfectus fuit die duodecimo mensis Baba anno 809 Martyrum, id est, anno 482 Hegira, anno 58 Mustansiri Domini Aegypti, & mortuus fuit die primo Pentecostes, ultimo mensis Basjnasi anno 818 Martyrum Muallaca in Aegypto. Fuitque Patriarchatus ejus 9 annorum & 8 mensum: tempore illius Nilus quamplurimum decrevit, ita ut Mustansirus illum in Aethiopiam mitteret cum muneribus & ornamentis multis; eique obviam venit Rex ejus, & cum reverenter eum excepisset, quesivit, qua de causa eò venisset, & exposuit illi quò Nilo Aegypti aqua penuria laborante magnum terræ ejus & incolis damnū impenderet. Itaque diverticulum recludi jussit ut aqua inde ad Aegyptios deflueret, propterea quod eò usq; Patriarcha venisset: & accrevit Nilus*

Tempore  
Patriarchæ  
Alexandri-  
ni Michaē-  
lis Nilus  
in Aegypto  
imminutus  
multum.

وكانت وفاة المقتدي منتصف الحرم سنة سبع وثمانين واربع مائة وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وشهورا وعمره ثمانية وثلاثين سنة وثمانية اشهر واياما وسيرته كان عالما دينيا محبا اهل العلم حسن العقيدة محبا اهل الخير شجاعا حارما وله شعر جيد من جملته \*

اما والذي لو شاء غير ما بنا فاهوي يقوم في التريا الي الترا \*

و بدلنا من ظلمة الجور بعدما دجي لبلها صححا من العدل مسفرا \*

لبن نظرت عبي الي وجه غيره فلا صااحت اجفانها لدة الكرا \*

وان تسع رحلي نحو غيرك اوسعت فلا امنت من ان تنزل ان تعثرا \*

والله اني ذلك المخلص الذي عزيز علي الايام ان يتغيرا \*

قال المورخ كانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وخمسة اشهر وخمسة ايام

اولها يوم الجمعة واخرها يوم الجمعة لتقمة اربع مائة وثمانين سنة وخمسة عشر يوما

للهجرة ولتقمة ستة الف وخمسين مائة وخمسة وثمانين واربعة شهور للعالم شمسية \*

والذي ورد تواريخ النصارى انه صبر لهم بطركا اسمه ميخائيل للبعاقبة

علي الاسكندرية وكان حبيسا بسنجار من اعمال نستروه قدم في اليوم

الثاني عشر من بابه سنة ثمان مائة وتسعة للشهدا سنة اثنى وثمانين واربع مائة

للهجرة في السنة الثامنة وخمسين المستنصر صاحب مصر ومات يوم الاحد عبد

النجسين اخر بشنس سنة ثمان مائة وثمان عشرة للشهدا في المعلقة مصر ومده

بطركيته تسع سنين وثمانية شهور وفي ايامه نقص النيل كثيرا فارساه المستنصر

الي بلاد الحبشه بهدايا وتحف كثيرة فتلقاه ملكها وسجد بين يديه وساله عن

سبب قدومه فعرفه ان نيل مصر قد نقص واضر بالبلاد وباهلها فامر ان يفتح

السد الذي يجري منه لما الي الديار المصرية لاجل قدوم البطرك ويزاد النيل



في ليلة واحدة ثلاثة اشراع وتكامل النيل  
ورويت ديار مصر وشرعت وعاد  
البطرك بكرامة عظيمة الى مصر واحسن  
البه الامام المستنصر واخلع عليه

una nocte ad tria brachia, ita ut eo impleto  
campi Aegypti irrigati atque consiti fue-  
rint. Magnoque cum honore redijt Patri-  
archa in Aegyptum & Princeps Mustansir-  
rus beneficijs illi & dignitatibus ornavit.

## CAPVT NONVM.

الغامن والعشرون من الخلفاء العباسيين  
وهو التاسع والاربعون المستظهر  
بالله ابو العباس احمد بن  
المقتدي بن الدخيرة \*

Vigesimus octavus Abbasidarum,  
& Chalifa quadragesimus nonus

AHMEDVS ABVLBASVS  
MVTSA DIRVS BILLA,  
f. Muqtadis, f. Dähyr.



ACTVS fuit ex matre concu-  
bina, eodem die quo pater ejus  
obijt Chalifa renunciatus fuit  
medio mensis Muharrami an-  
ni 487, quo tempore Rex Barkiarukus f.  
Gjeraluddaula Melicsjahi in exercitu suo  
Bagdadi erat, cujus jam imperium ipsi fir-  
mum constabat.

Eodem anno è vita excessit Mustansirus  
Billa Dominus Aegypti media nocte diei  
Iovis, qui erat decimus octavus Dulha-  
gja anni 487, postquam per sexennium fe-  
re imperasset; & inauguratus fuit filius  
ejus Ahmedus Abulcasemus Mustalis Billa  
fil. Mustansiri Billa.

Obiit Mu-  
stansirus  
Billa.

Hoc etiam anno exercitum conscripsit  
Rex Tagjuddaulas contra Icsancarum,  
& cruenta inter eos praelia commissa fue-  
runt, qua à morte Icsancari mense Gju-  
mada priore occisi fama claritatem conse-  
cuta sunt. Tagjuddaulas autem Halebi  
imperium occupavit, statuitque porro  
contendere Iraciam.

Tagjud-  
daulas vin-  
cit Icsan-  
carum.

Anno 488 interfectus fuit Rex Ta-  
gjuddaulas Nisus, idque hac occasione;  
Cum Mustadirus Billa, Chalifatui praefectus  
esset, scripsit Regi Barkyaruco consignatam  
regni autoritatem, eumque vestibus im-  
perialibus, corona torque & monilibus in-  
signivit & aula praeposuit sua. Paulo post  
intellexit Rex Barkyarucus patrum sui Ta-  
gjuddaula contentionem & rebellionem,  
cumque ad se affectare viam; ideoque con-  
tra processit & ad conspectum obvij invi-  
cem facti acriter pugnarunt, ubi Tagjud-  
daulas occisus fuit, ejusque copia fugam ce-  
perunt. quod contigit mense Safaro hujus  
anni. atque ita imperium Regi Barkyaruco confirmatum fuit, & ad ipsum mul-  
tudo hominum confluit. Consilij autem suis praefecit Abdallam Abulbecrum fil.  
regni

Cœpit 10  
Febr. A.C  
1095.

Occiditur  
Tagjud-  
daulas.

ام ولد بويغ له بالخلافة يوم  
توفي والده متنصف المحرم  
سنة سبع وثمانين واربع  
ماية والسلطان بركياروق بن جلال  
الدولة ملكشاه يومئذ ببغداد في  
عساكرة وقد استقر ملكه بها  
وفي هذه السنة كانت وفاة المستنصر  
بالله صاحب مصر في نصف الليل ليلة  
الخميس ثامنة عشرة ذي الحجة سنة سبع  
وثمانين واربع مائة ومدة ملكته نحو  
من ستين سنة وبويغ ولده المستعلي بالله  
بن القاسم احمد بن المستنصر بالله  
وفي هذه السنة احتشد الملك تاج  
الدولة اقسنقر فجرت بينهما حروب  
شديدة انجلقت عن قتل اقسنقر حمادي  
الاولي واستولى تاج الدولة على حلب  
وملكها وعزم على قصد العراق  
وفي سنة ثمان وثمانين واربع مائة  
كان مقتل الملك تاج الدولة نيس  
وسببه ان المستظهر بالله لما ولي الخلافة  
كتب السلطان بركياروق العهد  
بالسلطنة واخلع عليه وتوجه وطوقه  
وسورة وولاية ما وراء اباة ثم بلغ  
بركياروق احتجاج الدولة عمه  
وعصيانه وقصده له فسار اليه فالتقوا  
بقرب الري فاقتلوا قتالا شديدا فقتل  
تاج الدولة وانهم اصحابه وذلك في  
صفر من هذه السنة واستقرت السلطنة  
للسلطان بركياروق واجتمع الناس  
عليه واستوهر ابا بكر عبد الله بن

*Nethamulmelici à Bathyna interfecti tempore Gjelaluddaula. quem tamen postea ab hoc munere rejecit, idque detulit Ali Mudaffiro f. Nethamulmelici. Emiserat autem Rex Tagjuddaulas ante præliū, quod inter ipsum & Barkyarucum contigit, Iosephum f. Arfaci Turcam, ad inaugurationem in urbe Bagdadi obtinendam: Cumque prope ab Vrbe esset, contra eum Chalifa è Senatu Ianitorem obviam misit; sed foras haud processit. ille autem pagos quosdam Bagdadi depopulatus fuit, cumque de ipsa Vrbe diripienda decrevisset, nuntium ipsi allatū fuit Tagjuddaulam interfectum esse; quamobrem Halebum fugā contendit. cumque filio Roduwano, qui Damasci erat, mors patris renunciata esset, Halebum se recepit, idque ingressus subjugavit ut & arcem ejus. cognominatus autem fuit Fecharulmelicus, id est, Gloria regni. Ejusque vestigia secutus fuit frater ejus Decacus Sjemfulmulucus, id est, Sol regum, cognominatus, è tractu Diarbecca cum militum copia tam ex suo quam patris exercitu. Dum vero Halebi apud fratrem Principem Roduwanum subsisteret, perscripsit ad eum Subekinus Elhadimus, qui nomine Tagjuddaula arci præerat Damascena, ut eo veniret ad occupandū Damasci regnum. Itaque Decacus à fratre Roduwano clanculum decessit, qui cum id ipsum rescivisset, cohortem 400 militum à tergo misit, sed eum haud assequabantur. ita ut Decacus Damascum pervenerit, quam tradidit imperio ejus Subekinus Elhadimus & juramento milites ipsi obstricti fuerunt. illum vero Decacus vicariū in regni gubernatione adscivit; sed paulo post eundem interemit, & substituit Ababecū Tabelinum; qui ex servis erat Tagjuddaula, parumque ab eo æstimatus erat, donec illum proceribus prælatum Ianitorem constitueret & in servitio ac fortitudine ejus acquiescens regimen Damasci vicarium ipsi committeret; quam custodivit, vitamque suam populo probavit, habitationis eminentiā & nominis celebritate insignis. præfecerat autem Tagjuddaulas Myafarkinum, illique tradiderat filium suum Principem Decacum cujus gubernationem & educationem eidem comisit; atque ita exvectus fuit Myafarkinus vitam laudabiliter instituens. Tum discessit Ababecus Tabelinus cum Rege Tagjuddaula, prælioque cum interesset,*

Roduwanus Halebum occupat.

Decacus Damascū occupat.

نظام الملك وكان نظام الملك قد قتله الباطنية في ايام جلال الدولة ثم عزل السلطان بركياروق ابا بكر بن نظام الملك عن وراثته وولاه المظفر على بن نظام الملك وكان الملك تاج الدولة قد سهر قبل الوقعة التي وقعت بينه وبين بركياروق يوسف بن ارفق التركي لاقامة الدعوة له ببغداد فلما قرب من المدينة اخرج الخليفة اليه حاجبا من الديوان للقاء فلم يخرج اليه فنهب بعض قري بغداد وعزم على بغداد فورد الخبر اليه بقتل تاج الدولة فهرب الي حلب ولما وردت الاخبار بقتل تاج الدولة الي ولده رضوان وكان بدمشق فسار الي حلب ودخلها وملكها وملكها قلعها وكان يلعب بفخر الملك ووصل على اثره اخوة شمس الملوك دقاق من صاحبة ديار بكر ومعه جماعة من عسكرة وعسكر ابيه فاقام بحلب عند اخيه الملك رضوان ثم وردت كتب سوبكين الحادم النايب بقلعة دمشق عن تاج الدولة الي شمس الملوك دقاق وهو بحلب ان يقصد دمشق لهلاكها فتوجه دقاق سرا من اخيه فبلغ اخاه رضوان الخبر فجهر خلفه سرية فلم يظفر وا به ووصل شمس الملوك دقاق دمشق وملكها سوبكين الحادم واستخلف له الاجناد واستنابه دقاق في تدبير مملكته ثم قتله عن قرب فاقام ابا بك طعبلين كان من ممالك تاج الدولة وخطي عنده حيي قدمه على خواصه واستحجبه وسكن الي خدمته وشهامته واستنابه في تدبير دمشق وحفظها واحسن السيرة في الرعية وعلت منزلته واشتهر ذكرا وولا تاج الدولة ميافرق بن وسلم اليه ولده الملك دقاق واعهد عليه في تدبيره وكفاله فقام ميافرق بن واحسن السيرة ثم توجه ابا بك طعبلين مع السلطان تاج الدولة وشهد الوقعة



الي قتل فيها تاج الدولة واسره اصحاب  
السلطان برككروك وجملوه اليه  
فاعتقله مدة ثم خلاص من الاسر وسار  
الي دمشق فتلقاه الملك شمس الملوك  
دقاق بعساكرة واكرمه وبرد اليه  
الاسفهلاريه الذي كان تولاهها في حياه  
والده واعتهد عليه في تدبير المملكة فعبر  
ذلك علي سويكبن الحادم وكرة مكانة  
الي ان قتل الملك دقاق سويكبن الحادم  
انفرد ابا بك طعبلين بالامور جميعها  
وتزوج بالخاتون صفوة الملك الدقاق  
وفي سنة تسع وثمانين واربع مائة  
خطب فخر الملك رضوان بن تاج الدولة  
صاحب حلب للامام المستعلي صاحب  
مصر ثم قطع خطبته وسببه ان دقاق  
صاحب دمشق خرج بعساكرة الي  
بعض السواحل وخذت دمشق منهم  
وبلغ اخاه الملك رضوان ذلك فسار  
مجدا الي دمشق يجمع عظيم وكان  
ذلك في سنة تسع وثمانين ورحل  
لحصار دمشق فغلقت ابوابها وركب  
الناس الاسوار وقاتلوا فوق حجر  
المنجنيق في راس صاحب الملك  
رضوان فسكن الحرب واستغلوبه  
وعادوا الي الخيم وجاء الملك دقاق  
بجموعه الي دمشق فدخلها فرحل الملك  
رضوان عنها ولم يظفر بقصود وفي قلبه  
من دمشق ما لا يمكن وصفه لانها  
مرياه وقد علم منزلاتها الي تعجز عن  
حقيقتها الافكار وتستوقف في روية  
مدابحها الابصار في كل ناحية  
منها ثم فكاتب الملك رضوان صاحب  
مصر بخطب له بحلب ويساعده علي  
اخذ دمشق من اخيه دقاق فاجابه  
الي ذلك وخطب الملك رضوان المستعلي  
صاحب مصر فلم يتجده ثم قطع  
خطبته واعاد الخطبة لبني العباس  
وفي سنة اثني وتسعين واربع مائة  
كان استيلا الفريج علي القدس لانهم

ubi hic occisus fuit, captivum prehenderunt milites Barkyaruci: hic vero, eum ad se adductū in carcere aliquamdiu detinuit, sed inde postea liberatus fuit, & Damascū petijt; obviamq; ipsi processit Rex Decacus Sjemsulmulucus una cum exercitu suo & honore illum affectit, reddiditq; dignitatem cui præsuerat tēpore patris, ita ut fidei ejus regni administrationem cōmitteret; quod Subekinus Elhadimus egre ferens odium illū prosecutus fuit, donec Rex Decacus Subekini vitā privaret: atq; Ababecus Tabelinus omnibus negotijs præspositus fuit & uxorem duxit Chatunim amicam Regis Decaci.

Anno 489 Roduwanus Fecharumelicus f. Tag juddaula Princeps Halebi inauguravit Pontificem Mustalim Praefectum Aegypti; sed postea abrogata ejus inauguratio fuit; ejusque rei hac causa fuit, quod Decacus Princeps Damasci ad loca quaedam maritima cum exercitu suo egressus erat, ita ut Civitas inde deserta relinqueretur, quod percipiens frater ejus Princeps Roduwanus, quā potuit diligentia cum ingenti agmine Damascum contendit anno 489 applicans se ad obsidium Urbis: ejus aures occlusis portis populus muros conscendit propugnandi causa, saxumque è machina corruit in caput cujusdam è comitatu Principis Roduwani, atque ita sedatum fuit bellum & vincendi cupido, ipsi ad tentoria revertentibus. cumque Rex Decacus venisset cum copijs suis Damascum eamque ingressus esset, castra inde movit Princeps Roduwanus cū propositi haud compos fieret. tantum autem de Damasco conceperat, ut dici haud possit: in hac enim Vrbe educatus erat, ejusque amœnitates cognoverat, quarum veritatem cogitationes haud assequuntur, defixiq; in contemplatione rerum in ea laudabilium oculi undiq; praestringuntur. Scripserat autem Princeps Roduwanus ad Praefectum Aegypti, quod in Halebi regnum sufficeret ipsum, si auxilio veniret ad eripiendā fratri suo Damascum, quā conditionē ille accepit. atque ita Princeps Roduwanus ad Mustalim Praefectum Aegypti imperiū transtulit, qui tamen auxiliū non praestitit; ideoq; & inauguratio illius revocata fuit, redijtque ad Abbasidarum familiam.

Cœpit 31  
Decemb.  
A. C. 1095

Anno 492 occuparunt Franci Hierosolymam ad oras Muslimorum cum maximis copijs

Cœpit 28  
Novemb.  
A. C. 1098

Franci expugnant Hierosolymam.

*copijs egressi. potiti sunt Antiochia & invaserunt Maarrannaam regemque ejus occiderunt. mansitque in potestate eorum usque ad annum 526, quando eandem eripuit illis Ababakus Elsjahydus, cujus miseretur Deus. Inde progressi sunt Ramlam, eamque subjugarunt. hanc autem expeditionem susceperunt anno 491 contententes Hierosolymam, cujus incolas pessimâ clade oppugnarunt; cumque eam occupassent, Iudeos, qui ibi erant, in templo suo congregatos cremarunt. Muslimorum autem supra septuaginta millia mactarunt & diripuerunt ex Sachra ultra quadraginta lampades argenteas, quarum singula pendebant ter mille sexcentas drachmas, præterea furnum argenteum quadraginta librarum, & supra viginti lampades aureas. permansitque Hierosolyma subjecta illis, usque dum in libertatem vindicavit eandem Rex Iosephus Nazirus Saladinus f. Iobi cujus miseretur Deus: idque anno 583 ita ut in illorum potestate substiterit per 91 annos.*

Initium Imperij Regis Muhammedis Ghayatuddini filij Regis Melicsjahi f. Barfelani Salghucidæ.

*Ad Historiam ejus quod spectat, ipse & Sangjarus fratres fuerunt germani; cû vero Gjelaluddaulas obiisset, egressus fuit Muhammedus cum fratre suo Rege Mahmudo, & post pugnam inter hunc & Barkyarucum cum eo trajecit Hamcham ejusque ditiones. sed cum Barkyarucus Bagdadum ingressus esset, redijt Muhammedus Hamcham, ejusque territorij potitus fuit, magnâ ad ipsum multitudine conflente: & regnum ambiens, se ipsum inauguravit: rebusque ejus florentibus exercitus Barkyaruci ad eum egressus una cum eo processit: quod cum Barkyarucus percepisset, ad fratrem suum Muhammedum oppugnandû exiit. Sed Rex Muhammedus legatum Bagdadum misit obtinendæ inaugurationis ergo, quam consecutus fuit mense Dulhigia; præliaque illi cum Barkyaruco fuerunt, quæ Volente Deo commemorabimus.*

Muhammedus regnum Bagdadi obtinet.

Cæpit 17 Novemb. A.C. 1099

Anno 493 venit Barkyarucus Bagdadum ad præcidendum fratris sui Muhammedi imperium & conscriptis collectisque copijs

خرجوا في جموع عظيمة وملكوا انطاكية وهجموا معرة النعمان وقتلوا ملكها ولم تزل بايديهم الي سنة ست وعشرين وخمسمائة فاستنقذها من ايديهم ابا بك الشهيد رحمة الله ثم ساروا الي رمله فلكوها وكان ابتدا خروجهم سنة احدى وتسعين واربع مائة وانتقلوا الي بيت المقدس وقتلوا اهله اشرقتل ثم ملكوه وجمعوا من فيه من اليهود الي كنيسة اليهود فاحرقوه فيها وقتلوا من المسلمين ما يزيد عن سبعين الف واخذوا من الصخرة نيف واربعين قنديل فضة ورن كل قنديل ثلاثة الف وستماية درهم واخذوا ثمن فضة وزنه اربعون رطل ونيف عشرين قنديل ذهب ولم تزل القدس بايديهم الي ان استنقذها منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن ايوب رحمة الله في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فكان مدة مقامها بايديهم احدى وتسعين سنة .

ابتدا امر السلطان غياث الدين محمد بن السلطان ملكشاه بن برسلان

السلجوقي \*

وكان من خبره ان السلطان محمد وسلجركا انا اخوين لام واب فلما توفي جلال الدولة خرج محمد مع اخيه السلطان محمود فلما قاتل محمود فاطعه وبركياروق تحت واماها ولما دخل السلطان بركياروق الي بغداد وملكها توجه محمد الي تحت فاستولي علي اقلها واجتمع عليه خلق عظيم وخطب لنفسه فطمع في السلطنة وعظم شأنه وخرج اليه عسكر بركياروق فصاروا معه فلما بلغ بركياروق ذلك خرج لقتال اخيه محمد وبعث السلطان محمد رسولا الي بغداد للخطبة فخطب له في ذي الحجة وجرت له مع بركياروق اخيه وقايع نذكرها ان شا الله تعلي .

وفي سنة ثلاث وتسعين واربع مائة قدم بركياروق بغداد لقطع خطب اخيه محمد واحتشد وجمع جموعا كبيرة



وخرج للقا اخيه محمد فالتقيا وكان  
قريب من مهدان فكان الظفر لمحمد  
وانهم بركياروق في خمسين فارسا  
وقطعت خطبته واعبدت خطبة محمد  
في رابع عشر رجب ثم اجتمع اليه  
بركياروق خلف كبير فلقيه اخوه  
سنجر بعساكرة فانهم سنجر واسر  
بركياروق ام محمد وسنجر اخويه  
وكان سنجر قد اسر جماعة من اصحاب  
بركياروق فقال بركياروق لام  
اخويه اما اسرتك لبطلق اخي سنجر من  
عنده من اصحابي فاطلق سنجر من كان  
عنده واطلق بركياروق ام سنجر  
وفي سنة اربع وتسعين واربع مائة  
تسلط الفرنج حيفا بالسيف وارسوف  
بالامان وصارت بايد بهم اكثر البلاد  
الساحلية

وفي سنة خمس وتسعين واربع مائة  
كانت وفاة المستعلي بالله صاحب  
مصر يوم سابع عشر صفر وكانت مدة  
ملكته سبع سنين وشهرين ولما توفي  
المستعلي هرب اخوه ابو منصور برار بن  
المستنصر بالله الي نجر الاسكندرية  
ووالها يومئذ افتكهن مملوك الافضل  
امير الجبوش قاضي برار الامانة  
بالاسكندرية وتلقب المصطفى لدين  
الله وبايعه افتكهن على ذلك  
فتوجه الافضل اليه وحاصره الي ان فتح  
الاسكندرية وحبس برار وافتكهن  
ولم يظهر لها خبر بعد ذلك وبيع  
علي بن المنصور بن المستعلي بن المستنصر  
بن طاهر بن الحاكم بالخلافة مصر  
يوم توفي والده المستعلي وعمره يومئذ خمس  
سنين والقهم بامر ولية الافضل امير  
الجبوش واليه الحرب والاموال  
وتدبير الامالك

وفي هذه السنة فارقت الفرنج طرابلس  
وحاصروها اشد حصارا وصاحبها  
يومئذ فخر الملك بن عامر فاستصرخ  
بالمسلمين فنهض اليه عسكر من  
دمشق من عند شمس المملوك دقاق

*magnis contra fratrem processit, obviq̄ue  
invicem facti sunt prope Mahdanum. &  
victoriã Muhammedo obtingente Barkya-  
rucus cum 50 equitibus fugam cepit: ita ut  
regnum ipsi abrogatum ad Mahummedum  
redierit 14 die Ragiabi. Deinde cum Bar-  
kyaruco magna turba se adjunxisset, cõtra  
eum exercitum adduxit frater ipsius San-  
gjarus: quo in fugam coniecto, Barkyaruc-  
us matrem fratrum suorum Muhammedi  
& Sangjari captivã cepit. Sed Sangjarus  
complures Barkyaruci milites jam captivos  
tenebat. Dixit itaque Barkyarucus nover-  
ca sua, ego te captivam abduxi ut frater  
meus, quos detinet, dimittat, quod fecit  
Sangjarus; atque ita Barkyarucus liberta-  
ti restituit matrem illius.*

*Anno 494 Franci Hysam armis, Arsu-  
fam vero pactã securitate occuparunt, po-  
tiorque pars maritimi tractus in potesta-  
tem illorum venit.*

*Anno quadringentesimo nonagesimo  
quinto vita defunctus fuit Mustalis Billa,  
Princeps Aegypti die decimo septimo Sa-  
fari, duravitque imperium ejus septem  
annos & duos menses. Mortuo autem Mu-  
stali fugit frater ejus Berarus Abulmansor f.  
Mustansiri Billa ad Arcem Alexandrinam,  
cui tum praerat Aftekinus servus Afdali  
Stratiarcha: Berarus autem securitatem  
Alexandria promulgavit, unde & Musta-  
fidinus cognominatus fuit: qua de causa  
eum Aftekinus inauguravit. Afdalus au-  
tem ad obsidendum eum se convertit, usque  
ad Alexandria potiretur, & Berarũ cum  
Aftekinõ prebenderet, de quibus postea ni-  
hil perceptũ fuit. Inauguratus vero in Cha-  
lifatu fuit Alis Abulmãsor f. Mustalis f. Mu-  
stansiri f. Thabiri, f. Hakimi in Aegypto,  
eodem die quo pater ejus è vivis excessit,  
atas illius tunc temporis erat 5 annorum.  
Afdalus vero Stratiarcha prepositus im-  
perio ejus & praefectura fuit, bello, opibus  
& regnorum gubernatione ipsi commissis.*

*Hoc eodem anno pervenerunt Franci  
Tripolim, eamque obsederunt quam  
arctissimè, ejusque tum Princeps erat Fe-  
charummelicus fil. Amari; cui, Muslimis  
ab eo in auxilium vocatis, exercitus  
à Damasco succurrit nomine Decaci  
Sjem-*

Muham-  
medus Bar-  
kyarucus  
superat.

Cœpit 6  
Novemb.  
A. C. 1100

Cœpit 26  
Octobris.  
A. C. 1101

Berarus  
frater Mu-  
stalis impe-  
rium ambi-  
ens præhẽ-  
ditur.

Prehendi-  
tur ab Af-  
dalo Strati-  
archa.

Alis Abul-  
mãsor post  
mortem  
patris Mu-  
stalis Cha-  
lifatum ob-  
tinet.

Franci Tri-  
polim ob-  
sident.

*Sjemsummelici & Huscini Henabuddaule Domini Emesse; sed ut cum Francis congressi sunt, in fugam abacti fuerunt.*

Cœpit 15  
Ooçtob.  
A. C. 1102  
Muham-  
medus pro-  
fligatur à  
fratre Bar-  
kyarueo.

Decacus  
potitur E-  
messia.

Franci Ru-  
steno dis-  
cedunt ob  
adventum  
Decaci.

Cœpit 5  
Oçtobris.  
A. C. 1103  
Decacus  
ex toxico  
moritur.

Post eum  
Damaſco  
imperat  
Ababacus.

Franci Ac-  
cam expu-  
gnant.

Anno 496 castra promovit Rex Bar-  
kyarucus in fratrem suum Regem Muham-  
medum qui Isfehane erat, ibique eundem  
obsedit; sed ob pabuli & commeatuſ pen-  
nuriam inde recessit. Rex autem Muham-  
medus digressus militem collegit. Vt tamen  
cum Rege Barkyaruco pralio certavit ver-  
sus Armeniam fugatus fuit, Regique Bar-  
kyaruco mansit imperiũ Bagdadi. Eodem  
anno occupavit Decacus Sjemſuddaulas  
Emessam, idque hac de causa; quia Dominus  
ejus Huscinus Hanahuddaulas Fecharmu-  
luci Roduwani amicus defecerat ad Decacũ.  
Vt vero Roduwani legibus valedixerat, ad  
eum tres à Batyna transferunt, qui in templo  
ipsum die Veneris interemerunt. Cumque  
mors ejus Ababeco Tagtakino & principi  
Decaco nunciata esset; contenderunt ambo  
Emessam, eamq; ingressi sunt & Arcem in-  
vaserunt: quod eodẽ tempore contigit, quo  
Franci pervenerant Rustenum, hoc agitan-  
tes uti Emessam occuparent, sed cum intel-  
lexissent principem Decacum eò venisse,  
vestigia repetentes reversi fuerunt.

Anno 497 diem obiit Decacus Sjem-  
summulucus: rumor erat à matre ejus  
Ababaci Tagtakini uxore ancillam quan-  
dam ministerio ipsius adjunctam fuisse,  
qua toxicum illi prabuisse in racemo uvæ-  
rum, quem ex vite pendulum acu vene-  
no infecta transfixerat. cumque inde co-  
medisset, interaneis corrosis, mortuũ fuisse.  
Post obitum vero Decaci regnum ditio-  
nesque Damasci consecutus fuit Ababacus  
Tagtakinus cognomento Tahiruddinus.

Eodem anno Franci subjugarunt Accam.  
etenim Balduinus qui Hierosolyma potie-  
batur eo copias adduxerat suas: una vero  
cum eo aderant Genuenses Franci navibus  
instructi, ita ut terram marique quam proximi-  
me ad Urbem accesserint: erant enim ibi-  
dem supra nonaginta naves. atque ita un-  
dique eam obsessam gladio tandem expu-  
gnarunt, cui tunc temporis præerat Zah-  
ruddaulas Habasæus nomine præfecti Aeg-  
ypti; sed egressus urbe fugit Damascum  
atque inde in Aegyptum.

وحناح الدولة حسب صاحب حص  
فالتقوا بالفرنج وانهزموا المسلمون  
قال وفي سنة ست وتسعين وأربع  
ماية نازل السلطان بركياروق أخاه  
السلطان محمد باصفهان وحاصرها  
ثم رحل عنها لقله العلف والميرة ومضي  
السلطان محمد وجمع ثم كانت وقعة  
بينه وبين السلطان بركياروق  
فانهزم محمد إلى بلاد ارمينية  
واستمرت الخطبة ببغداد للسلطان  
بركياروق \* وفي هذه السنة استولي  
شمس الدولة دقاق على حص وسببه  
ان صاحبها حناح الدولة حسب كان من  
اصحاب فخر الملوك رضوان فصار مع  
ملك دقاق وخلع طاعة رضوان فندب  
إليه ثلاثة من الباطنية قتلوه يوم الجمعة  
في الجامع ولما قتل بلغ الخبر إلى ابابك  
طغتكين والملك دقاق فسار إلى حص  
ودخلها وتسلمها قاعتها ووافق ذلك  
وصول الفرنج إلى الرستن قاصدين أخذ  
حص فلما بلغهم وصول الملك دقاق إلى  
حص مرجعوا ناكصين على أعقابهم  
وفي سنة سبع وتسعين وأربع مائة  
كانت وفاة شمس الملوك دقاق قيل  
ان امه تزوجت ابابك طغتكين مرتبت  
له جارية سمته في عنقود عنى معلق  
في شجرته فتقبت بآبرة مسمومة فلما  
أكله تهرأ جوفه ومات ولما توفي  
دقاق غلب على الملك بدمشق  
وأعمالها ابابك طغتكين المتلقب ظهير  
الدين

وفي هذه السنة كان استيلاء الفرنج  
على عكا وذلك ان بادوين الذي تغلب  
على القدس الشريف سار بجيوعه إلى عكا  
وكان معه الجنود من الفرنج في  
المراكب فأخذ قرابها برا وبحرا فكانوا  
في نيف وتسعين مركبا فحاصروها من  
جميع جهاتها وملكوها بالسيف وكان  
متوليها يومئذ زهر الدولة الحبوسي من  
جهة صاحب مصر فخرج منها وهرب  
إلى دمشق ثم إلى مصر



قال وفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة كانت وفاة السلطان بركياروق بن ملكشاه بن البرسلان بن داود بن مبيكاييل بن سلجوق صاحب العراق وبلاد العجم وكان عمه أربع وثلاثين سنة بعد أن عهد بالسلطنة إليه ولده جلال الدولة وكان عمه أربع عشرة سنة واقام ايام مملوك ابيه بتدبير ملكه ولما بلغ السلطان محمد وفاة اخيه بركياروق قدم طالبا بغداد فجمع ايام في خمسة وعشرين الف فارس للقائه فاشير عليهم بالصالح فصالح السلطان غيات الدين محمد علي امور تغمرت بينهما ودخل السلطان محمد الي بغداد واستقرت له بها السلطنة فلما استتب امره قضى ايام فقتل وصفت له الدنيا ولم يبق له منارح وخلص عليه امير المؤمنين المستظهر بالله خلع السلطنة فولاه علي ما ورا بابه ☞

وفي سنة احدى وخمسمائة التقى السلطان غيات الدين محمد بن ملكشاه والامير سيف الدين صدقة دنيس بن علي بن يزيد الاسدي صاحب الحلة فقتل بن دنيس وانهرمت اصحابه وكانت مدة امرته اثني وعشرين سنة وكان عمره ستة وخمسين سنة ☞

وفي سنة اثني وخمسمائة كان استيلا الفرنج علي طرابلس بالامان وكان مدة حصارهم لها سبعة سنين وذلك بعد ان في من فيها من شدة الضيقة والجوع والقتل وكان مدينة عظيمة محتلة من المسلمين والعلماء ☞

وفي سنة ثلاث وخمسمائة استولا الفرنج علي حصن عكا وحصن المنطرة وقبر ان يحمل اهل حصن مصباف وحصن الاكراد للفرنج قطبقة مقررة معينة في كل سنة واقام الفرنج علي هذا مدة ثم نكثوا وغدروا ☞

وفيها تسلمت الفرنج بيروت وملكوها بعد حصار شديد ☞

وفيها توفي قراجا صاحب حصن فلانها بعده مصام حرجان ولد قراجا ☞

وفي سنة اربع وخمسمائة تسلمت الفرنج صيدا وهرديا واستعمل امرهم ببلاد الشام

*Anno quadringentesimo nonagesimo octavo obijt Rex Barkyarucus fil. Melicsjahi f. Berselani fil. Davidis f. Michaëlis Salghucides , cui parebat Iraca & terra Barbarorum , postquam vixisset annos 34 filioque suo Gjelaluddaule regnum assignasset , cujus tum atas erat 14 annorum ; regnique gubernationi praefectus fuit Eyadus patris servus . sed cum Muhammedus obitum fratris sui Barkyaruci percepisset , venit petiturus Bagdadum . sed Eyadus 25 equitum millia contra coëgit ; ita ut consultum ipsis visum fuerit inire pacem , quæ certis conditionibus inter ambos stabilita fuit . Ingressusque Rex Muhammedus Bagdadum fuit , ubi cum imperium ipsi confirmatum foret , Eyadum apprehendit atque interemit . atque ita ipsi subditi paruerunt nemine adversante , eumque inauguravit Imperator fidelium solennitate regali & aula eundem praefecit sua .*

Cœpit 13 Septemb. A. C. 1104  
Barkyarucus moritur.

Succedit filius Gjelaluddaulas.

Muhammedus regno potitur.

*Anno 501 Rex Muhammedus Gayatuddinus fil. Melicsjahi congressus fuit cum principe Sadeca Seifuddino f. Denise f. Alis f. Ieridi Elafdeo , qui imperabat Hella . sed ut interfectus fuit , socij ejus fugam cepere : substitit autem imperium ejus 22 annos , ejusque vita 56 annos .*

Cœpit 22 Augusti. A. C. 1107  
Rex Muhammedus cedit Principem Sadecam.

*Anno 502 Franci urbis Tripoli , promissâ incolis salute , potiti sunt , post septennij obsidionem , propterea quod perissent , qui in ea fuerant , pra nimia angustatione , fame , atque internectione . Erat autem urbs magna & referta Musliminis & viris eruditis .*

Cœpit 11 Augusti A. C. 1108  
Franci Tripolim subjugant.

*Anno 503 Franci arces occuparunt Acadû & Minattaram , pactumque fuit ut incolæ arcium Mesijasa , & Acradi Francis quotannis tributum certum corâ afferrent . in eoque Franci aliquandiu cum substitissent fœdus ruperunt circumventione utentes .*

Cœpit 31 Iulij A. C. 1109.  
Franci arcibus quibusdam tributum imponunt.

*Eodem anno post arctum obsidium Franci subjugarunt Berytum .*

Berytum capiunt.

*Eodem anno è vita excessit Coragja Princeps Emessanus , cujus imperio successit Samson Harbanus filius ipsius .*

Coragja princeps Emessæ obit.

*Anno 504 expugnarunt Franci Sidona , & Rardijam usque regnû in Syria feliciter*

Cœpit 20 Iulij A. C. 1110.  
Francorû in Syria regnum floret.

proce-

proceſſit, univerſus enim littoris tractus in poteſtate illorum erat, quam ob rem Rex Muhamed Gayatuddinus virum quendam nomine Mududum, ad bellum ijs inferendum excitavit, qui cum Damasco appropinquaret Batijna eundem obrutum ſuperavit & interemit, quod accidit anno 505.

**Cœpit 17 Junij. A. C. 1113.**  
**Rodu- wano mortuo ſuccedit fil. Tagjud- daulas.**  
**Lulus Bag- dadum oc- cupat.**  
 Anno 507 è vita migravit Rex Rodu- manus Fecharmuluci f. Regis Tagjuddaule f. Niſi f. Barſelani f. Davidis f. Michælis f. Salghuci Princeps Halebi. ceſſitque dein- de imperium filio ipſius Tagjuddaule, qui cognominatus erat Abraſus. quo anno 508 occiſo arcem Halebi, atque urbem occupa- vit Lulus famulus Tagjurruouſe f. Gje- lali, dediditque imperium Rex Sjabus fil. Rodowani.

**Cœpit 27 Maij. A. C. 1115.**  
**Ababacus Bagdadum venit.**  
 Anno 509 Ababacus Tagtakinus Domi- nus Damasci petijt Bagdadum, ut ſervi- tium offerret Chalifæ Muſtadiro Billa, & Regi Muhammedi Gayatuddino, qui poſtquam eum honore & dignitate affece- runt anno 510 Damascum reverſus fuit.

**occiditur Lulus.**  
 Eodem anno vita privatus fuit Lulus Princeps Halebi prope Balifum; diſceſſerat autem Halebo, qui arcis Gjaſari compos fieret: poſt eum vero arcem Halebi tenuit ſcriba exercitus Abumæalis f. Melehi.

**Cœpit 5 Maij A. C. 1117.**  
 Anno 511 venit Halebum in poteſtatem Principis Bulgari f. Aryci, qui imperio ejus per quinquennium præfuit.

**Obit Ga-ijatuddinus**  
 In eundem annum incidit obitus Regis Muhammedis Gayatuddini f. Melicſjahi Salghucida, idque iſfehane mense Dulha- gja, poſtquam ad 37 annos ejus vita duraſ- ſet, filioque ſuo Mahmudo Abulcaſemo re- gnum conſignaffet, relinquens in theſauris 11000000 aureos & tantundem ex ſuppel- lectile & mundo. Oratumque pro filio ejus Bagdadi fuit die Veneris, qui erat 23 Mu- harrami, anni 512.

**Cœpit 24 Aprilis A. C. 1118.**  
**Obit Cha- lifa Muſta- dirus Billa.**  
 Anno 512 mortuus fuit Muſtadirus Bil- la Imperator fidelium, idque 23 Rabij po- ſterioris, poſtquam Chalifatui ad 24 an- nos & tres menſes præfuiffet, & 41 annos cum aliquot menſibus vixiffet. ita ut inter mortem Regis Muhammedi & Chalifæ

وصاربت جميع سواحل بايدهم فجهد السلطان غيات الدين محمد لحرهم رجلا يقال له مودود فلما وصل الى دمشق وثب عليه الباطينة فقتله وكانت مقتله في سنة خمس وخمماية ٥٠٥  
 وفي سنة سبع وخمماية كانت وفاة الملك فخر الملوك رضوان بن الملك تاج الدولة نيس بن البرسلان بن داود بن ميكايل بن سلجوق صاحب حلب فلما بعدها ولده تاج الدولة المعروف بالاحرس وقتل في سنة ثمان وخمماية فتسلم قلعة حلب والمدينة لولون خادم تاج الرون سا بن الجلال واسلم المملكة السلطان شاه بن رضوان ٥٠٦  
 وفي سنة تسع وخمماية سار ظهر الدين ابا بك طغتكين صاحب دمشق الى بغداد لخدمه الخليفة المستظهر بالله والسلطان غيات الدين محمد فاكرماه واخلى عليه ثم مرجع الى دمشق في سنة عشرة وخمماية ٥٠٧  
 وفيها قتل لولون صاحب حلب قريبا من بالس وكان قد توجه من حلب مريدا قلعة جعفر فجلس بقلعة حلب بعده كاتب الجيش ابن معالي بن المحلي ٥٠٨  
 وفي سنة احد عشر وخمماية سلت حلب للامير بلغاري بن اريق فاقام متحكما لها خمس سنين ٥٠٩  
 قال وفي هذه السنة كانت وقاه السلطان غيات الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي وذلك باصفهان في ذي الحجة وعمره سبعة وثلاثين سنة بعد ان عهد بالسلطنة لولده ابو القاسم محمود بن محمد وحلف في خزاينه احد عشر الف الف دينار ومن العروض مثلها فخطب لابنه السلطان محمود ببغداد يوم الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة اثني عشر وخمس مائة ٥١٠  
 قال وفي سنة اثني عشر وخمماية كانت وفاة المستظهر بالله امير المؤمنين وذلك لسبع بقين من ربيع الاخر وكانت وكان عمره احد واربعين سنة وشهور

Musta-



المستظهر بالله اربعة اشهر وايسام سبوتة  
رضي الله عنه كرم الاخلاق لين  
الجانب سخي النفس محب للعلم منكر  
للظلم فصيح اللسان وكثير الصدقات  
قال المورخ ان مدة خلافته خمسة  
وعشرين سنة وثلاث اشهر وسبعة ايام اولها  
يوم السبت واخرها يوم الاثنين لثمة خمس  
ماية واحد عشر سنة وسبعة اشهر ويومين  
للهجرة ولثمة ستة الف ستماية تسعة وستين  
سنة واحد عشر شهر وتسعة عشر يوما  
شمسية للعالم

والذي ورد تواريخ النصارى ان  
قدم لهم بطر كاسه مقاري عيد  
الاسكندرية للبعاقبة في السنة الثانية  
من خلافة الامر بالله صاحب مصر  
وكانت تقدمته بدير ابي مقار يوم  
الاحد ثالث عشر هاتور سنة ثمان مائة  
وتسعة عشر للشهدا الموافقة لسنة ست  
تسعين واربع مائة للهجرة وكمل  
بالاسكندرية يوم الاحد حادي عشر  
كهبل وعاد الى مصر يوم السبت الرابع  
والعشرين منه ولم يقدس بها ثم عاد الى  
دير ابي مقار وقدس فيه يوم الاحد ثالث  
وعشرين طوبة ثم عاد الى مصر وقدس في  
كنيسة المعلاة يوم الاحد اخر طوبة  
قال وحدث في مصر زلزلة عظيمة يوم  
الجمعة ثالث طوبة سنة ثمان مائة وثمانية  
وعشرين للشهدا في الثالثة من النهار  
وفي تلك الليل هدم الافضل امبر  
الجيوثس كنيسة بالحيرة وادعي ان  
الزلزلة هدمتها واقام البطر ك مقاري ستة  
وعشرين سنة واحد واربعين يوما ومات  
في ليلة الثالث والعشرين من كهبل سنة  
خمس واربعين وثمان مائة للشهدا وخلي  
الكرسي بعده سنتين وشهرين وهذا  
البطر ك ابطل عوايد كثيرة منها الجور  
وجعله في الكنيسة ساعة الاهليل  
وكان يقال التهليل في القديس بعد  
قراءة الابركسيس فاذا حضر الشمس  
صاحب القديس قبل ذلك ترك الشمس المقدس وكمل صاحب القديس قداسه فجعل  
التهليل قبل قراء الكتب ويكون الشمس المبتدي بالقديس مستمر الى كماله

*Mustadiri Billa intercesserint 4 menses & aliquot dies. quantum ad mores ejus spectat, erat insignis animi dotibus, comis in conversatione, inque liberalitatem naturâ propensus, viros eruditos diligebat, & iniquitates prohibebat, linguâ disertus erat, & multus in eleemosynis.*

*Inquit Chronologus Chalifatum ejus duravisse 25 annos, 3 menses, & 7 dies: quorum primus erat dies Sabbathi, & ultimus Lune, ad complendos annos solares ab Hegira 511 menses 7 & 2 dies: à mundo verò condito annos solares 669, menses 11 cum diebus 19.*

*Prout autem referunt Chronica Christianorum, Iacobitis Alexandriae praefectus fuit Patriarcha Macarius anno 2 imperij Amri Billa Principis Aegypti, collata illi praefectura fuit in Monasterio Abulmacari, die Solis 13 Haturi: anno 819 Martyrum; qui convenit cum anno 496 Hegira. Alexandriae vero confirmatus fuit die Solis 11 Cahyli; reversusque fuit Misram die Sabbathi 24 ejusdem mensis, neque tamen ibi sacra fecit: redijtque in monasterium Abulmacari, ubi sacris functus fuit die Solis 13 Tuba. dein se iterum recepit Misram, ubi rem sacram administravit in templo Muallacano die Solis ultimo Tuba.*

*Contigit in Aegypto terramotus ingens die Veneris 3 Tuti anno 828 horâ diei 3. Ea nocte Asdalous Stratiarcha destruxit templum Harija & divulgavit id ex terremotu accidisse. Substitit vero Macarius 26 annos, & 41 dies, diem obiens suum noctu 23 Cahyli anno 845 Martyrum: & vacavit post eum Patriarchatus annos 2, & totidem menses. Hic vero Patriarcha multos abrogavit in Ecclesia ritus, quemadmodum suffitus, & positam in Ecclesia horam Alleluja, qua dicebatur in rei sacrae administratione post lectionem Actorum; ita ut cum Minister Sacrificio adesset ante intermitteret sacra, qua Sacrificus absol-vebat. ordinavit itaque Allelujam ante lectionem librorum, & Minister rem divini nam exorsus eidem ad finem usque insistebat.*

mores ejus.

Macarius Alexandriae fit Iacobitarum Patriarcha.

Terramotus in Aegypro.

Macarius ritus ecclesiasticos mutat.

Hic vero Patriarcha abrogavit consuetudines multas; atque inter alias Hauris qui suffitum, eumque constituit in Ecclesia fieri, horâ hymni: qui quidem die solebat in Liturgia post Lectionem Actuum Apostolorum. Cumque adveniret Diaconus qui Liturgiae ex officio suo ministrare debebat, ante horam illam, Diaconus qui tunc sacro ministrabat, locum ipsi relinquebat, alter Liturgiam perficiebat, seu ad finem usque illius, ministerio suo fungebatur. Constituit igitur ut hymnus diceretur ante lectionem scripturarum, utque Diaconus qui Liturgia incipiente ministrare, coepit, eidem ad finem usque insisteret.

Prospora autem seu oblatio non involuebatur, iussitque Macarius ut hoc deinceps fieret.

Renaudot. Christiani cuiusdam Mercatoris Historia.

at qui oblatione fungebantur non inclinabant sese; ille vero, ut fieret, precipiebat.

Tempore Amri Biamrilla venit à Tecria Christianus quidam Mercator Syrus, cui nomen Tybo erat fil. Iosephi, qui sarcinas secum advenit vestium Attalicarum, stolasque sericas confectionis indicæ atque arabicæ, easque diversorum generum; & Chalifæ ex optimis obtulit, quæ illius similes decebant, qui propterea honore eum & beneficentia compensavit: illumque ut coram se venire iussit, oratione ipsius & doctrina multum delectatus fuit: ita ut locum illi in Aegypto imperaverit, ubi commercium ejus à tributis immune foret. ideoque illi benevolè concessit pagum quendam è ditio- ne Husæ vicinum Dimaso, cui Buhidæ nomen erat. Tybus autem Elcahiræ commoratus fuit usque ad obitum Chalifæ Amri Billa. unde commigrans Sanmutia sedem fixit, atque ex incolis ejus uxorem duxit, ex qua filium suscepit cui Carwynæ nomen indidit; diemque ut obiit suum in templo Sanmutiæ sepultus fuit. filius vero illius adolescens notariatus studuit arti & Curia operam locavit suam, filiumque genuit, quem de Avi nomine Abultybum appella- vit, qui Notarius quoque industrius evasit & gnarus; ita ut Elcahiram se ad Proceres reciperet, quibus inserviebat frequens: cum vero ingenium ejus & præstantiam opera perspexissent, in servitium Senatus Arabici eum adscivere; ad quem ut venit, 7 annos & aliquot menses ibidem versatus fuit, agriculturæ tamen & pecuaria incumbens; ita ut conditio & res ejus conspicua celebri- que evaderet, nam opes illius erant 20000 aureorum, vendiditque omnia quæ in pecore, alijs possessionibus & muneribus tenebat, & summam inde proveniente- secum transportavit. eâ sententiâ, ne officio Curia incumberet, neque etiam docuit liberos artem notariatus. Etenim erant illi quinque filij, ex quibus 4 Episcopatu functi sunt; natu vero minimus Abulmecarimus pecoribus gaudebat, sementibus & apiarijs, & quidem alveorum numerus millenarium excedebat. duxit autem uxorem sororem Simeonis Macijni f. Calijli f. Macaræ è familia Michaëlis Basjuvi: quia pagus ille antiquitus Basjuva dicebatur, eratque in eo templum cognomine Michaëlis:

وكان الأبرسغارين لا يطوي فامر ان يطوي

قال وفي أيام الأمر بالله قدم من تكريت رجل نصراني سرياني تاجر اسمه طيب بن يوسف ومعه أجمال كثيرة من الثياب العتالي والأبراد الحرير عمل الهند واليمن وأصناف كثيرة فقدم للخليفة من أجودها ما يصلح لمثله فخلع عليه وأحسن عليه وعوضه عن تقدمته واستحضرة فأعجبه كلامه وأدبه فأمره بالمقام بمصر ورسم بان يسمح بها على متاجرة من الحقوق وأنعم عليه بقرية من أعمال الحوف اسمها بهيدة مجاورة لدماص فأقام الشيخ طيب بالقاهرة المحروسة الي ان مات الخليفة الأمر بالله فانتقل وسكن سفوطية وتزوج من أهلها ومترق ولدا سماه قروينة ومات الشيخ طيب ودفن بكنيسة سفوطية وانتشا ولده قروينة واشتغل بصناعة الكتابة وتصرف في الخدم الديوانية ومترق ولدا سماه ابن الطيب باسم جده وكان كاتباً حادقاً لببياً ورجل إلى القاهرة واجتمع بالأكابر وخدمهم وتردد اليهم فلما رآه علقه وهدقه وحسن تصرف استخدموه صاحب ديوان العربية فخرج اليها وأقام بها سبع سنين واشهر ومرغم في الزراعات وكثرة المواشي وظهر حاله واشتهر امره وماله عشرين الف دينار فاباع جميع ما يملكه من المواشي والأمولاك والأتوات وحمل المبلغ والزعم انه لا يتصرف في الخدم الديوانية ولا يعلم أولاده صناعة الكتابة وكان له خمسة أولاد فصار منهم أربعة أساقفة واصغرهم ابو المكارم كانت له مواشي وزراعات وخلايا تحمل تزيد على الف خلية وتزوج اخت المكين سمان ابن كلبل ابن مغارة من اهل ميكايل بشو لان اسم القرية قديم بشو وكانت بها كنيسة على اسم ملال ميكايل

quod



وكانت جماعة النصارى الجاورين  
المتردد بين اليها ويقولون نروح الي  
ميكائيل بشى فاشتهرت القرية بهذا  
الاسم وكان سمان كاتباً حادقاً  
وتقلبت به الخدم فخدم بديوان الجيش  
في ايام الناصر صلاح الدين يوسف بن  
ايوب في سنة تسع وستين وخمسة مائة  
وقيمر عنده واعطاه اقطاعاً في حجران  
واسقى بديوان الجيش سنة ثلاث وترك  
الخدمة في الدولة العادلة وترهب بدير  
ابن يحيى القصر بديره الاسعق بادي  
هيب وحبس نفسه في موضعه بناها  
في وسط الدير مدة تزيد عن ثلاثين سنة  
وكانت سيرته فاضله وامره مشهور  
واولد ابى المكارم المذكور بن بى  
طبيب ثلاثة اولاد النخبى ابى الفضل  
والعبد بن الباسر والد المورخ والمخلص  
ابى الزهر وتوفيت زوجته فترهب وتوفي  
في سنة ست وسمايه واستخدم العبد بن  
الباسر في ديوان الجيش موضع خاله  
المكين سمان وكانت سيرته ببن  
العالم مثل سيرة الرهان القديسبن الذي  
في البراري وكان اكثر ايامه صاماً  
وصلواته لا يقطعها في اوقاتها وهو مباشر  
شغله في الديوان وكان يتصدق بها  
ويفضل من ضروراته ولا يدخر شياً وقهر  
عند الملك العادل سبع الدين ابى بكر  
بن ايوب بالرياسة والامانة حتى ان شاهد  
الحران بن سى الدولة مرض وانقطع وقال  
الملك العادل ان يكون العبد عوضه  
حتى يتعافا واقام بديوان الجيش خمسة  
واربعين سنة ومات في صفر سنة ست  
وثلاثين وسمايه نبيح الله انفسهم الجيع  
وهذا اوردا على حكم التاريخ لا على  
حكم الافتجار فان الكتاب يقول  
من افتخر فليفتخر بالرب

lat non autem jactantia ergò. dictat enim nobis liber, quicumque gloriatur, gloriatur in Domino.

quod Christianorum qui vicini erant cœtus  
frequenter adibant, dicentium, contendamus  
ad Michaëlem; eoque nomine incla-  
ruit pagus ille. Erat autem Simeon Nota-  
rius industrius, quo ministri familiariter  
utebantur; nam & ipse ministerio Senatus  
bellici operam navabat, & quidem tempore  
Iosephi Saladini f. Iobi, anno 569. à quo  
sustentatus fuit & donatus tributis quibus-  
dam in Hagirawana. substititque per tri-  
ennium in Senatu bellico, & ministerio fa-  
milia Adalijorum valedixit, & religionē  
suscepit in Monasterio Iohannis Cazyri in  
deserto Askijto nempe in valle Habjba, se-  
que ipsum loco cuidam inclusit, quem in  
medio monasterij construxerat, per spatium  
30 annorum & amplius: vitam autem in-  
signem egerat, & preclara in re fuerat.  
Genuit autem Macarimus ille f. Tybi 3 fi-  
lios Abulfadlum Elbuchidum, Abuljasirum  
Elaamidum patrem Chronologi, & Abul-  
zahrum Elmuchalisum; mortua autē uxore  
vitam religiosam egit, mortuusque est an-  
no 606. Abuljasirus autem Elaamidus in  
ministerium Senatus bellici loco avunculi  
sui Simeonis Elmacyni, cum monachalem  
ordinem ingressus esset, susceptus fuit, vi-  
tamque in mundo duxit Heremitarum mo-  
re: potiorempartem temporis jejunando  
& statis precibus intentus exegit. Curie  
autem operam impendebat suam, qui elec-  
mosynā inde exerceret, & partis bene me-  
reretur, neque enim reponebat quidquam  
in thesaurum, vitamque toleravit apud Re-  
gem Abubecrum Elaadilum Seijfuddinum  
f. Iobi; donec presente Harano f. Senjddau-  
le morbo correptus & extinctus fuit: di-  
xitque Rex Elaadilus se retributione ab  
Elaamidō affectum fuisse, quamdiu bene-  
fecisset ipsi. in Senatu autem bellico per 45  
annos versatus fuit, mortuusque mense Sa-  
faro anni 636: eorum omnium animas  
quiete Deus beare velit, & hoc quidem re-  
latum est, prout Chronologie ratio postu-  
lat non autem jactantia ergò. dictat enim nobis liber, quicumque gloriatur, gloriatur in Domino.

FINIS.

RODERICI



# R O D E R I C I

X I M E N E Z

A R C H I E P I S C O P I

T O L E T A N I

Historia Arabum.

*Incipit prologus in Historiam Arabum.*



**Q**UAE calamitatum haecenus Hispania dispendia sit  
perpeffa, in superioribus, vt licuit, explicauit. Nunc  
de excidijs Arabum; quæ vtinam sint postrema, à  
quibus nihil fuit in Hispanijs intentatum, finem  
imponere dignum duxi, si diuina potentia velit de  
cætero à gladiatorum dissecationibus custodire: quæ  
iam à quingentis triginta duobus annis & vltra, re-  
petito gladio dissecata, nec à filijs euasit viscerum  
sectionem: nunc v<sup>o</sup> videlicet regibus dispersita, ab  
eis & transfugis ad Sarracenos intestini vulneris supplicia non euasit. Ve-  
rum Diuina clementia miserante, à tempore nobilis Aldefonsi, qui prope  
Bulche Amiramominum cum Arabibus campestri prælio effugauit, &  
Arabum gladius hebetatus, & Gothorum strenuitas restituta, talionis se-  
mitas aperuit, & sicut à principio Christianos incolas sub tributi onere  
coegerunt, sic modo restitutis munitionibus principibus Christianis, de-  
gunt seruitute solita sub tributo. Eorum itaque successiones, & tempora  
volens posteris conseruare, eorum exordium à Mahometi tempore in-  
choauit; qui eorum sectæ fuit conditor & inuentor, de eius origine, prædi-  
catione, & regno, ex relatione fideli, & eorum scripturis, ad detegendam  
gentis illius sæuitiam, & versutiam, satis breuiter explicauit. Aduertat au-  
tem lectoris studium, qualiter mentita reuelatio versuti hominis Maho-  
meti ex corde finxit virus pestiferum, quo libidinosas animas, quasi nexi-  
bus colligauit: ut discant paruuli à fabulis abstinere, & Adæ funiculis  
colligari, & trahi vinculis caritatis.

A

CAPVT



## CAPVT PRIMVM.

## De exordio &amp; origine Mahometi.



**A**NNO Leuegildi regis Gothorum nono, era sexcentesima prima, in villa qua Iatrib dicitur, prope Mecham, erat homo Ali nomine, Mahomet nalcitur, filius Abdelmutalib, & uxor eius Emina: nomen Patris Emina Hayab, & matris eius Halima: qua concepit & peperit filium, quem uocauit Mahomet. Et cum Arabia & Africa inter fidem Catholicam & haeresim Arrianam, & perfidiam Iudaicam & Idololatricam diuersis studijs traheretur: Arabs praedictus Ali, familiaritate cuiusdam Iudaei, qui erat geneaticus, inter fidem Catholicam, & Iudaeorum perfidiam fluctuabat. Cumq; Emina concepisset, facta est sterilitas magna per totam Arabiam, adeo ut pane deficiente, herbis duntaxat syluestribus uescerentur. Cum autem tempus partus Emina aduenisset, Iudaeus ille, ut erat geneaticus, captauit consistentiam planetarum, & horam natiuitatis infantis. Ali autem in sanctam Hierusalem iuerat ad orandum, & rediens inuenit filium suum natum: & quicquid ille geneaticus de infante perceperat, reuelauit, & praedixit eum in regno & Lege mirabiliter exaltandum. Ali autem apud Iatrib post tempus modicum vitam finiuit. Cum autem esset infans annorum quatuor, ut ipse mentitur uenerunt duo Angeli, & siderunt cor eius, & extraxerunt inde coagulum sanguinis denigrati, quod postea niuis lauacro abluerunt, & ponderauerunt cor eius cum decem cordibus gentis suae. Post cum mille, & maioris ponderis est inuentum. Et vnus Angelus dixit alteri, si cum omnibus Arabibus in trutina poneretur, omnibus praeualeret. Haec mentitur se in uisione à Gabriele angelo audiuisse. Cum autem esset annorum quinque, mater sua tradidit eum auia suae Halimae nutriendum.

Gravitas  
cordis Ma-  
hometi,

## CAPVT SECVNDVM.

## De Institutione, &amp; prima ostensione Mahometi.

**A**NNO septimo mater sua recepit eum, & se transtulit ad propinquos, & post paucos dies ibi mortua fuit Emina mater eius, & suscepit eum alia mulier, qua Daymen dicebatur, & transtulit eum in Mecham. Octauo anno mortuus est Abdelmutalib auus eius, & recepit eum Abutalib patruus eius in curam: & iste tradidit eum praedicto geneatico instruendum, qui instruxit eum in Naturalibus scientijs, & lege Catholica, & Iudaica perfidia documentis: Vnde & ipse postmodum aliquid de fide Catholica, aliquid de Lege veteri in sua secta subsidium usurpauit. Cum autem esset Mahomet annorum tredecim, Abutalib duxit eum in Hierusalem, eo quod templum sanctimoniae erat ibi. Mahomet autem cum ad annos adolescentiae peruenisset, & in doctrina Noui Testamenti ac Veteris, & Naturalis scientia profecisset; iterum fame Arabiam opprimente, ipse ad cuiusdam diuitis uiduae, qua Adeya dicebatur, familiam se conuertit, & circa operationes domesticas industrius est inuentus: & ea qua uehiculi onere abducebat, reduci saenore sibi gratiam & uiduae diuitias cumulabat, & factus est in oculis uiduae gratiosus adeo, ut eum in filium adaptaret. Cum autem esset annorum viginti quinque, duxit

Mahomet  
vxo-  
res du-  
cit.

Lapis ni-  
ger à Ma-  
homete re-  
ponitur.

باب صابا

باب صابا

Mahomet  
docere  
incipit.

duxit uxorem, quæ Abdiga dicitur, & demum etiam viduam, quæ eum exhibue-  
rat, superduxit, & procedente tempore alias cumulauit. Ita quod octodecim vxo-  
rum libidine, imo adulterio, fœdabatur. Prima autem causa suæ ostensionis in  
Arabia sic euenit. Ecclesia nobilis apud Mecha inundatione fuit penitus dissi-  
pata, in qua erant formæ argento, & auro & pretiosis lapidibus decorata, quam Se-  
niores Mecha cupientes vnanimiter reparare, nauem regis Aegypti Christiani, qui  
in Aethiopia Ecclesiam cœperat adificare, oneratam lignis in Arabia littore acce-  
perunt, & ex istis lignis deiectam Ecclesiam repararunt, quæ Alchaba dicebatur.  
Et cum esset Ecclesia consummata, erat lapis niger angulo apponendus, quem etiam  
hodie Arabes ob reuerentiam osculantur. Cumque maiores populi dissiderent quis  
consummationis lapidem adaptaret, ultimo conuenerunt, ut qui primus in porta,  
quæ Baysaba dicebatur, appareret, ille lapidem collocaret. Accidit autem Mahomet  
per portam prius ceteris aduenire, & consenserunt ut ipse esset dicti lapidis coapta-  
tor, & ipse extendens chlamidem texit petram, & vocatis ad se quatuor de Coraxi-  
nis tulerunt lapidem ad structuram, & ipse ut cæmentarius collocavit, & vide-  
runt omnes, & miraculum reputarunt. Et cum omnes crederent esse Prophetam,  
inquit, quidam. Cum tot seniores & viri probabiles in vestro Concilio habebantur,  
miror quare hunc ad hoc iuuenem omnibus pratulistis, & iurans, & interminans,  
hic sine dubio nos disperdet. E contrario alij resistebant, dicentes à diabolico sic locu-  
tum. Viri autem seniores & populus reparatam Ecclesiam iuxta dignitatem pri-  
stinam ornauerunt: & tunc Mahomet suavitatis eis, ut semper versus illam Eccle-  
siam adorarent. Erat autem Mahomet annorum triginta quinque. Post hæc  
Mahomet fecit moram per quinquennium apud Mecha, & ibi mul-  
tis dissensionibus cum his qui erant de genere Coraxi, & idola adorabant  
frequentius concertabat, vnum Deum tantummodo predicans adorandum.  
Sed quia illi potentia præminebant, eum à Mecha in Iatrib fugere  
compulerunt.

### CAPVT TERTIVM.

#### De prædicatione & rebellionem Mahometi.

Mahome-  
tis fuga.

Lex.

POST quinque autem annos, cum esset annorum quadraginta, Mecha  
intrauit, & ibi latuit per tres annos, volens se ostendere prophetam, & ibi  
mentitur sibi datum ab Angelo librum, qui dicitur Alcoranus. Et quia ad-  
huc Mecha pro maiori parte à Coraxinis idolorum cultoribus tenebatur, ipse  
quasi humiliter cedens, in villam suam Iatrib declinauit, & postea resumptis viri-  
bus, intrauit Mecha, & eos qui erant de genere Coraxi, & ei restiterant, vi &  
potentia captiuauit: & quasi imperans dixit eis: Quid de vobis faciam? At  
illi dixerunt, Bene, quia estis largus & curialis. Et ipse continuo dimisit eos, &  
deinceps humiliter subsuerunt. Tunc præcepit ut in turribus, ubi consueuerant  
campana pulsari, Sarracenus quispiam proclamaret: sicut & adhuc hodie procla-  
matur à cultoribus sectæ suæ. Præcepit etiam ut in mense Ramadan ieiunarent tri-  
ginta diebus, & alijs triginta diebus, in mense qui dicitur Almoharram, & do-  
num, in qua ipse natus fuerat, fecerunt mequitam.

Anno autem Imperatoris Heraclij septimo, & Sisebuti regis Gothorum quinto,  
natiuitatis suæ quadragesimo Mahomet vidualibus diuitijs inclitatus, & falso  
miraculo lapidis à pluribus approbatus, cepit grandia cogitare, & rebellia contra



Romanorum Imperium predicare; & clanculis suasionibus populos concitare, offendens eis qualiter seruitutis amaritudine premerentur, & exinaniti censibus, & tributis, paupertate continua vexarentur, & sola ignauia tenebantur, cum vi & numero possent repellere potentiam Romanorum.

CAPVT QVARTVM.

De Victoria Mahometi contra Romanos.

**C**VM QVE plurimis taliter suafisset, accidit quod Heraclius Imperator mitteret nuntios pro tributis: sed Mahomet cum suis complicibus hoc prænoscens eis occurrit, & negatis tributis, fultus audacia, interfecit: & sic assumptis viribus interdum furtim, interdum publicè, prout negotium exigebat, Syriam, Arabiam, & Mesopotamiam, fraude potius, quam virtute, suo proposito inclinavit: & adeo ciuitates, & oppida stimulanit, ut iugo seruitutis abiectò, iam aperte inciperent rebellare. Eisdem diebus Heraclius somniavit, quod mures è terra nascentes, sibi extrema vestium corrodebant: & tunc misit amplio rem exercitum cum Theodoro fratre suo: sed victi ab exercitu Mahometi ad Heraclium redierunt, amplio rem exercitum collecturi. Tunc Heraclius fratri suo Theodoro visionem marium reuelauit, & restaurata multitudine bellatorum, Romanorum exercitus cum Theodoro iuit contra exercitum Mahometi. Sed adeo inualuerat rebellium multitudo, quod Romanae legiones verentes à facie Mahometi ad Gabatam oppidum secesserunt, rebellium exercitu subsequente, ubi pugna & periculo crebescente, succubuit exercitus Romanorum, & Theodoro interfecto, ceteri strage & gladio perierunt, præter paucissimos, qui fuga & latebris euaserunt, & ex tunc fuit iugum Imperij Romanorum excussum à ceruicibus Sarracenorum.

CAPVT QVINTVM.

De sublimatione Mahometi in Regem, & de Iussionibus mendaciter excogitatis.

**E**T continuo superba victoria eleuati, Damascum adeunt nobilissimam, & regiam Syriae ciuitatem, in qua attendentes, quam per eum fuerant adepti libertatem, cum in regem & principem elegerunt, & regni solium concesserunt. Quo adeptò, verens Mahomet ne de populis sibi subiectis, qui Christianis legibus subiacebant, Romano Pontifici obedirent, & reconciliati Imperio adhererent, legem statuit inuenire, qua, quasi funiculis, peccatorum damandas animas colligaret, cæpit q̄ fabulis detestandis seducendas animas demulcere. In eius secundo libro reperitur inscriptum, quod Mahomet insidebat vni bestia, quæ dicitur Alborach, & proponebat pedem posteriorem super pedem anteriorem, & talibus bestijs propheta consueuerunt insidere: & intali Mahomet Hierusalem est profectus, Et, ut ipse in libro suo mentitur, inuenit ibi Abraham, Moysen & Ieremiam, & Prophetas alios,

Damascus capitur.

Mahomet Rex eligitur.

Mahometi fabulæ.

Iter Hierosol.

alios,

Iter fabu-  
losum in  
cælum.

alios, ex antiquis, qui inibi conuenerant ad orandum, & obtulerunt Mahometo tria vasa, vnum lacte, aliud vino, aliud aqua plenum. Et audiuit vocem cælitus dicentem hæc: si vas aquæ acceperis, cum tuo populo submergeris; si vas vini cum gente tua peribis; si vas lactis, tu cum tuo populo dirigeris. Et ipse accipiens scyphum lactis, bibit ex eo. Tunc Gabriel Angelus, inquit, ei: Nunc es directus tu & omnis qui crediderit Legi tue. Et oratione facta, cum ab Hierosolymis recessisset, quod viderat discipulis reuelauit, & addidit quæ sequuntur. Cum vidi, inquit, Abraham, Moysen, & Ieremiam, oculi corporis dormiebant, sed cordis oculi vigilabant, & vidi quod Abraham similis erat mihi: Moyses autem erat rubeus atque crispus: Iesus autem Mariæ filius, erat flauus capillis, nec longus, nec paruus, sed dispositione, & statura media coaptatus, & videbatur aqua ab eius capite profilire, verumtamen aqua non erat ibi. Addidit etiam in hoc libro: ad primum cælum Gabriel me perduxit, & me in isto cælo benigne Angeli receperunt, & cum risu & gaudio respexerunt, bene orantes mihi prospera & iucunda. Vnus solus inter Angelos consistebat, qui nec mihi orauit prospera, nec risit: cumque quæsissem ab Angelo quisnam esset, respondit: nunquam risit hic Angelus, nec ridebit, hic est Angelus custos ignis: & dixi Angelo: est hic Angelus, qui à Deo dicitur nimis dilectus? Et ille respondit, Angelus hic est ille. Tunc dixi ei, præcipe, inquit, ut ostendat mihi ignem. Iubente itaque Gabriele, remouit tegimen olla ignis; & ignis ascendens, timui ne omnia quæcunque videram concremaret: & rogavi Gabrielem, ut ignis iterum tegetetur: & ignis rediit in locum suum, & videbatur, ut Sol cum occidit in occasu: & tristis Angelus, ut prius fuerat, texit ignem. Similiter cum intraui cælum, inueni hominem venerandum in sede sedentem, & ostendebantur ei animæ omnium mortuorum: & cum videbat animas quæ sibi non placebant, ab eis intuitum auertebat, imperans eis: peccatrix anima ab infelici corpore exiisti: & cum ostendebatur ei anima, quæ placebat, applaudens animæ inqueiebat: ô felix anima à bono corpore exiisti: & interrogavi Angelum de viro tantæ excellentiæ, & reuerentiæ, quisnam esset: & Angelus dixit mihi, Adam esse, qui bonis sui generis congaudebat, à malis faciem auertebat, & pœnas peccantium ostendebat. Vidi in eodem cælo, qui carnes pingues & optimas manducabant, & alios qui postpositis pinguibus de fætidis comedebant. Cumque quæsissem, isti homines quinam essent, respondit Angelus: primi sunt, qui vxoribus legitimis adhaeserunt: alij qui legitimas non curantes, fædis commercijs vtentes, mulieribus se dederunt. Postea duxit me Gabriel ad secundum cælum, & inueni ibi Iesum filium Mariæ, & Hyahyam (quem nos Ioannem dicimus) filium Zachariæ, qui erant consobrini. Postea Gabriel in cælum tertium me induxit, & inueni hominem, cuius forma erat vt plena luna, & Gabriel dixit mihi: Hic est Ioseph filius Iacob Patriarchæ. Postea duxit me in cælum quartum, ibi inueni hominem venerandum; & Gabriel dixit mihi: Hic est Aaron, & erat ibi cum eo Idrix, qui cælum ascendit. Post hæc duxit me Gabriel in quintum cælum, & inueni ibi hominem senem, & pulcrum, & dixit mihi: hic est Aaron filius Abrahæ. Postea duxit me in sextum cælum, & inueni ibi hominem rubeum, & procerum, & dixit: hic est Moyses. Postea fecit me ascendere in septimum cælum, & inueni ibi hominem canum, sedentem in sede à parte domus, qui à pluribus Angelis comitabatur, & intrant in ea septuaginta millia Angelorum, & non redeunt vsque ad diem iudicij. Et Angelus dixit mihi: hic est Abraham pater vester. Post hoc introduxit me in Paradisum, & inueni ibi puellam formosam, quæ multum placuit oculis meis, & interrogavi eam, cuius esset, quæ respondit: hic seruator Zayth filio Hyarith. Et cum descendissem de paradiso, nuntiaui hæc Zayth filio Hyarith, qui de meis consortibus vnus erat. Et in omnibus cælis ad quos ascenderam, interrogabant Angeli Gabrielem, & ipse dicebat eis:



hic est Mahomet. Et interrogabant cum gaudio, est iam missus? & ipse inquit: Iam est missus: & ipsi omnes orabant, ut Deus adderet mihi vitam, tanquam fratri suo, & amico. Postquam autem transieram septem cœlos, Gabriel me proposuit ante Deum, & mandauit mihi, ut quolibet die dicerem quinquaginta orationes. Ego autem conuersus ad Moysen amicum meum optimum, dixi ei, qualiter Deus mihi mandauerat, ut quolibet die dicerem quinquaginta orationes, sed tot orationes graues essent ad dicendum, cum gens conuersa nouiter non posset tantum onus quotidie tolerare. Et Moyses conuersus ad Deum obtinuit, ut decem orationes relaxarentur, & iterum à me rogatur, obtinuit alias decem: Et sic paulatim descendens omnes abstulit præter quinque: quicumque quolibet die quinque orationes fecerit, renumerabitur quasi pro quinquaginta. Mahomet autem anno ætatis suæ quadragesimo apud Mecham frequentius morabatur, & ibidem prædicta omnia, & multa alia ridicula, & nefanda sibi dicta à Gabriele Angelo mentiebatur, ut populos quos ad rebellionem concitauerat, sectæ suæ mortis funiculis colligaret: & ut virus suæ malitiæ occultaret, prædicabat omnibus unum Deum. Mecha autem tenebatur cultu plurium idolorum. Cognatio autem Coraxi conuenerunt in domum Abutalib, qui erat patruus Mahometi, conquerentes de eo quod eorum legem, & Deos patrios aboleret: sed quod ipse, & ipsi in suis ritibus remanerent: & iam Mahomet habebat aliquos de suis consanguineis conuiuantes.

## CAPVT SEXTVM.

## De disceptatione cum Coraxinis, &amp; de morte eius.

**P**RÆDICTVS autem Abutalib conuocauit Mahomet, & alios Coraxinos, super lege, & idolis querelantes, & dixit ei Abutalib: Ecce isti habent aliqua aduersum te. Mahomet autem respondit ei, sustine me modicum perorare. Tunc ille, non est, inquit, Deus alius præter unum: & recedite ab idolis, quæ hæcenus coluistis. Tunc, manus manibus collidentes, indignati animis, responderunt: cur Deos nostros vis à patria extirpare? Et dixerunt: Iste homo à proposito non cessabit, sed maneat in sua lege, & nos ritus patrios obseruemus, & tunc ab inuicem recesserunt. Abutalib autem dixit Mahomet, bona videtur oratio, quam dixisti. Tunc Mahomet: dic, inquit, verbum, quod prædicauit, & conuertere ad legem meam. Abutalib autem respondit ei: libenter facerem, sed diceret genus nostrum, quod metu tui aut timore mortis, talia proferebam: nec volo perdere gratiam propinquorum. Ex tunc Mahomet cœpit sectam suam publice prædicare, & ad rebellionem populos concitare, & aliquos seducebat, quia unum Deum tantummodo prædicabat: & mentiens Gabrielem Angelum ad se missum, quæ deceptis populis prædicabat, dicta sibi ab Angelo assererat: & frequenter in contemplationem inuisibilium se rapi simulans, quasi destitutus sensibus, se in terram, ut exanimem prosternebat: & stulti populi loqui cum Angelo æstimabant. Demum autem quasi restituto spiritu præcepta aliqua proferebat, quæ sub vno compacta capitulo Zohara appellabat, & per tales Zoharas distinguitur liber eius, qui dicitur Alcoranus: in quo tot ignominiosas Zoharas prædicauit, quod pudebit dicere, nedum sequi: quas tamen viru diabolico debriati, & libidine dulcorati, infelices populi receperunt, & adhuc in sua perfidia permanent obstinati nec legem vitæ & disciplina

*plina desinunt infestare. Mahomet itaque fraudibus & incurfibus & infami doctri-  
na corda gentium sua pertinacia solidauit. Annis autem decem expletis, ex quo apud  
Mahomet moritur. Damascum regni susceperat principatum, moritur, & sepultus est in inferno. Era  
sexagesima sexta, anno Heraclij XVII, & Suinille regis Gothorum VII.*

## CAPVT SEPTIMVM.

De Abubacar, &amp; Omar Moabia &amp; eorum praelijs.

Subjugatur  
Persis.

**M**ORTVO Mahomet, Abubacar eius gener & contribulis in regni solio  
subrogatur. Huius tempore Romani Persidem reliquerunt, quam Abubacar  
bellis indesinentibus occupauit, Era sexcentesima nona, anno Heraclij vi-  
gesimo, anno Arabum decimo quarto. Mortuo Abubacar, Omar in solio regni collo-  
catur Arabum, & decem annis regnauit. Hic fuit rigidus & in praelijs valde con-  
stans: hic obsedit Alexandriam in Aegypto, & captam constituit sub tributo, &  
totam Aegyptum ditioni suae, & sectae subdidit Mahometi: & tam de partibus  
Orientis, quam de partibus Africanis triumphum victoriae reportauit. Sed dum  
quodam die orationi instaret, à quodam suo clientulo fuit interfectus. Post mortem  
Omar, Autuman successit in regno, & regnauit annis duodecim. Hic Libim, Mar-  
morichim, Pentapolin, Gazamam, & Aethiopiam, quae supra Aegyptum plagis  
adiacerent, Sarraccenorum sectae, & suae subdidit ditioni. Plurimas etiam ciuitates  
Persarum, quas Omar non potuit obtinere, obtinuit, & posuit sub tributo, demum à  
suis est interfectus. Mortuo Autuman Moabia, qui & Maula, successit in regno, anno  
trigesimo quinto Arabum, & regnauit annis viginti quinque. Sed quinque annis,  
quia regnum eius turbatio variavit, contra suos praelia multa gessit: post quinquen-  
nium suis sedatis, feliciter regnum rexit. Sed aduersus eum Constans Augustus,  
plusquam mille naues aggregans, infeliciter transfretauit. Cum enim bellatorum  
discrimina inchoassent, Moabia precedente quodam Abdali nomine, qui in exerci-  
tum Arabum principatum militiae tunc tenebat, ceperunt acriter decertare, sed  
victus Augustus, vix cum paucis per aquor aufugiens, lesus euasit, & plures de suis  
captiuitate & gladio ceciderunt: & Moabia, & Abdalla nomen, & gloria accre-  
uerunt. Abdalla autem volens victoriam ampliare, Tripolim Aegypti venit, &  
eam & Cidanis suae victoriae subiugauit: & post desolationes plurimas, diuersis  
patrijs subiugatis, multis prouincijs domitis, & vastatis, & cateruis plurimis  
in fide deceptis, Africam attentauit, cum multis phalangibus bellatorum. Cumque  
ex aduerso Comes Gregorius aduenisset, utrimque fuit praelium inchoatum, sed pars  
Afrorum morti & fugae penitus derelicta, infeliciter est deleta, & sic omnis decor  
Ecclesiae Africanae in Arabes est translatus. Abdalla itaque spolijs & diuitijs incly-  
tus, cum suis cohortibus reuersus est in Aegyptum. Moabia autem peragebat deci-  
mum regni annum, qui cum vidisset in Africa sibi prospera successisse, centum millia  
bellatorum in obsequium Ixit filio suo dedit, ut cum eis Constantinopolim festina-  
ret: qui illam adiens parauit obsidionem, & per totum vernum tempus bellis in-  
desinentibus infestauit: sed quia urbis magnificentia obsistebat, & fames, & pestis  
laborem impugnantium fatigabat, urbe relicta, oppida plurima occuparunt &  
adiacentem patriam deuastarunt, & onusti pradis & diuitijs, post biennium Da-  
mascum urbem regiam redierunt. Postea autem partes Orientales bellis indesinen-  
tibus suae sectae, & dominio subiecerunt: & expletis viginti quinque annis in regno,  
naturae debitum soluit.

Aegyptus.

Africa.

Constan-  
tinopolis  
frustra ob-  
fidetur.



## CAPVT OCTAVVM.

De Izit &amp; Maula &amp; Abdelmelic filio eius &amp; victorijs eorum.

**A**NNO Imperij Arabum sexagesimo primo, Izit natus Moabie obtinuit patris regnum, & regnavit iucundissime tribus annis. Hic subdidit secte sue vicinas undique nationes, eoque cunctis gratissimus habebatur: nunquam enim, ut moris est hominum, regalis fastigij gloriam appetiuit: sed civiliter cum omnibus conuiuebat, & expleto regni triennio vitam finiuit, & reliquit Maulam filium successorem, anno imperij Arabum sexagesimo secundo. Hic paternis moribus similis, cum ad regni fastigium peruenisset, tertiam partem tributi omnibus condonauit: qui anno dimidio in regno expleto vitam finiuit. Post cuius mortem exercitus Arabum fere per quatuor annos bifarie fuerunt diuisi, & innumerabiles caedes Arabibus prouenerunt: alij enim Maldan, alij Abdallam sequebantur, sed Maldan Constantino Casari mille solidos auri probati, & variam suppellectilem annis singulis impendebat, ut ei adiutor fieret, aut saltem non impediret: & quae Arabes à Romanis euicerant, fuit prae teritorum temporum captiuitas relaxata. Hoc tempore Ervigius proficitur regno Gothorum. Cumque inter Maldan, & Abdallam longa concertatio incidisset, tandem Abdalla, qui fuerat princeps militiae regis Moabie, & multis diuitijs, quas ab Africa tulerat, abundaret, eiecto Maldan solus obtinuit principatum: anno imperij Arabum sexagesimo sexto: & quatuor annis regnavit. Post quos Abdelmelic iunioris Maula filius, contra Abdallam Arabum regnum intentat, & fauore patris ad successionem debitam eleuatur, Anno imperij Arabum LXX. regnavit annis XXI. Hic Abdallam æmulum suum persequens, apud Mecham Abraha domum, ut ipsi autumant, quae est inter Archas & Sarram Mesopotamiae, interfecit: post quod sapientissime bella civilia compressit. Huius anno quinto ad regnum Gothorum Egica sublimatur, & iterum eius decimo sexto anno Vitiza in regno substituitur Egica patri suo. Abdelmelic autem consummatis in regno annis viginti & vno, vitam finiuit.

61

Ervigius

66

70

Egica  
Vitiza

## CAPVT NONVM.

De Vlit.

**A**NNO autem Imperij Arabum nonagesimo primo, Vlit filius eius ad regnum Arabum sublimatur. Huius quinto anno Rodericus seditionibus procreatis regnum Gothorum inuasit. Vlit autem per quatuor annos bella peragens, imperium Arabum mirabiliter dilatauit: erat enim vir magnae prudentiae, & in disponendis exercitibus valde cautus: & quia futurus erat virga furoris Domini, in populos Hispaniae pestilentes, diuino auxilio ferebatur, ut vicinas gentes suo imperio subiugaret. Romaniam quoque, & multas prouincias Romanorum, vastatione assidua conculcauit. Insulas etiam & fines Indiae domuit, deuastando ciuitates, plurimas oppida, & castella obsedit, & occupauit. In Lybia anfractibus omnem maritimam subiugauit, in occiduis partibus regnum Gothorum antiqua soliditate firmatum obtinuit, & afflixit: quod à tempore Leouegildi per annos centum quadraginta pace continua fuit latum. Hic per ducem exercitus sui Muzam Hispanias domuit,

91

Roderigo

Egica  
Vitiza

In las minas palacio de los reyes de Toledo

Sarraceni  
Hispaniam  
occupant.

Primus Sar  
racenorum  
in Hispania  
Rex Muza.

Secundus  
Abdula-  
zis.

Tertius  
Ayub.

mult, & regni abstulit dignitatem, & constituit vectigalia. Anno Imperij Vlit quarto, Muza Abennocayr princeps militia Vlit regis, misit Tharic Abenzarca, cum exercitu citra mare, qui & Rodericum vltimum regem Gothorum bello fugauit, & Hispanias subiugauit. Demum Muza veniens in Hispaniam ciuitates plurimas occupauit, & infinitas diuitias congregauit, inter quas mensam lapideam, coloris viridis, immense magnitudinis, adinuenit, quæ habebat trecentos sexaginta quinque pedes, & mensa & pedes ex vno lapide erant. Hæc mensa dicitur inuenta in villa quadam, quæ Arabicè dicitur مدينة المائدة Medinat almeida: Latine autem interpretatur ciuitas mensæ: & erat iuxta montem qui adhuc hodie dicitur, Gibel Zuleman, & imminet burgo sancti Iusti: hanc Tharic cum multis alijs diuitijs dedit Muza. Muza itaque Tharic, & Mogeit Hispanias deuastantibus, ab Hispanijs reuocantur, præcepto Vlit. Cumq; oporteret eos ad edictum principis festinare, Musa dimisit filium suum Abdulazis, principem citra mare, qui apud Hispalim constituit sedem suam, & fertur uxorem regis Roderici nomine Egibonem sibi in coniugem assumpsisse, & ab uxore suafus, more regum Gothorum, sibi imposuit diademas vnde & Arabes Christianum putantes, consilio Ayub Aben Halib, dum in oratione persisteret, occiderunt. Regnauerat autem tribus annis, & Ayub, eo quod erat in secta Mahometi prudentissimus, in regni solio subrogarunt, & ab isto dicitur Calatayub fuisse adificata, & iste curiam Arabum ab Hispali transfulit, & Cordubæ instaurauit.

## CAPVT DECIMVM.

### De morte Muzæ & Vlit, & regno Zulemæ.

**M**VZA autem cum Tharic, & Mogeit, ducens secum infinitam pecuniam, & ex Christianis trigintamillia captiuorum, & mensam viridem, & plurimos lapides pretiosos, peruenit in Syriam ad regem, ubi Vlit tunc temporis residebat. Sed Tharic, qui odium conceperat contra Muzam, præuenit Muzam, & se regis conspectui præsentauit, accusans Muzam eo quod de diuitijs Hispaniæ plurima occultaret, & modica deferebat. Cumq; Muza se regis conspectui præsentasset, male receptus cum ignominia est eiectus priuatus potentia & honore. Demum condemnatus in mille millibus, & in decies centum millibus solidorum, & dolore vario circumseptus, vitam finiuit, anno Arabum nonagesimo septimo. Et quia Ayub, de quo diximus, Muzam consanguinitate aliqua attingebat, Amiramomeni fecit eum à regno Hispaniæ remoueri, & Alabor filium Abderramen in regno Hispaniæ subrogauit: qui duos annos & nouem menses in regno expleuit. Vlit autem omnia prospere gerens, receptis copijs vniuersarum gentium, & diuitijs, quas gens misera, vomuerat Hispanorum, vite termino consummato, cum regnasset annis vndecim, vitam finiuit. Mortuo Vlit Zulema frater eius successit in regno, anno Arabum nonagesimo octauo, & tribus annis regnauit. Hic misso exercitu Arabum, Romaniam grauius deuastauit. Pergamum antiquissimam & florentissimam minoris Asiæ ciuitatem, vltimè incendio concremauit. Misit & Alabor quem Hispaniæ præfecerat, ut Arabonensem Galliam deuastaret, & citeriorem Hispaniam, in qua Christiani aliqui rebellauerant subiugaret, qui & prædictam Galliam, & utramque Hispaniam, vi fraude, & deditione receptans, vectigali subdidit seruituti. Zulema autem filios Abdemelic nepotes suos, filios Vlit scilicet, Omar & Izit, sibi ad regni regimen sociauit. Inter hæc Alabor Cordubam attentauit, & Christianos ibidem degentes,

97 +  
Quartus  
Alabor.

Zulema  
98 Chalifa.

Pergamus  
incenditur.

Corduba  
capitur.

B

emunctos



emunctos vsque ad exinanitionem extrema virtutis, tyrannide coarctavit. Arabes autem qui fuerant prima vastationi, carceris ergastulo, & ciliciorum asperitate, & fame & inedia maceravit, adeo ut vermes sue pediculi in cilicijs scarurirent, & quæstionibus eos afflixit, ut thesauros absconditos reuelarent. Hoc tempore Eclipsis solis ab hora sexta vsque ad horam nonam duravit, & stelle, ut in tenebris apparebant. Verum quia Izit ob sanctimoniam suæ sectæ ab omnibus amabatur, & sanctissimus habebatur, Omar frater eius eum in tutelam regni adsciuit: Omar autem præditus benignitate nimia, à prælijs, quantum poterat, abstinebat. Tanta enim dulcedinis & patientia fuit in regno, ut tantus honor ei exhiberetur, & tanta laudis præconio effloret: quod non solum à suis, sed etiam ab exteris præ cunctis principibus amaretur. Tanta etiam sanctimonia ei adscribitur, quanta nunquam vlti Arabum fama veridica recognouit, qui & princeps paucorum dierum vitam finiuit.

Eclipsis.

CAPVT VNDECIMVM.

De Izit & Izit, & Obsidione Tolosæ, & principatu Ambizæ.

**O** MAR mortuo Izit regni gubernacula cepit solus; tunc quidam alius Izit nomine, qui de genere suo erat, & apud Persas tutelam gerebat, rebellionem molitus, bella ciuilia procurauit. Sed Izit misit quendam Muzillima nomine cum infinito exercitu, ut rebellionis iniuriam edomaret, & in campis Babylonis, supra Tigrim rebellantium turba dilabatur fuga magna, & auctor sceleris comprehensus venia reseruator. Tunc etiam in occidentis partibus multa illi prospera prouenerunt, nam Zama, qui tribus annis ducatum tenuit in Hispanijs, proprio stylo descripsit vectigalia Hispanorum, & quod prius indiuisum ab Arabibus habebatur, ipse partem reliquit militibus diuidendam, partem fisco de mobilibus, & immobilibus assignauit, & Galliam Narbonensem diuisione simili ordinauit, & Francorum gentem bellis frequentibus stimulauit, & Narbone ob tuitionem patriæ electos milites collocauit. Ipse autem bellis plurimis Tolosam veniens, obsidionis ambitu circuiuit, & cæpit eam varijs machinis impugnare. Gens autem Francorum cum Eudone exercitus sui duce in obfessorum auxilium superuenit. Cumq; uterque exercitus cæpisset acriter dimicare, Franci Zamam ducem Arabum cum parte multitudinis peremerunt: reliqui, obsidione relicta, se fuga patrocínio commiserunt, & qui euaserant, Abderramen sibi principem elegerunt, donec principalia iussa venirent. Per idem tempus Frodoarius Auxitanæ sedis Episcopus, & Urbanus Toletanæ sedis, Veteranus Melodius & Euancius eiusdem Toletanæ sedis Archidiaconus, doctrina, sapientia, spe, caritate, fide & sanctitate ad confirmandam captiuam Dei Ecclesiam clari habentur. Izit autem misit præfectum in Hispanias Azam filium Melich, & præcepit ei, ut ciuitates, oppida, & castella, quæ per vim Arabes expugnauerant, subijceret sub tributo, videlicet ut quintam partem omnium prouentuum fisco regio soluerent annuatim: quæ verò sponte se reddiderant, decimum tantum soluerent pro tributo, & hi & illi in suis possessionibus liberi remanerent. Iste Azam pontem Cordubæ fecit fieri, anno Imperij Arabum centesimo secundo. Azam cum duobus annis & dimidio in Hispanijs præfuisset, & à vastatione Tirasone rediret, fuit à suis prodicionaliter interfectus, & Izit Amiramomeni præfecit Hispania quendam qui dicebatur Ambiza anno regni Arabum centesimo tertio, & quatuor annis & dimidio principatum Hispania apte rexit, & gentes Francorum prælia meditando sapius intentauit, & per directos Satrapas insequendo, infeliciter decertauit, nihilominus tamen

Izit Chalisa.

5 Zama. Zama

Tolosa obsidetur.

6 Azam. Azam

1/5  
1/10

102 Takazons

7 Ambiza. 103

Obitus.

107

tamen furtiuus obreptionibus nonnullas eorum ciuitates, & oppida stimulauit, & pro huiusmodi infestationibus Gallicorum scilicet, Christianis vectigalia duplicauit. Cumque honoris fascibus in Hispanijs triumpharet, postremo per se expeditionem, ingeminat contra Francos, & incursionem in eos, assumpta audacia, meditatur. Sed cum cepisset cum exercitu proficisci, propria morte vitam finiuit: ipse autem Ambiza in ultimo constitutus quendam qui Odra dicebatur, consulem patrie sibi commissa, & principem exercitus repedantis propria voluntate ordinauit. Sed Arabes in continenti Amiramomeni Ambiza obitum nuntiarunt, & omnem pariter successionem: Ixit autem in continenti misit eis quendam, qui Iahya dicebatur, & erat filius Zulema, anno regni Arabum centesimo septimo, & fuit terribilis potestator, & regnauit duobus annis & dimidio, homo acris ingenij, crudelis dominij, tamen iustitie intendebat, nam Arabes siue Mauros, qui res pacificas abstulerant Christianis, coegit debite restaurare.

## CAPVT DVODECIMUM.

## De Regno Hiscam.

107

Regna Sar-  
racenis  
subiecta.

**H**VIUS temporibus Ixit quarto regni sui anno completo, vitam finiuit, & fratrem suum Hiscam nomine instituit successorem, tali pacto, ut filius eius proprij seminis, Abulit nomine, fratri succederet in honorem. Hiscam autem in sua primordijs potestatis, anno regni Arabum centesimo septimo satis modestum, & pacificum se ostendit, & regnauit annis viginti & vno. In Romania & in partibus Orientis prospere multa gessit, non presencialiter, sed per duces terra & pelago destinatos, & in Occidentis partibus nil egit praeclarum. Demum tanta cupiditate fuit illectus, ut de nullo nisi de collectione pecuniae cogitaret, adeo ut omnes reges qui eum praecesserant, praecelleret in diuitijs congregatis; verum quia emunditionis iniurias non poterant tolerare, multa prouincia sibi subdita vota sua ab eius proposito fere per annos quatuor retraxerunt, strage plurima subsequente, nec discessum huiusmodi potuit reformare: Prouincia autem eius dominio subdita, & secta Mahometi inquinata, necesse est ut proprijs nominibus exprimantur, videlicet Iconia, cuius metropolis Iconium; Lythria, cuius metropolis Lystris, Alapia cuius metropolis ciuitas eiusdem nominis; Chaldaea cuius metropolis Babylon destructa: Assyria, cuius metropolis Ninive: Medea, cuius metropolis Hebatanis: Hyrcania, cuius metropolis Antiolos: Persis, cuius metropolis Susa: Mesopotamia, cuius metropolis Aram, siue Sarra: Syria superior, cuius metropolis Damascus: Celestria, siue Phenicia, cuius metropolis Tyrus: Syria inferior, cuius metropolis Antiochia: Iudaea, cuius metropolis Hierusalem: Aegyptus, cuius metropolis Alexandria: Arabia maior, cuius metropolis Baldac: Aethiopia, cuius metropolis Nadauer: Africa cuius metropolis Carthago: Hispania cuius metropolis Toletum. Has omnes prouincias subiugauit secta & gladius Mahometi. Aliquando etiam Siciliam cuius metropolis Panormum, & Calabriam, cuius antiqua Metropolis Rhegium, & partem Apuliae, & Galliam Gothicam, cuius metropolis Narbona, & Vasconias cuius metropolis Auxis, & Burdigaliam sua potentia subiugauit.

111

Anno itaque regni Arabum centesimo undecimo, Hiscam vero sexto, suscepit & Odoysa, regnum Arabum in Hispanijs Odoysa Alcayci auctoritate, a duce Africano recepta.



Hic fuit vir leuitate plenus, & vacuus grauitate, prae paucitate autem temporis nil dignum memoria legitur peregrisse: isto à regno repulso Hiscam Amiramomeni Yemenfil. Abinaza ad regimen Hispania destinauit, anno regni Arabum centesimo undecimo, Hiscam vero sexto. Hic quinque mensibus Hispanias gubernauit, post quos vitam finiuit, & missus fuit alius Autuman nomine, hic per quatuor mensis rexit terram; post quem Hiscam substituit, alium nomine Alhaytam filium Obeit, qui veniens in Hispaniam sigillum, & auctoritatem principis quam deserebat, patienter, & strenue demonstrauit, & per decem menses turbidus terram rexit, & intellexit aliquos de Arabibus in depositionem eius colloquio clandestino conspirare: unde & eos capiens conspirationis propositum flagellis extersit, & demum iussus ab amulis transmarinis quos poenis afflixerat, capitibus detruncauit. Inter quos Zath Sarracenum sanguine nobilem, facundia clarum, diuersis rebus & diuizijs opulentum, poena afflictum, flagris illusum, colaphis caesum, inhumaniter flagellauit.

10 Yemen.

11 Autuman.

12 Alhaytam.

## CAPVT XIII.

De Zath &amp; Abdalla, &amp; Abderramen, &amp; eius victorijs.

**Z**ATH autem manus eius euadens ad petitionem gentis, eorum quorum sanguinem effuderat inhumane, Amiramomeni se conspectibus presentauit: & cum eo Mahimen mittitur Sarracenus cum relatione auctoritatis absconsa, ut absque cunctatione aliqua Abderramen, Alhaytam eiecto, ad regni regimen subleuetur. Sed cum Mahimen Cordubam peruenisset, Abderramen non potuit inuenire, & statim Mahimen Alhaytam captum carceri mancipauit, nec mora fortiter flagellatum, turpiter iudicatum, capite decaluatum, post terga manibus colligatum, catenis ferreis alligatum, ab asino deportatum, per ciuitatem attractum, tantis ludibrijs reseruatum, iterum carcerali custodia mancipauit, & ibi vitam finiuit; post quem regnauit Mahomet Abenabdalla duobus mensibus, quibus completis Abderramen inuenitur.

13 Mahomet Abenabdalla.

14 Abderramen.

Anno Imperij Arabum centesimo decimo tertio, Hiscam autem nono, Abderramen vir belliger ad potestatem eligitur Hispanorum, & regnauit fere tribus annis. Cumq; de animositate, & gloria superbiret, vnus ex Mauris Muniz nomine audiens suos temeritate iudicium indebite aggrauari, pacem cum Francis illico procurauit, & rebellionem aduersus Arabes preparauit, & cum esset in praelijs expeditus, multi eius desiderio paruerunt; unde & fuit status palatij conturbatus, & non multis diebus interpositis, Abderramen expeditionem agitans rebellem insequitur, conturbatus, & in Cerritania oppido conclusit obsessum. Hic multorum Christianorum effuderat sanguinem innocentem, & Anambaldum Episcopum illustrem, virum floridae iuuentutis incendio concremauit, & sic Sanctorum sanguine crapulatus, siti meruit laborare. Nam quamuis oppidum Cerritaniae affluentis aquae abundantia rigaretur, Muniz undique circumclusus sitis ardore praeventus, non inuenit quo aufugeret moriturus, sed ut manus euaderet persequentium, desperatam animam morti offert, & dum per anfractus rupium conaretur aufugere, manus persequentium non effugit, nam dum in scissuris petrarum latebras querebat, praecipitio animam exhalauit, ne viuus odioso principi traderetur. Nuper etiam Eudo propositus Gallicorum huic Muniz filiam suam causa foederis in coniugio copulauit, & ad suos libitus tradidit inclinandam, ob persecutionem Arabum differendam

Muniz Muniz

rendam, quæ simul cum oppido Cerritania fuit capta. Viri autem exercitus caput Muniꝝ precipitio iam collisum cade secunda detruncant, & cum filia Eudonis regi suo leti presentant. Abderramen autem de rebellium interitu iucundatus, eius uxorem, cum esset pulcherrima, summo Regi trans maria honorifice destinavit. Tunc Abderramen victoriæ gloriam prosequi non desistens, cum videret terram suam multitudine esse repletam, fretosa dissecans, & montana procalcans, Rhodanum etiam dissulcauit: verum cum Arelatum in multitudine exercitus obsedisset, inferioris fortunæ Gallici sunt iuuenti, nam fugati periculo se vouentes sequaci victoriæ sunt præuenti, quorum cadauera vorax Rhodanus occultauit, & terra suscipiens reuelauit, & eorum tumuli adhuc hodie in Arelatensicæ miterio ostenduntur.

## CAPVT XIV.

## De morte Abderramen, &amp; Fuga suorum, &amp; Carolo Martello.

**A**BDERRAMEN autem letus victoriæ, elatus potentia, ratus est Francorum patrias deuastare; cumque amnes Garumna, & Dordonia pertransisset, Eudonem, de quo diximus, inuenit ad prælium præparatum, sed infelicitate præterita comitatus, in fugam dilabatur fugitiuus, & tot ibi de eius exercitu ceciderunt, quod eius numerus omni humanæ scientiæ occultatur. Sed cum Deus concluderet ostijs mare, & ei dixerit, hucusque venies, & undas fluctuum hic confringes, Abderramen non à Deo, sed à sua potentia estimans prouenire, proposuit interiorem Galliam penetrare, & Eudonem ducem persequi non desistens, per Petragoneam, & Sanctoniam & Pictauiam ciuitates, oppida & Ecclesias deuastando, & igne continuo consumendo, etiam Turonis ciuitatem, Ecclesiam & palatia vastatione, & incendio simili diruit, & consumpsit. Eudo autem, de quo diximus, ad Consulem Franciæ, & Germaniæ Carolum, virum belligerum, & rei militaris expertum fugit, infelicitatis Francorum excidia relaturus. Carolus autem dictus Martellus, Germanos & Gepidas secum ducens cum Francis qui remanserant, Abderramen se obtulit deuastanti: cumque per septem dies bellis particularibus sese impeterent, demum dispositis aciebus generali prælio dimicantes alternis cadibus se læserunt; sed gens Austriæ membrorum præeminentia valida, & gens Germana corde & corpore præstantissima, quasi in ictu oculi manu ferrea, & pectore arduo Arabes extinxerunt; & ipsum gladio peremerunt, sicque nocte prælium dirimente ad castra sua exercitus redierunt: mane autem diluculo apparente viderunt Germani Arabum tentoria, ut heri fuerant ordinata, & putauerunt Arabes velle prælium restaurare, & cum exploratoris officio vacua percepissent, iuerunt ad spolia, & manubia diuidenda, & verentes ne forte Arabes in stratis, vel semitis insidias procurarent, Germani, & Franci in patrias redierunt: Arabes autem, qui euaserant, per compendia ad Galliam Gothicam reuersi sunt.





## CAPVT XV.

## De Abdelmelic &amp; Ocha.

**A** NNO Arabum centesimo decimo sexto, Hiscam Amiramomeni misit quen-  
 dam Abdelmelic nomine de nobili genere, qui dum in Hispaniam per-  
 uenisset, post tot clades & pericula, inuenit eam opulentia non oblitam,  
 & bonis omnibus abundantem, & quasi malogranatum augustalibus delicijs efflo-  
 rentem. Ipse autem quatuor annis regnans qui dispensator esse debuerat, inuentus  
 est dissipator discolor & petulans, & prosperitatem patrie reputans, inopinam fla-  
 grantis petulantia malitiam propalauit, & patrie iudices blandiendo, pro iure  
 iniurias, pro pace angarias, pro regimine nocua cepit in Hispania exercere, ut  
 rediuiua plage angustias reparatas mordaci tyrannide renouaret, nec aliquid uti-  
 le, aliquid strenuum exercuit in patrie vastatores. Vnde cum relatione summi  
 principis accepisset, ut Francorum insultibus obuiaret, volens iuga Pyrenaea pen-  
 trare, multis suorum perditis in planis Celtiberiae refugus se recepit: vox enim  
 Christianorum quae ad aures Domini ascendebat, contra tyrannum diuini iudicij  
 sententiam impetrauit, moxque Amiramomeni remouetur edicto, & successor ei  
 mittitur Aucupa, suae Ocha, anno Arabum centesimo decimo nono, Hiscam vero,  
 anno decimoquinto, & quinque annis regnauit. Hic potestate praecelsa, genealo-  
 gia, & legis suae custodia ab omnibus timebatur, & Abdelmelic, qui ante eum  
 regnauerat, vinculis alligauit, iudices & praepositos, quos ille instituerat, condemna-  
 uit, sectae suae ceremonias coegebat Arabes exacte seruare, & tributa ardua exige-  
 bat, fenum diuersis occasionibus augmentauit, & peruersos Hispania, & diuersis  
 vitijs implicatos, ratibus impositos coegit ab Hispania exulare: neminem nisi per  
 iniustitiam legis propriae condemnauit: expeditionem Francorum cum multitudine  
 exercitus attentauit: deinde ad Caesar Augustam classe peruenit, ubi recepit episto-  
 las à partibus Africanis, quod Mauri Hispaniae ei resistere intentabant, quibus  
 perlectis, quanta potuit velocitate Cordubam remeauit, & in transductiuis pro-  
 montorijs se recepit, ibique naues ab Africa praestolatur, quibus receptis in Afri-  
 cam transfretauit, & assumptis auxilijs continuo cisfretauit, & contradictores bi-  
 farios, & rebelles quos reperit interfecit, sicque omnia disponendo, sedi propriae  
 inclytus redonatur, qui post paululum peracto quinquennio, infirmitate correptus  
 Abdelmelic, quem raptum tenebat, consensu omnium restituit in regni  
 sedem, infirmitate eius vitalia penetrante vitam finiuit, & regnauit  
 secundo Abdelmelic, anno Arabum centesimo  
 vigesimo quarto, Hiscam  
 vigesimo.

116  
15 Abdel-  
melic.16 Aucu- 119  
Pa.Zaragoza  
Ibn navigable17 Abdel-  
melic.

124



## CAPVT XVI.

De insolentijs Hiscam, & infelicitate eius, & de Belgi,  
& morte Abdelmelic.

**I**GITVR Hiscam iniquitatem, & rabiem diu conceptam & cupiditatis termino relaxato cœpit in suos plus debito debacchari, & insolentius se habere: unde & gens sua subdita potestati in bellum profiliijt intestinum, nam & illa vassa solitudo, unde Arabia oritur, & Occidentalis plaga, & ea qua ad meridiem extat zona, impicitatem iudicum non ferentes, ad inuicem colligati, à suis ceruicibus iugum Arabum excusserunt: sed vt rumor ad aures Hiscam peruenit, misit Cultum cum centum millibus bellatorum, quem præfecit exercitui Orientis, cum quo veniens in Africam se recepit, & desinito consilio statuerunt, vt Maurorum patrias discursando, & gladio feriendo ad Tingitanum pelagus properarent; sed vt Maurorum rebellio hoc percepit, pannis circumpendentibus duntaxat pudendis obtectis, nudi profiliunt à montanis, nigri specie, crispi crine, albi dentes; cumque ad fluium qui Masan dicitur aduenissent, utroque exercitu ex opposito collocato, Mauri tetrum colorem equis pulcrioribus venustantes, & albis dentibus subridendo, aduersi exercitus multitudinem deterrebant. Vnde & pars Cultum & Arabici equites, & equi Aegyptij, cum sua & ascensorum internecione subito terga vertunt, & dum per denia, & fretosa curstant, transfretando absque retinaculo, vel reparatione virium, multitudo illa deperijt, in cremi vastitate: sicq̃ omnis illa collectio Orientis & Occidentis per fugam dilapsa undique dissipatur, dum dux exercitus, Cultus nomine, cum socijs territus iugulatur, & pars vna fugientium persequentium gladio perimitur, & pars alia vagabunda per viam, qua venerat, redire cogitans trucidatur, & tertia pars quo deuenit ignoratur. Exercitus itaque rebellantium habebat super se ducem Belgi Abenben, & tribus annis regnavit, homo magni generis, & armis exercitatus. Iste in Hispanias, proh dolor, cisfretauit, cumque præsensisset Abdelmelic, de quo dixeram, iuit vt portum nauibus impediret, sed vbi Mauri Hispania cognouerunt, Belgi volentes auxiliari contra Abdelmelic, ad prælium conuenerunt, & in tres partes diuisi, vnã mittunt contra Toletum, aliam Cordubam, vt Abdelmelic interficerent in eadem, tertiam ad portum dirigunt Septitanum, vt reciperent nauigantes, quos Belgi in Hispaniam destinabat, vel si forte de Arabibus qui è prælio euaserant, inuenirent, in eos acriter desaurirent. Sed Abdelmelic contra procedens partem illam qua Toletum per viginti sex dies obsederat, extinctiuo gladio dissecavit: aliam partem per Almuzahor Arabem, licet cum magna exercitus internecione, ense belligero refrenauit, & pars ista ad partem aliam declinauit, qua ad portum iuerat: tertiam partem simili excidio dissipauit. Tunc Abdelmelic de tantis successibus gloriosus, epistolari alloquio Belgi monuit, vt in pristinam insulam se reciperet: Belgi autem audiens, indignanter misit Abderamen principem militia, vt coërceat obsistentem, qui Cordubam veniens penetravit ciuitatem, & Abdelmelic captum grauibus iudicijs & sudibus arundinum cruciatum, demum gladio interfecit: & tanta in Oriente & Occidente ab vtrisque prælia sunt peracta, quod vix lingua sufficit enarrare.





## CAPVT XVII.

De Alulith pulchro &amp; Abulcatar &amp; Thobam.

**A** NNO Arabum centesimo vigesimo quinto Africani & Arabes concorditer consenserunt, ut Alulith Pulcher filius Izit, sobrinus Hyscam, in eius solio locaretur, qui regnavit annis duobus: nec mora Doran rebellia suadente omnis Hispania conturbatur. Anno primo Alulith Abulcatar mittitur in Hispaniam ad iussa principalia exequenda, qui veniens extinxit scandala & sedavit: & sollicite commissam patriam gubernavit, & omnes superbos Hispania, sub specie exercitus in Africam destinavit. Sed Hispani Arabes per Zimaël virum gentis sue auctoritate præditum Abulcatar, à regni solio removerunt cumque congregari voluissent, Zimaël, calatam posuit in occulto, & dum Abulcatar fugientem sequeretur Zimaëlem, incidit in calatam, & hi qui cum eo erant fuerant Zimaëli coniuratione clandestina obligati. Cumque eum in periculo reliquissent, victus succubuit, & occisus, & Toban qui valida adiutoria præbuerat Zimaëli, ad regni solium sublimatur. Iste diuersa prælia attentavit, ad que se & suos infeliciter præparavit, demum dura internectione succubuit cum multitudine occisorum. Alulith autem defuncto, omnes homines patrie, Ibrahem fratrem eius in Amiramomeninum, & dominum receperunt, anno Arabum centesimo vigesimo septimo. Sed Maruan vnus ex Arabibus in scandalum suscitatus, dum eum cum paucis in palatio reperisset, gladio interfecit: sicq; rei huius causa intestinum dissidium suscitatur, & quinquennio perduravit, Azali quodam Arabe dissensionis scandalum procurante. Anno Arabum centesimo vigesimo octavo, Maruan secundo, qui cum Ibrahem regnauerat duobus annis, Thoaba in Hispanijs præfecit regnans, anno vno: hic fuit vir belliger, & magni generis, sed annus vnus vitam eius & regnum finiuit. Quo defuncto ab omni senatu palatij Arabum Iuceph in Hispaniam mittitur ad regni regimen sublimatus, Anno Arabum centesimo vigesimo nono, seu incipiente trigesimo, Maruan vero tertio, Iuceph ut senior, & longeuus, ad regimen Hispania sublimatur, cui non post multos dies diuersa rebellia Arabes per Hispaniam molientes plurimos occiderunt. Iste ad suggestionem residui populi qui mortem euaserant descriptionem publici codicis innouauit, & quos de Christianis vectigalibus depresserat gladius vastatorum à fisci codice demerentur. Hic licet petulcus tamen sollicite rexit regnum. Sexto anno regni istius hora prima, secunda, & tertia, omnes Corduba habitantes, tres soles lucis mirifica conspexerunt, & quasi psallentes cum facibus igneis & Smaragdineis prædicebant, ex quorum ortu Angli deuastantes Hispania sine nutu Dei fame intolerabili affecerunt.

Alulith Chalifa. 125

18 Abulcatar.

19 Toban.

Ibrahem Chalifa. 127

Maruan Chalifa. 128

20 Thoaba.

21 Iuceph.

Tres soles vis.



## CAPVT XVIII.

## De Abdalla Benallabeci, &amp; Abderramen.

134  
Familia  
Allabeci,  
Chalifa-  
tum inua-  
dit,  
Abdalla  
Chalifa.

Corduba  
regia Ara-  
bum.

أبد هود

الداخل

22 Abder-  
ramen.

**H**OC tempore anno Arabum centesimo trigesimo quarto Abdalla Benalla-  
beci Maruan, qui tumultuose, vt diximus, Imperium Arabum occuparat,  
manu valida attentauit: quod Maruan cum presensit, tumultu gentium  
animo minoratus, cum thesauris publicis è palatio fugiens, ire in Lybiam medita-  
tur, vt ibi praliū repararet: sed Abdalla nihil veritus, seniorum instinctu, in sede  
regia se collocauit, & statim post Maruan cum infinito exercitu Arabum, & Persa-  
rum suum patrum zali nomine destinauit, qui Maruan de loco in locum insequaba-  
tur. Tot enim mala intulerat Sarracenis, quod nusquam receptaculum inueniret, &  
Nilo traiecto cum ad locum, qui lingua eorum Azumum dicitur, peruenisset, insecu-  
tores cum Maruan sese adeo valide iacularunt, vt binos per dies ex utraque parte  
plurimi caderentur: & die tertio Maruan victo, & interfecto, insequentes à gladio  
cessauerunt. Tunc capita magnatum ad Abdallam dirigunt, quasi Xenia pretiosa,  
& de residuo spoliū remunerauit bellatores, digna pace patria terminos dispo-  
nentes, & à Mahomet vsq; ad hæc tempora cismarini, & ultramarini Arabes vnus  
Amiramomeni dominio regebantur, & qui de Benallabeci progenie descendebant,  
eos qui de Abenumeia descenderant à sede imperij expulerunt, cognationem eor-  
um ad necem vbique inuestigantes. Humeia autem, & Abenallabeci ex duabus  
confiliationibus Mahometi processerunt: unde & inter domos eorum diu conten-  
tio perdurauit. Alij dicunt, quod Mahomet non nisi vnā filiam reliquisset, quæ Fa-  
tima dicebatur, & nupsit Alij Abentalep, qui scriptor fuerat Mahometi, & post  
Mahomet, quartus regnauit, annis quatuor, & diebus octo, & ab isto & Fatima  
duæ domus concertantium processerunt, & post Mahomet Abenallabeci, cismarini ab  
Africano Imperio discesserunt, & sedem regni Corduba statuerunt: deinde parti-  
cularibus dominij excidia patrauerunt, vsque ad tempora Almoravidum, qui sibi  
Hispanias subiecerunt, & fuit Monarchiæ vnitas restituta. Sed & Almoades tam-  
ab Africa, quam ab Hispanijs Almorauides eiecerunt, & sibi regnum totaliter subie-  
cerunt, vsque ad tempora regis Fernandi, sub quo Abensut Almoades ab Hispanijs  
effugauit, & fere monarchiam obtinuit citra mare. Vnus autem Abderramen  
Abenmeia, qui Abderramen Adahal postea fuit dictus, clanculo in Hispanias cis-  
fretauit, & misit quendam de clientulis, vt voluntates omnium exploraret, & inue-  
nit quamplurimos Abderramen beneplacito inclinatos: quod cum ad Abderramen  
notitiam peruenisset, statim ad Hispanias cisfretauit, & continuo Malaca, Assidona,  
& Hispalis eius dominio se dederunt: & Hispalim fere de omnibus Hispaniæ partibus  
aduenerunt, eius dominio se spondentes, & inde exercitu congregato processit contra  
Iuceph Alaci, qui Cordubæ erat pugnaturus, & pralio inuito fugit Iuceph ad præ-  
sidium Toletanum, & Abderramen interim Veiam obsedit. Tunc Iuceph furtim in-  
gressus est præsidium Cordubense, & inde dominas tres educens in Granatæ confugio  
serecepit, quem Abderramen insecutus tandem in deditiōem eum recepit, & cum  
Abderramen Cordubam inde venit, sed culpa conscius, sibi timens, Emeritam  
adiit fugitiuus: vbi fere viginti millibus hominum congregatis, terram Abderra-  
men cæpit vastationibus laceffere, & dum incurfibus deseuiret, bellatores de Hispa-  
li, & eius partibus venientes continuo fugauerunt, & ipse credens Toleti, vt in præ-  
sidio liberari, à quibus vitam sperauerat, est occisus, & in continenti Abderramen  
dominio se dederunt, & tunc regno in Hispanijs confirmato Amiramomeni statuit se  
C vocare,



vocare, anno Arabum centesimo quadragesimo secundo. Et tunc fecit obsidari præsidium Cordubense, & Hortum nobilem, qui Razapha Arabice nuncupatur. Tunc unus qui Girat Alhadra, & alius qui Beie, & multi alij contra eum in unum facti surrexerunt, sed omnes eade, & praelio subiugavit, & urbes rebelles dispendio simili coarctavit, & multos suspendio, multos nece, multos gladio eliminavit. 142

Anno autem Arabum centesimo quadragesimo nono cæpit Cordubensem Mezquitam adificare, ut prerogativo opere omnes Mezquitas Arabum superaret; regnavit autem annis triginta tribus, & mortuus est anno Arabum centesimo septuagesimo primo, & sepultus est in præsidio Cordubensi. Reliquit autem undecim filios, & novem filias. Unus ex filiis Isen nomine, successit in regno. Frater autem eius Zulema, qui à patre successor fuerat institutus, præerat principatui Toletano. Hic cum audisset, quod eum Pater instituerat successorem, contra fratrem exercitum congregavit, & sibi mutuo occurrentes apud castrum, quod Bulche dicitur, acriter dimicarunt, sed Zulema inferior est inuentus; & Isen victoria animosus, Toletum adiit, & obsessam post modicum occupavit. Zulema autem victus, & fugitivus Murcia se recepit anno Arabum centesimo septuagesimo quarto. Post hæc Isen emit à Zulema quicquid in Hispanijs possidebat pro septuaginta millibus aureorum, & Zulema relictis Hispanijs mare transiens iit in Barbariam: & quievit Isen ab eo, & obtinuit Isen Toletum, & cætera loca, quæ Zulema consueverat possidere. Similiter cum altero fratre Abdalla, interpositio dissidio aliquanto, demum concorditer convenerunt, ut relictis Hispanijs in Africam transfretaret: & sic duobus fratribus effugatis, ab eorum scandalo regnum Hispania conquevit, & totam terram iustitia, & dilectione pacifice gubernavit, & à suis plurimum amabatur. Templum 149  
Cordubensi  
adificatur. 177  
23 Isen.

## CAPUT XIX.

## De Actibus Isen.

ANNO autem Arabum centesimo septuagesimo septimo, misit quendam à suis qui Abdelmelic dicebatur, cum magno exercitu, ut Christianorum patriam devastaret. Hic Narbonam, & Girundam, & loca interposita cæpit, & subiugavit, & tot spolia secum duxit, ut in quinta parte Isen suo principi Morabetinorum quadraginta quinque millia pervenirent, ex quibus Mezquitam Corduba, quam pater suus inceperat, consummavit. Narbonenses autem & cæteri Christiani tanto exterminio ferebantur, quod pactis concordie interiectis, ut à Narbona usque Cordubam, humeris, & vehiculis terram ferrent, ex qua in suo præsidio Mezquitam adificavit. Construxit etiam Mezquitas alias, & veteres renovavit. Quicquid autem acquirere poterat, liberaliter diuidebat: & ita viriliter restitit Christianis, ut cum quadam vice dives quispiam pro redemptione Maurorum, magnam summam pecunie diuisset, vix potuit inueniri quem redemptio liberaret. Et cum suorum aliquis morte propria vitam, aut gladio finiebat, paternum stipendium filio quantumlibet parvulo, erogabat, donec ætate perfectus, militiae adscriberetur. Hic constituit pontem qui Corduba adhuc exstat: fuerat enim ibi pons alius, qui sub isto inferior subsistebat, & est in directum portæ maioris, prope præsidium, quod in lingua sua dicitur القصر Alcazar: & tanta diligentia pontis fabricam procuravit, quod ipse personaliter operantibus assistebat, & fabricæ ordinem dirigebat. 177  
non posteriores  
redencion de castoros  
Pons Cordubensis,

## CAPV V XX.

## De Prognostico mortis eius.

**T**ANDEM aduocauit quendam in arte Astronomiæ valde peritum, & quaesuit ab eo, quid de regno, vita, vel eius operibus sua artis indicio percepisset, at ille licet timidus, minis territus, quæ perceperat reuelauit, dicens ei, Eris præ regibus Fortunatus, & manus tua opprimet inimicos, sed in regno octo annorum numerum non complebis. Quod Rex audiens, diu tacuit, Astronomum autem remunerauit. Exinde autem cepit se virtutibus politicis exercere, & se omnibus beneficium exhibere, & pauperibus iustitiam conseruare. Hic Galleciam deuastauit, anno Arabum centesimo septuagesimo quinto, & in reditu obuium habuit Veremudum. Deinde, ut diximus, Narbonam obtinuit, & Gerundam, anno Arabum centesimo septuagesimo septimo: & plurima bella exercuit cum rege Galleciæ Aldefonso: & cum quadam vice Galleciam introisset, anno Arabum centesimo septuagesimo nono, Christiani in montanis loca denia seruauerunt, & transitu occurrentes, pluribus captis, ex Arabibus, plurimos occiderunt.

## CAPV T XXI.

## De morte Isen, &amp; regno Alhacam.

**I**SEN autem cum regnasset annis septem, mensibus septem, diebus septem, vitam finiuit, & filium suum Alhacam nomine, regni substituit successorem, anno Arabum centesimo septuagesimo nono, & regnauit viginti sex annis, mensibus decem, diebus viginti. Hic fuit sapiens, & strenuus in agendis, & ut legis eorum ratio asserit, Fortunatus, & seruorum quinque millia ad sui custodiam deputauit: tria millia de apostatis Christianis, & duo millia de eunuchis, quorum aliqui secum ibant, alij præsidium obseruabant: & ipse etiam personaliter pauperes indicabat, & maleficos inquirebat, ut compesceret delinquentes: & quod gentis illius impietas vix admittit, elemosynas liberaliter erogabat. Cum autem fratres Isen Zulema & Abdalla, qui à facie fratris, ut diximus, fugerant ultra mare, audissent Isen mortuum, & Alhacam filium eius in regni regimine substitutum, conati sunt regna perturbare, & fugæ infamiam festino reditu palliare, & contra nepotem vela reducia crexerunt, & in Hispaniam cisfretantes, regnum nepotis inuadere præsumperunt, & Abdalla, agnomine Valentinus, cum barbaris Valentia rebellauit, & Zuleman fratrem suum Tangia accersiuit, & ambo à Valentia nepotem suum, Alhacam nomine, bellis indefinentibus impetebant, demum collatis vexillis ad inuicem dimicarunt, & Zulema ibi interfecto, Abdalla, fugæ opprobrio derelictus Valentiam est reuersus.

Hoc fuit anno Arabum centesimo octuagesimo quarto, anno regni Alhacam quinto. Mansit autem Abdalla Valentia prælio refrænatus, & auxilio destitutus: Nepoti autem per nuntios supplicauit, ut securitatem, & victualia indulgeret:



*Alhacam autem malitiam iam oblitus, concessit ei ut Valentia moraretur, & mille aureos mense quolibet, & per annum quinque millia sibi dabat: Abdalla autem, iam pacificus, filios suos misit Regi, & Rex eos benigne recipiens, eorum uni sororem suam matrimonio copulauit, & sic terra à prælijs conqueuit.*

## CAPVT XXII.

## De rebellionem Toletanorum.

**A**NNO autem regni Arabum centesimo nonagesimo, regni autem eius decimo septimo, populus Toletanus, confidens de fortitudine ciuitatis, & multitudine incolarum, & copia victualium, rebellauit, & ei iura regalia negauerunt, quos copia, otium, & securitas fecit à dominio aberrare. Rex autem licet familiari stimulo arctaretur, sustinuit patienter, & scelus scelere studuit callide vindicare; & vocauit Ambroz, quem Osa præfecerat, & Casaraugusta, & erat carus, & fauorabilis Toletanis: regi autem Alhacam semper extiterat utilis, & fidelis: Hunc misit Toletum cum epistolis suasorijs, quæ talia continebant: Cum misissem aliquos qui mea negotia procurarent, & vos in deuotione regia conseruarent, intellexi eos vos stultis operibus promocasse, & regia negotia minorata: nunc autem mitto vobis Ambroz, qui vestris beneplacitis condescendet: cum sit vester amicus, & contribulus. Quem ipsi cum gaudio receperunt, & ad sua consilia admiserunt, & diebus aliquot interiectis, promisit eis rebellionem participem velle esse, & præter regium præsidium, aliud in ciuitatis medio se facturum, ut ibi regis familiares secum haberet, ne possent in populum malignari: & statuerunt ei locum in monte, vbi Ecclesia sancti Christophori nunc est sita, & precepit suis, ut domos circa idem præsidium fabricarent, & educatione terræ ad parietes erigendos, & industria in medio præsidij profunda voragine foveam dilatauit, & omisis alijs præsidij ciuitatis, in isto statuit mansionem, & placuit regi, scienti hoc ex industria procuratum.

## CAPVT XXIII.

## De Cæde Toletanorum.

**T**UNC Rex Alhacam mandauit his, qui in tabernaculorum castris vel ciuitatibus morabantur, ut à Rege auxilia implorarent, quia Christianorum incursum grauabantur, & per se vel per alios succurreret impugnatis. Et hæc relatio venit Toletum, & ad cunctas ciuitates. Rex autem precepit exercitus undique congregari, & misit cum eis filium suum Abderramen, & etiam de maioribus seniorum, ut adolescentem qui decimum quartum agebat annum, in consilijs custodirent. Cumque venissent Toletum, castrametati sunt ab Oriente, & continuo venit nuntius, quod treugam firmauerat cum Christianis, & demisso exercitu, quod redirent. Ambroz autem ut fuerant facta cuncta percipiens, Toletanis suasit quod Abderramen instantissime supplicarent, ut eorum ciuitatem ingredi dignaretur, qui tandem precibus vix coactus, annuit postularis. Ingressus autem

autem in Ambroz præsidio voluit hospitari, ut inueniretur quasi in medio ciuitatis, & ut apud eos gratiosior haberetur. De consilio Ambroz de potioribus vrbis fecit ad conuiuium inuitari, & solennibus epulis instauratis, cum venissent qui fuerant inuitati, speculatores cum ensibus preparati ingredienti, hospites capitibus mutilabant, & retentis capitibus, equitaturas per oppositum hostium dimittebant, sanguine in voragine fontæ eliquato. Cumque quispiam vaporem sanguinis ascendentem odoratu narium percepisset, & non ex carniū, vel ex vapore conuiuij inualere, quesuit de his qui introierant, quidnam esset: & responso accepto, quod in epularum sedibus discumbebant, odore sanguinis stimulatus, factionis interitum promulgauit, quia fere succubuerant quinque millia occisorum. Populus autem deiectis animis consternatus Alhacam, & Abderramen seruituti capita subiecerunt, & rebellionis opprobrium confusione debita susulerunt, & hoc fuit anno Arabum centesimo nonagesimo.

## CAPVT XXIV.

## De victorijs Alhacam, &amp; morte eius.

**P**OST hæc actis felicibus eleuatus, misit quendam de suis magnatibus, Abdelcarim nomine, cum suo exercitu Calaguriam. Abdelcarim autem cum obsidisset aliquamdiu Calaguriam, & etiam vsque ad mare phalangibus emissarijs plurima vastasset, cum prædæ gloria copiosa mittentis in dominium est reuersus, anno Arabum ducentesimo, regni Alhacam decimo nono. Postea anno Arabum ducentesimo secundo Arabes de suburbio Cordubensi nisi sunt contra Alhacam dominum rebellare, quia diuitijs, & delicijs eleuati, iugum dominij abhorrebant. Alhacam autem rebellionem adueniens, cum Abdelcarim, qui strenuitate militiae erat clarus, per portam quæ noua dicitur, ciuitatem ingressus est Cordubensem, & rebellium indebitam factionem cæde, & suspensio domuit, & sedauit, & iuxta portam quæ pontis dicitur, in ripa fluminis, trecentos & amplius infurcauit: qui autem potuerunt euadere fugæ subsidium elegerunt. Rex autem solita pietate decreuit rebus, paruulis, & mulieribus indulgendum. Hic Alhacam fuit strenuus in agendis, & rebelles compefcuit vrbellorum. Dum autem bella cum suis patruis exerceret, Christiani Barchinonam acquisuerunt, & Arabes vastationes, & incendia sunt perpeffi. Cumque Alhacam, sedatis suorum dissidijs, ad recuperandas terras quas amiserat, se pararet, mortis Imperio est praeventus, anno Arabum ducentesimo sexto, regni sui vigesimo septimo, qui reliquit nonemdecim filios, filias autem viginti & unam.





## CAPVT XXXV.

De regno Abderramen, & nauibus  
aduentitijs.

**P**OST Albacam regnauit filius eius Abderramen: quadraginta & unius annorum erat cum regnare cœpisset, & triginta & uno annis regnauit; & seniores Curia fratres Abderramen, & consanguineos conuocauit, qui uenientes libenter noui regis dominium receperunt. Abdalla autem, qui, ut diximus, Valentia morabatur, ut olim fecerat rebellauit: sed Abderramen continuo exercitum congregauit, Abdalla uero fugam inijt, ueritus exspectare, & post fugam, paucis diebus interpositis, exspirauit. Tunc Abderramen uxores, & filios Abdalla fecit ad se adduci, & eis in necessarijs liberaliter prouideri, & ex tunc apud Arabes parentibus filij successerunt: nam antea fratres, consanguinei, uel propinqui, & etiam de alio genere succedebant. Et fuit Abderramen plurimum fortunatus, ut gentis eius geneatici dogmatizant. Hic Barchinonam nuper à Christianis obtentam, per Abdelcarim suum principem subiugauit, & terras alias, quas Christiani tempore schismatis occuparant. Ipse etiam per se plurima bella gessit.

Anno autem Arabum ducentesimo vigesimo nono, regni autem eius vigesimo tertio, nuntiatum est ei quinquaginta quatuor naues, & quinquaginta quatuor galeas in Vlixbone littore applicasse, & Abderramen rescripsit eis, ut prout possent sua custodia prouiderent. Sequenti anno plures naues, & maior potentia Hispalensi littori aduenerunt, & diebus tredecim Hispalim obsederunt, & congressus cum Arabibus habuerunt, & pluribus interfectis, captiuos, & spolia plurima abduxerunt: inde Gelzirat Cadiz, & Assidonam cum suis classibus adierunt, & confectis prælijs, pluries cum Arabibus pugnaverunt, & terras eorum cade, & incendio vastauerunt, & prædas multiplices abduxerunt, & iterum Hispalim sunt reuersi, & transierunt in Gelzira Captel, & impugnatam tribus diebus eductis spolijs incenderunt. Deinde per hortos & uincas & terminos Hispalis transeuntes, omnia vastauerunt, Arabes occidentes, & quæq; utilia secum ferentes, deinde mane Hispalim uenientes congressum cum Arabibus habuerunt, in quo tot de Arabibus ceciderunt, quot uix posset industrius numerare, & Arabes ab utraque facie urbis fugati, uix uitæ relicti, ad muri ambitum confugerunt: gentes autem quæ nauigio uenerant, per diem, & noctem ciuitatem grauiter affllexerunt, & sequenti die ad stationem nauium redierunt, cum multitudine spoliiorum, quæ à suburbio & suburbanis, iuxta uotum, quilibet abducebat. Cumque ad Abderramen rumor huius peruenisset, fecit magnum exercitum congregari, quem in auxilium Hispalensium destinauit, & uenientes cum gentibus nauium prælium commiserunt: sed nec hi, nec illi uincere potuerunt. Gentes autem in uilla quæ Tablata dicitur prope Hispalim intrauerunt, & Arabes eos machinis impugnantes à Tablata egredi compulerunt, & in conflictu usque ad quadringentos amiserunt. Ipsi autem diebus aliquot ibi morantes, consinia Hispalis vastauerunt, & cum audissent quod Abderramen naues quindecim, & exercitum alium in eorum exterminium destinaret, reuersi sunt Vlixbonam, & exinde cum alijs qui illuc aduenerant, ad propria remearunt.

25 Abder-  
ramen.

Abdalla

10 uicium hereditaria

Barcelona

229

34 naues  
normandos

Sivilla

Cadiz

Capitel

Tablata

## CAPVT XXVI.

## De morte Abderramen, &amp; regno Mahomet.

296  
compedrado de los ptaas  
+ 228  
45 h  
42 hjar  
26 Mahomet.  
R. Ramiro  
Ordonio  
240 Toletani  
rebellant.  
Navarra  
Calat  
3000, 7000  
241 Calatava  
Z  
700  
242  
243

**A**NNO Arabum ducentesimo trigesimo sexto, regni autem sui trigesimo, praecepit plateas Cordubae pavimento lapideo solidari, & aquam a montanis, plumbeis fistulis deriuari, & fontes iuxta Mezquitam, & iuxta praesidium, & in alijs locis eductione nobili emanare. Et cum hoc fecisset, mortuus est Abderramen, anno Arabum ducentesimo trigesimo octauo, incipiente anno regni sui trigesimo secundo, & reliquit quadraginta quinque filios, & filias quadraginta duas.

Anno Arabum ducentesimo trigesimo octauo Mahomet filius Abderramen, filij Albacam successit in regno. Eo anno mortuus est Ranimirus filius Veremundi Rex Galleciae, & filius eius Ordonius successit in regno, & regnavit annis triginta quinque. Anno Arabum ducentesimo quadragesimo, regni autem Mahomet secundo, Toletani contra Mahomet dominium rebellarunt, & Ordonium, qui in Asturijs, & Gallecia tunc regnabat, in adiutorium vocauerunt, qui misit eis germanum suum cum multitudine Asturum, & Nauarrorum. Tunc Mahomet collecto exercitu iuit Toletum, & cum propior esset vrbi in alueo, qui Celet dicitur, insidias occultauit, & cum ad ciuitatem propius accessisset, speculatores exterius positi venire cum paucis bellatoribus existimarunt. Quod cum Christianis, & ciuibus intimassent, contra eum volentes congregari, exierunt, & cum praelium inchoassent, insidia quae latuerant, accurrerunt, & succubuerunt, cum suis complicibus Toletani, & de Christianis vsque ad octo millia, Toletani vsque ad septem millia perierunt, & fecit Rex Mahomet, multa capita detruncari, quae Cordubam, & ad maritima, & in Affricam pro victrici gloria destinauit. Sequenti anno Calatrauam, Talaueram, & Curitam multis militibus stabiliiuit, vt Toletum, & eius consinia infestarent; & tertio anno misit Almundar germanum suum cum exercitu copioso, qui circa Toletum residens, messes, & fructus, & vindemias penitus deuastauit. Post cuius discessum Toletani Talaueram inuadere praesumpserunt; sed egressus princeps, qui praerat Talaueram, venientes congressu obuio debellauit, & pluribus captis, & interfectis vsq; ad septingenta capita occisorum Regi Cordubam destinauit. Sequenti anno Rex personaliter super Toletum exercitum congregauit, & eam obsidens pontem praecipitauit, & multi de ciuibus, qui pontem ascenderant, defensuri cum pontis praecipitio corruerunt; ex quo fuit Toletanus populus valde animo consternatus. Anno autem septimo regni sui cum iterum exercitum congregasset, Toletani incole Mahomet regis potentiam non ferentes, se eius dominio reddiderunt, qui eos benigne recipiens pacem dedit, anno Arabum ducentesimo quadragesimo quinto, anno septimo regni eius.





## CAPVT XXVII.

## De nauibus Normannorum.

**E**ODEM anno sexaginta naues à Normannia aduenerunt, & Gelzirat, Alhadra, & Mezquitas, undique deductis spolijs, cæde, & incendio consumpserunt: deinde in Africam procefferunt, ubi exterminia graua exercuerunt, & reuersi in maritimis Hispaniæ hyemarunt, & in vere ad propria redierunt. Sequenti anno Rex Mahomet contra Nauarros exercitum adunauit, & circa Pampilonam messes, & vindemias deuastauit: & obtinuit tria castra, in quorum vno inuenit militem qui Fortunius dicebatur, quem captum Cordubam secum duxit, & elapsis viginti annis suæ domui restituit, cum multis muneribus liberatum, & vixit hic Fortunius centum viginti sex annis. Sequenti anno filium suum Almundir cum exercitu contra Alauam destinauit, qui Christianos crudeliter debellauit, & multa eorum capita Cordubam deportauit. Sequenti anno Emerita rebellauit, cui adueniens fecit destrui arcum pontis, & ciues deditioi se offerentes, milites cum filijs, & vxoribus obtulerunt, vt obsides Cordubam ducerentur: quod Rex annuens fecit destrui muros urbis: præter præsidium, quod suis bellatoribus inuestiuit.

Normannorum

246

Navarra

Fortunius  
longæuus.

247

Alaba

248

Merida

## CAPVT XXVIII.

De rebellionem Toletanorum, & morte Mahomet,  
& regno Almundir.

**A**NNO Arabum ducentesimo quinquagesimo septimo, regni eius decimo nono, Toletani iterum rebellarunt, & quendam, qui Mahomet Abenlop dicebatur, super se regem statuerunt, & rex Mahomet filius Abderramen duxit exercitum super eos: sed ipsi animis minorati se mandatis eius, datis obsidibus, obtulerunt. Quod Rex acceptans præcepit obsides Cordubæ custodiri, & hic secundo accepit obsides à Toletanis. Anno ducentesimo sexagesimo sexto, præcepit Rex naues fieri Cordubæ, Hispali, & in alijs locis ubi lignorum materies abundat. Audierat enim esse in Gallecia ciuitates, & oppida, pagos, & villas, quæ nullo murorum ambitu clauderentur: & nauigio instaurato præfecit eis quendam, qui Abdelhamit dicebatur: sed fractis nauibus in contraria tempestate, naues & homines totaliter perierunt, Abdelhamit cum paucissimis vix euasit. Anno ducentesimo sexagesimo septimo, fuit terra motus in tota Hispania generalis, & cum rex Mahomet sederet in Mezquita Cordubæ, & oraret, fulmen cecidit iuxta eum, & duos homines interfecit: tonitrua, coruscationes, & lampades turbatum populum deterebant. Anno autem Arabum ducentesimo septuagesimo tertio mortuus est Mahomet, anno ætatis suæ sexagesimo, regni autem trigesimo quinto, qui regnum suum habuerat, & prouide gubernauit. Et dum quadam die per regale viridarium deambulare, miles quispiam de astantibus dixit ei, Quam pulchrum viridarium, quam pulchra dies, quam dulce seculum, si mortis sententia non veniret. Tunc Rex inquit, Erras in verbo, quia si mors non esset, ego nullatenus hic regnarem. Reliquit autem triginta quatuor filios, & viginti filias. Eo mortuo anno Arabum quo supra, filius eius Almundir apud Alhamam debebat, quæ Almeriæ balnea nuncupatur, & audito patris decessu Cordubam

257

Toledo Abenlop

266

Galicia

267

Jardenoto

273 +

27  
28

27 Almundir.

dubam

dubam festinavit, & mox eum ad regni solium sublimarunt, anno atatis sue quadragesimo tertio. Et cum esset liberalis in principio regni sui, Cordubensibus decimas relaxavit: sed immemores beneficij, contra eum continuo rebellaverunt: ipse autem agens exercitum contra eos, vitam finiuit, cum regnasset fere duobus annis, reliquit sex filios, & septem filias.

## CAPVT XXIX.

## De regno Abdallæ.

274  
28 Abdal-  
la.  
276  
Rebellio.  
11 hijos  
13

**A**NNO Arabum ducentesimo septuagesimo quinto, exercitus germanum suum Abdallam fratri mortuo subrogavit, qui noua gloria inclitatus, ab omnibus, etiam Cordubensibus, est receptus, & fratrem suum Corduba honorifice sepeluit, regnavit autem viginti quinque annis, diebus quindecim. Sequenti anno contra eum Homar Habenazon vnus de principibus rebellavit, & cum eo, contra regem gentes plurimæ surrexerunt. Stepa, & Vlixbona, & alia multa castra similiter rebellauerunt. Rex autem super eum exercitum congregavit. Homar autem ea facilitate, qua rebellauerat, inclinavit, & Rex Abdalla petenti veniam concessit. Hispalis autem que similiter rebellauerat in se bellis ciuilibus concitatis se mutuo sanguine cruentarunt, & qui superiores in effusione sanguinis sunt inuenti, regis Abdalla dominio se dederunt, & sic in Hispali totale dominium est adeptus. Homar autem Habenazon pro facilitate venia eleuatus, iterum rebellavit, & Giennium veniens presidij principem interfecit, & procedens per oppida, & castella, eiusdem officij principes factione simili decollauit. Et rex Abdalla adeo fuit eum varijs incuribus insecutus, quod coactus fuit, etsi non animo, sicte saltem ad Christiani nominis gratiam se transferre, & Baptisimum suscipere, & fidem Catholicam profiteri. Rex autem Abdalla precepit Loxa presidium obsidari, & cum magnis, & minoribus equo iudicio iustitiam exhibere; apud Cordubam vitam finiuit anno atatis sue septuagesimo secundo, regni autem vigesimo quinto. Sepultus est autem in presidio Cordubensi, & filios undecim, & tredecim filias reliquit.

## CAPVT XXX.

## De regno Abderramen, &amp; Alhacari.

29 Abder-  
ramen.

**M**ORTVO Abdalla nepos eius Abderramen filius Mahomet filij Abdalla successit in regno, & non successit aliquis filiorum, quod in preteritis non inuenitur. Viginti trium annorum, & quinque mensium erat cum regnare cœpisset, anno Arabum trecentesimo: & quinquaginta annis regnavit, & fecit mutato nomine se vocari المنصر لدين الله Almunacer Ledinellæ, quod interpretatur defensor legis Dei, & fecit se communi nomine appellari امير للمؤمنين Amiramomeni, quod Rex credentium interpretatur. Hic fuit Rex potens, & honoratus, & gentes suas iustitia, & iudicio gubernauit; & quia dissensio erat inter domum Abhenhumeje, & domum Abellabeci, qui nepotes fuerant Mahometi, vix erat locus quem Schismata non vexarent. Ipse autem quosdam pace, quosdam terribus reconcilians, vt pacifice viuerent procurauit, & quosdam rebelles bellis, &

D incuribus



incurſibus ſic afflixit, vt ſederent ſolitary, & tacerent: & per viginti annorum ſpatium a bellis, & exercitiis non ceſſauit, donec totam terram ſub ſuo dominio complanauit, & omnes ei vnanimiter ſubfuerunt. Hic praecepit adificari caſtrum prope Cordubam, quod hodie adhuc exſtat; & nauigio ſeptam veniens, obtinuit ciuitatem, & de ſuis in ea principem ſtabiluit. Poſtea Cordubensem Mezquitam, & multas alias adornauit, & opera regalia dilatauit. Mortuus eſt autem anno etatis ſuae ſeptuageſimo quarto, regni vero quinquageſimo, anno Arabum trecentefimo quinquageſimo. Alhacam filius praedicti Abderramen patri ſuo ſucceſſit in regno, & imposuerunt ei nomen *المستقر بالله* Almuztacarville, quod interpretatur defendens ſe cum Deo, & regnauit annis ſexdecim, & duobus menſibus. Hic inuenit terram à patre ſuo pacifice complanatam, quam & ipſe paterno moderamine conſeruauit nec neceſſe habuit bellis, vel exercitiis exerceri. Mortuus eſt autem anno etatis ſuae ſexageſimo quarto, regni autem decimo ſexto.

## CAPVT XXXI.

## De Iſen, &amp; de eius Alhagib Almanzor, &amp; Abdelmelic.

**A** NNO Arabum trecentefimo ſexageſimo ſexto Iſen filius Alhacan Patri ſuo ſucceſſit in regno; decem annorum erat, & octo menſum cum regnare coepiſſet, & regnauit prima vice annis triginta tribus, & menſibus quatuor, & imposuit ſibi nomen *المهياتبيلة*, quod interpretatur nitens cum Deo, & cum eſſet puer, datus eſt ei à ſuis principibus coadiutor, vir ſtrenuus, & induſtrius atque prudens qui Mahomet Ibne Abenhamir proprio nomine dicebatur: ex nunc autem dictus fuit *الحاجب* Alhagib, quod interpretatur Vice-*rex*. Poſtea autem quod ſemper in praelijs fuit victor *المنصور* Almanzor fuit appellatus, quod defenſor interpretatur, & licet multi pro hac potentia laboraſſent, ipſe conſenſu omnium, omnibus eſt praelatus, & ſic ad ſe totius regni negotia recollegit, vt rex Iſen tantum regali nomine praemineret, & nomen Iſen in moneta, & pannis, & epigrammatibus, & epitaphijs ponebatur: & fiebat oratio ſuper eum, & expers potentiae agebatur, & quaſi clauſus in praefidio Cordubensi, quidnam fieret ignorabat; nec accessum alicuius permittebant, niſi quod tantum omnibus dicebatur, iſta praecepit vobis Iſen, & talibus internuntijs credebatur; & cum Almanzor cum exercitu recedebat, cuſtodes regis cuſtodia deputati, ſic eius exitum obſeruabant, vt cum ad regale viridarium equitaret, nullus eſſet eius auribus appropinquans, nec auſus cum clamore aliquo propulſare; & ſic uxoris contubernijs interceptus, reputabat ſibi pro regis dominio ſatiſfactum. Et durauit Almanzor huius regiminis proteſtas annis viginti ſex, & in iſto annorum ſpacio quinquageſies, & bis exercitum Chriſtianorum ſinibus ſuperduxit, & eos multis afflictionibus coarctauit: & ſuis adeo fuit carus, quod ſepe voluerunt ei concedere regni thronum: ſed ipſe nunquam voluit Iſen priuare. Et cum quadam vice Caſtella terminos deuastaſſet, & hyemali inſtantia proponeret remeare, Chriſtiani in montium tranſitu reſtiterunt, quos aſperitas niuium adiuuabat; & ipſe intelligens tranſitum praepeditum, in planitie caſtra fixit, & cum bobus praedae, aratra inſtaurauit, ſemina terra mandans. Interim autem tot incurſibus, & tot cedibus Chriſtianorum Patrias deuastauit, vt cogere hoſtibus ſupplicare, & impeditum tranſitum expedire, vt Almanzor exercitus pertranſiret, & etiam pro agricultura, & ſemine pretium obtulerunt; quod Almanzor

manzor non necessitate, sed pietatis clementia acceptauit, & sic Cordubam est reuersus. Cetera quæ in Christianorum sinibus perpetravit, superius in Historia Gothica differui diligenter, sub rubrica, de insolentijs Veremudi, & Victorijs Almanzori. Fuit autem factus Alhagib, anno Arabum trecentesimo sexagesimo septimo, & præsuit annis viginti sex, Mortuus est autem anno Arabum trecentesimo nonagesimo tertio, prælationis suæ vigesimo sexto, cui successit anno quo supra, filius eius Abdelmelic, cognominatus Almodofar, & sex annis, & octo mensibus tenuit regiminis principatum, sicut tenuerat Pater eius, & anno sequenti cum super Legionem exercitum congregasset, à Christianis turpiter effugatus, turpiter est reuersus, nec adiecit ultra inuadere Christianos, sed regni negotia vtiliter dirigebat: mortuus est autem anno Arabum quadringentesimo, & sui regiminis septimo. Huic successit frater eius Abderramen, qui derisorie Sanciolus dicebatur: hic pessimus, & peruersus, fornicationibus & ebrietatibus insistebat, & Isen à regno expellere nitebatur, mortem minitans nisi eum regni institueret successorem: qui metuit, & annuit postulanti. Cum autem Abderramen quatuor mensibus & dimidio præsuisset, eum ob suam nequitiam peremerunt. Hucusque Isen regnauerat annis triginta tribus.

## CAPVT XXXII.

## De intestinis dissidijs super regimine principatus.

**I**GITUR Abderramen, ut diximus, interfecto, cœperunt ubique contra Isen rebellia procurare primus autem fuit quidam, qui Mahomet Almahadi dicebatur, & Corduba cum duodecim complicibus insurrexit, & sumptis armis præsidium occupauit, & Isen captum in domo cuiusdam sui complicis occulti auit, & eum mortuum omnibus publicauit, & quendam Christianum Isen simillimum interfecit, quem mortuum senioribus, & alijs demonstrauit, & decepti similitudine, crediderunt, & statim honore regio se pelierunt. Mahomet autem Almahadi iniuriose contra populum se gerebat, & eorum uxores ludibrijs prouocabat, & quia circa Isen taliter se habuerat, eum odisse & persequi incœperunt, & propter alia quæ subditis inferebat, vnde & seditiones vndique fuerunt orta. Surrexit quidam qui Isen Arax dicebatur, & cum Almahadi quadam die cum suo exercitu Cordubam ingrederetur, illi qui erant in ciuitate cum prædicto Isen Arax coniurarunt, & multos de fautoribus Almahadi occiderunt, & ianuas prope præsidium combusserunt. Sequenti die contra Almahadi egressi sunt ciuitatem, & cum aliquamdiu constixissent, obtinuit Almahadi, & multos ex eis cepit, & aliquos interfecit, & de proditione reputans, Isen & multos alios capitali sententia condemnauit. Tunc quidam de Barbaria nepotem Isen, qui Zuleman dicebatur, super se principem leuauerunt, & extra Cordubam peragrabant: verum quedam pars eorum de Barbaria nisi sunt sibi præficere Maruhan consobrinum Zulema, & dederunt ei equum, & ensen, ut si Zuleman interficeret, statim constituerent eum regem. Quod cum Zuleman per quempiam percepisset, illos barbaros fecit decapitari, & consobrinum suum Maruhan in vinculis detineris & treugam cum Sancio filio comitis Garcia, Ferdinandi, Castella comite obsirmauit. Postmodum pecunia magna data eum contra Almahadi in adiutorium euocauit.



## CAPVT XXXIII.

De aduentu Comitis Sancij in auxilium Zulemæ, & de victoria  
habita contra Almahadi.

**C**OMES autem Sancius cum magno exercitu veniens, factus est Zulemæ in  
 adiutorium. Almahadi autem cum audisset Zuleman cum Comite Sancio  
 aduenire, de Medina-Caly, & alijs locis quos potuit, conuocauit. Erat autem  
 Alhagib Almahadi quidam, qui Alhameri vocabatur: qui autem erant in ciuitate  
 contra venientem exercitum egredi proposuere, vt faciliorem exitum vi pararent,  
 fossata in circuitu repleuerunt, quamuis Almahadi ne hoc facerent, prohiberet.  
 Cumq; extra urbem veniente exercitu conuenissent, Zuleman obtinuit, instante  
 fortiter & viriliter exercitu Comitis Sancij, & caesa fuerunt ex parte Almahadi vs-  
 que ad triginta sex millia Sarracenorum, & Christiani suburbium inuadentes, ab-  
 ductis spolijs, & interfectis plurimis, & pluribus captiuatis cetera vastauerunt. Et  
 cum vidisset Alhagib Alhameri tantum excidium suæ partis, vocatis qui de Me-  
 dina-Caly aduenerant, in eadem Medina cum fuga comitibus se recepit. Alma-  
 hadi autem fugit ad presidium ciuitatis Zuleman, cum Christianorum exercitu, vr-  
 bem exterius obsidente. Tunc Almahadi eduxit Isen regem, quem olim mortuum si-  
 mulauerat, & ostendit eum, omnibus manifeste suadens, vt eum in regem reciperent  
 potius quam Zuleman: sed tantus terror inuaserat audientes, quod nulla suasio po-  
 terat demulcere. Et Almahadi iam desperans abscondit se in domo cuiusdam Ara-  
 bis, qui Mahomet Toletanus dicebatur, & inde cum eodem Arabe Toletum fugit.  
 Zuleman autem ingressus est Cordubam violenter, & presidium occupauit, & in <sup>19</sup> Zule-  
 regali solio se locauit, & mensibus septem regnavit. Hoc bellum fuit apud Arabes <sup>man.</sup>  
 nominatum, & dicitur victoria de Cantiche. Zuleman autem de Cordubensibus non  
 confidens, egressus est ciuitatem, & in vicinis locis morabatur cum exercitu Chri-  
 stiano. Cumq; quadam die seniores Cordubæ ad regem exiissent, Comes Sancius di-  
 xit eis: Quomodo huc existis? tria enim signa stultitiæ in exitu præstidistis, vnum  
 quia timidi, eo quod in primo congressu cum plures essetis, terga dedistis: secundo  
 quia securitate non habita accessistis: tertio quia in Deum grauitè peccastis cum  
 uxores vestras, & filios, & homines legis vestræ, quos gladio cepimus, in seruos eme-  
 re voluistis. Et mirati sunt vniuersi super verbis prudentiæ Comitis. Cumq; Zuleman  
 verbis & numeribus ciuium animos complanasset, & in ciuitate tutius resideret,  
 quidam barbarus suasisit ei vt permetteret eos occidere Christianos, ne forte vt ei ad-  
 hæserant, alij regi adhererent, & ei cederent in periculum, & iacturam: præsertim  
 cum prædis Arabum locupletes, de cætero similia assuescerent. Cui Zuleman: In  
 securitate meæ fidei aduenerunt, & ideo nunquam hoc facinus perpetrabo:  
 & timens Zuleman ne eis fieret quicquam mali, datis muneribus,  
 licentiam tribuit redeundi: at illi cum multis  
 diuitijs reuersi sunt in  
 Castella.



## CAPVT XXXIV.

## Quod Almahadi deuicit Zuleman.

*colli*  
*Armenygal*  
*debeo alkepsi*  
*de Azafra*  
*Citana*  
*Magno de la mes*  
*quinta de Medina*  
*de Azafra*  
404 - 400

**P**AUCIS autem diebus interpositis, Alhagib Alhameri plures ex pluribus partibus congregauit, & etiam Christianos, & duos magnates, quorum vnus Armengandus, alter dictus Veremudus, & veniens ad Almahadi qui tunc temporis Toleti degebat, & procurato exercitu ampliore, contra Cordubam processerunt. Quod cum Zulema innotuisset Cordubenses sollicitauit, ut cum eo occurrerent venienti, sed ipsi factionis solita non oblit, se causis friuolis excusarunt. Barbari autem Regi dixerunt, Pro Cordubensibus non formides, quia nos tibi vsque ad mortem strenue assistemus. Tunc Zuleman de eorum promissione confusus, occurrit Almahadi è contrario venienti, & procedens fixit tentoria in loco qui Accauatal bacar nominatur, qui distat à Corduba decem leucis, & antequam Almahadi exercitus resedisset in eum barbari irruerunt, & ex eis multa millia occiderunt, adeo quod succubuisse Almahadi exercitus videretur, sed resumptis viribus, praelium restaurarunt, & instantibus Christianis succubuit pars Zuleman, & Zuleman cedens hostibus fugit ad Azafra, in qua fuerat aliquamdiu demoratus, & sumpta suppellectili que potuit asportari Citanam abiit fugitiuus. Cordubenses autem Azafra communiter inuaserunt, & eos qui non fugerant, peremerunt, & cetera rapuerunt, & ciuitatem, & quicquid barbarorum fuerat, occuparunt, & à Mezquita maiori lampades aureas, & coronas, & catenas, & omnia alia ornamenta, vestes, & libros, que omnia Barbari demiserant, abduxerunt, & hoc bellum apud Arabes adhuc hodie est famosum, actum anno Arabum quadringentesimo quarto: & fertur Almahadi in exercitu habuisse triginta millia Sarracenorum, & nouem millia Christianorum, & inde Cordubam veniens in regem ab omnibus est receptus, & Isen qui Rex fuerat ei etiam obediuit. Et quia Alhagib Alhameri felicitatem huius procurarat, suo officio restitutus omnia disponebat, Almahadi autem solo nomine præsidebat.

## CAPVT XXXV.

## De proditione Eunuchorum, &amp; morte Almahadi.

*Comde Maimundo*  
*Citana*

**E**T cum in regem fuisset susceptus, recepit nuntios Arabum, & Eunuchorum, qui eius fierent, si vellet offensas prateritas indulgere, & audita relatione hilarior est effectus, & datis muneribus, & petitione admissa, dimisit eos. Qui post paucos dies Cordubam venientes, cœperunt turbare incolas ciuitatis: erat autem cum eo Raymundus quidam, Comes ex Christianis, non ille qui fuit Pater Imperatoris, qui notans scandala, & quod Rex fretus barbaris, & Eunuchis ciuium pecunias auferebat, & quia erga ciues insolentius se habebat, præsertim cum à quopiam audiuisset, quod sicut Cordubenses barbaros exstinxissent, sic conaretur Christianos & Comitem demoliri, & à rege accepta licentia, quia iam pacta inita compleuisset, licentiatus à rege, ad propria feliciter est reuersus. Rex autem incœpit fossatis circumdare ciuitatem, pacto cum ciuibus interposito, ut ipse tertiam partem ciuitatis, ciues residuum consummarent. Interim autem barbari, qui à cæde superstites remanserunt, ciuitates & villas vndique infestabant, adeo quod plures fuerunt habitatoribus destituta Arabes autem & Eunuchi, qui à Citana venerant consilium inierunt,



ut *Almahadi* interficerent, & restituerent *Isen*, olim regem: & hoc consilium *Alhagib Alhameri* communicarunt. In die autem *Pascha* eorum, miserunt quendam Eunuchum, *Hambar* nomine, & cum eo alios eunuchos, qui regale praesidium occuparunt, & captum *Almahadi* tenuerunt: & educentes *Isen*, olim regem, in regali solio locauerunt, & ei *Almahadi* captum praesentarunt: & dixit eis Tu es proditor Dei & mei, quia *Sarracenos* interfici procurasti, & bona eorum amitti fecisti, & prodiciones saepius iterasti & fecit eum per *Alguazilum* statim decapitari, & reseruatō capite, mandauit corpus a muro in plateam praecipitari & eunuchi, & alij frustra tim dilacerantes, etiam in corpus exanime lanceas defigebant: caput autem fecit per totam ciuitatem in lancea deportari quod erat iucundum fere omnibus intueri, eo quod eius iniurias reolebant: & post triduum quidam supplicarunt, ut infelix corpus sepeliretur, quo obtento in *Mesquita* angulo est sepultus. Caput autem misit *Isen Zuleman*, qui *Citana* morabatur, sperans quod eo viso ei fieret in vasallum. Filius autem *Almahadi*, qui *Obeydalla* dicebatur, erat *Toleti*, & a *Toletanis* plurimum amabatur, cui *Zuleman* caput receptum misit, cum mille morabetinis, quod & *Toletani* in *Mesquita* sepelierunt.

## CAPVT XXXVI.

Quod *Isen* secundo regnauit, & de insolentijs barbarorum.

**A**LMAHADI mortuo *Isen* obtinuit regnum suum, & fecit *Alhagib Alhameri*, sicut fuerat ante, tempore *Alhamadi*, & regnum pacifice stabiliiuit, & milites per oppida, pagos & villas statuit, ut introitus hostium obseruarent, & ciuibus ut essent attentī cum clamorem inuadentium peraudirent, & equitabat per ciuitatem: cum omnibus erat carus, eo quod vice alia regni sui, ad eum accessus hominum non patebat, & quia erat a regali genere habens ortum: ipse autem sic se omnibus exhibebat, ut ei obedirent, & ab omnibus amaretur. Et cum per praesidium deambularet, inspiciebat loca regalium tumulorum, & cum vidisset tumulos Patris, & aui sui, vidit tumulum in quo sepultus fuerat, ille sibi simillimus Christianus, de quo superius fecimus mentionem, & ait, Ego hic eligo sepulturam. Barbari autem de quibus diximus non desinebant consinia *Corduba* infestare, *Ecigam*, & *Carmonam*, & *Bethis* & socij incolas deuastare: nec *Cordubenses* milites, ultra villam, quae secunda dicitur, & alia loca, in quibus excubantium militia subsistebant, progredi praesumebant: & sic barbari insistebant, quod multa loca habitatoribus caruerunt, & relicta a profugis barbari occupabant, & vix aliqui victualia in ciuitatem inferebant: unde fuit in vrbe grauis carestia subsequuta, propter quam ciues apud *Isen* dominum institerunt, ut egrediens contra eos bello deiceret, quorum incursum damnosa patientia tolerabat: at ipse *Cordubensium* inconstantiam iam expertus, sorgebat se internuntijs detineri, per quos sperauit eos suo dominio inclinari, & sic eos blandis sermonibus illudebat. Post haec duo Eunuchi venerunt ad eum, & hi fuerant cum *Zuleman*, & dixerunt regi *Isen*: Scias quod illi de genere tuo *Zuleman*, & barbari nuntiarunt, ut *Cordubam* aduenirent, quia eis procurantibus obtinerent, & *Zuleman* iterato regni dignitas perueniret. Et continuo *Atamoribus* propulsatis ciuium multitudinem conuocauit, & eos qui de *Abenhumeye* *Mahometi* maioris nepotis successione procefferant, fecit capi, & vinculis colligari, & bona eorum a ciuibus occupari: & die qui sibi fuerat assignatus, barbari venerunt, pro quorum aduentu inter ciues magna turbatio fuit orta, & Rex armis viriliter

E 19

litana  
Obeydalla  
morabetinis

32 Iseni ]

vicijs Carmona  
Secunda

vicijs

riliter se accingens, cum ciuibus consentientibus in id ipsum, egressus est in occursum, usque ad locum in quo barbari confederunt, sed regis aduentu territi abesserunt. Rex autem milites misit expeditos, qui eorum vestigia obseruarent, sed nec consequi potuerunt: barbari enim à bello profugi incurfibus institerunt, nec à cadibus, & incendijs cessauerunt: Rex autem speculatores, & insidias in patriæ sibus stabiluit.

## CAPVT XXXVII.

De confœderatione inter Isen, & Comitem  
Sancium datis castris.

**H** I s itaque ordinatis Rex egressus est ciuitatem, expeditionis effigie insignitus si posset de aduersarijs aliquid inuenire: omnes autem in eo belli instantiam mirabantur, quem olim viderant præsidio interclusum, nihilominus tamen fere quotidie barbaris nuntios destinabat, & dona plurima promittebat, si suo dominio obedirent. Sed ipsi Zuleman eius aduersario fœderati petebant pacta grauiora & inepta, propter quod elegit periculum potius, quam petita. Zuleman autem de pactationibus iam desperans, ad Sancium Comitem ex Castella nuntios destinauit, spondens pecuniam, & honorem, si eum vellet contra Cordubam adiuuare: qui responsionis oraculum elongauit, donec Isen petitionem Zuleman insinuaret, addens sese in Isen auxilium libentius aduenturum, si pari remuneratione respiceret adiutorem: ita ut sex Castella quæ Almanzor quondam abstulerat, restitueret Christianis. Et cum Isen petitionem Comitis suis consiliarijs intimasset, fuit petitiō grauis visa: sed quia discriminis instantia perurgebat, visum fuit castella cedere, eo quod nouiter acquisita, & minus utilitatis quam oneris secum ferrent, & Rex Isen petitioni Comitis acquieuit, & præcepit castella protinus sibi dari.

## CAPVT XXXVIII.

## De rebellionem Toletanorum, &amp; discursione Barbarorum.

**I** N T E R E A Toletani filium Almahadi, qui Obeydalla dicebatur, regem super se leuauerunt: quodcum ad Isen notitiam peruenerisset, misit Alguazilum suum, ut Toletanos tamdiu obsideret, & impugnaret, donec sibi redderent ciuitatem: qui veniens tamdiu eos cadibus, & impugnationibus infestauit, donec apertis ianuis eum cum exercitu ad præsidium admisserunt, & occupata penitus ciuitate, Obeydalla regem cepit, quem regi Isen Cordubæ viuum misit, & Isen capite mutilatum fecit in flumen præcipitari. Interim autem barbari Cordubam undique infestabant: erat autem Cordubæ magna cæstia, adeo ut summa panis triginta aureis venderetur: inualuerat etiam grauis pestis, ex qua plurimi moriebantur: unde qui poterant ad montium ardua confugiebant. Alhagib autem qui Hua de Alhameri dicebatur, epistolari nuntio Zuleman & barbaris intimauit, se ad eos iturum cum omnibus quæ habebat: sed hoc non latuit Isen regem, qui missis apparitoribus fecit eum sibi presentari, & visis epistolis quas receperat à Zuleman, iussit eum decapitari, & caput eius undique circumferri, ut qui in proditionis armario proditionis iacula occultaret, eius iudicium fieret omnibus manifestum. Cum autem barbari



Barbari terram cultoribus denudassent aqua penuria intrinsecos, & extrinsecos op-  
primebat, unde & Barbari, relicta Corduba, Hispalim adierunt, & vias omnes va-  
cuas viatoribus, & incolis inuenerunt: & intrantes loca arborum, quod Axaraf di-  
citur, apud eos, vastationes, & incendia exercebant: demum Hispalim obsederunt.  
Tunc Rex Isen misit Zabor iustitiarium, qui apud eos dicitur, *الوزير* Alguazilus,  
& quendam alium Hambar nomine, cum bellatoribus quos potuit congregare, ut si-  
nes Hispalis tuerentur. Et tunc Rex cum Barbaris, in aduentu istorum, relicta Hispa-  
li, in partes alias migrauerunt, & Calatrauam impetu inuadentes ibi victualia in-  
uenerunt, & inde cadibus & incurfibus, & rapinis loca adiacentia infestabant.

*Axaraf**Zabor**Calatraua*

## CAPVT XXXIX.

Quod Zuleman Cordubam acquisiuit, & de fuga  
Isen in Africam.

POST hac Zuleman vocauit Mundir, qui praerat Caesar Augusta, & alium  
qui praerat Medina Alfaragel, quae nunc dicitur Guadal-fasara, & Bar-  
bari quos poterant undique inuitabant, ut Zuleman fierent in succursum, & ta-  
li pacto ad Zuleman omnes concorditer conuenerunt, ut ciuibus habita remanerent:  
& simul venientes contra Cordubam properarunt, & castrametati sunt intra Aza-  
fra, & Cordubam obsederunt, & ciues monuit, ut ei traderent ciuitatem, qui acquies-  
cere noluerunt: & ipsi urbem undique impugnarunt. Barbari autem fossata humo  
& lapidibus complanabant, & ibi ex utraque parte plurimi ceciderunt, & tamen  
nihilominus implerunt. Et sic partem urbis quae Xarquia dicitur, inuaserunt, sed  
etiam ciues protinus erumpentes, Barbaros repulerunt, & ex eis plurimos occide-  
runt. Et iterum ex alijs partibus impugnantes, quodam homine à porta secunda ia-  
nuam proditonaliter referante, ingressi sunt Barbari ciuitatem, & omnes stationes  
vendentium, & domos plurimas combusserunt, & sine numero occiderunt, & pre-  
tiosa quaelibet rapuerunt, & qui gladium euaserunt, se in Xarquia post gladium re-  
ceperunt, & per triduum infestati demum Zuleman dominio se dederunt. Tunc ob-  
tenta undique ciuitate, Zuleman presidium est adeptus, barbari autem domos ur-  
bis ad libitum diuiserunt. Ciues autem Isen extra Cordubam deducentes abire li-  
bere permisissent, & ille fugiens in Africam transfretauit.

*Zaragoza**الشرقية**Secunda*

## CAPVT XL.

## De regno Zuleman, &amp; dissidijs intestinis.

ZULEMAN autem regno potitus, sedit Cordubae thronum suum, & regna-  
uit hac vice annis tribus, & mensibus tribus, & mansit Cordubae in delicijs,  
& honore, usque ad diem interfectionis. Cordubenses autem in miseria, pe-  
nuria & arumna. Barbari à Zuleman concorditer postularunt, ut daret eis villas &  
oppida, quae hereditate perpetua possiderent: & cum essent sex cognationes quas ipsi  
*القبيلة* Alcauelas dicunt, dedit unicuique certa loca perpetuo possidenda. Eunuchi  
autem qui Isen consueuerant adherere, dolebant quia Zuleman prospera succede-  
bant, & ideo unusquisque ubi potuit rebellauit: erat autem potentior inter eos qui-  
dam qui Hayran Alhemari dicebatur, & hic fugerat à facie Zuleman, quando  
Cordubam

*35 Zule-  
man,**secundo*

Cordubam occuparat, & dum fugeret fuit à barbaris grauer vulneratus, & pro mortuo derelictus, sed quidam ciuis eum in domo sua clanculo occultauit, donec plenam obtinuit sanitatem. Alij autem Eunuchi qui euaserant obtinuerunt Oriolam quam venienti Hayran illico tradiderunt, & inde cœpit loca Zulema, prout poterat, infestare, & congregati sunt ad eum plurimi bellatores, cum quibus à barbaris plurima obtinebat, & venit ad eum quidam ab Almaria, qui Abenhamit dicebatur, & se ei reddidit in vasallum, cum magna multitudine pugnatorum: erat enim quidam Afla nomine, qui contra Abenhamit rebellabat, in presidio Almaria, Venerunt itaque Albayran, & Abenhamit pariter Almariam, & Hayran obtinuit ciuitatem, viginti autem diebus cum machinis presidium impugnantem, quamuis fortissimum, expugnarunt, & Afla cum filijs suis in maris voragine proiecerunt: & felicitate huiusmodi procedente, expulit Hayran Barbaros à Giernio, Beatica, & Arxona. Hayran autem diligebat Isen, & quicquid acquirerebat, eius nomine acquirerebat, & pro eo orationem quæ pro regibus solet fieri, faciebat, & intendebat eum à Zuleman iniurijs vindicare. Illi autem qui ab Isen receperant villas, & ciuitates Hayran pro viribus adiuuabant.

## CAPVT XLI.

## De regno Aly, &amp; morte Zuleman.

**E**RAT quidam dictus Aly Abenhamit apud Septam, quem Isen præposuerat ciuitatis: & huic Hayran, nuntiauit ut Malacham adueniret, & ut ibi Rex fieret, procuraret: qui veniens Malacham, bene receptus, continuo Rex est factus. Hayran autem Granatenses & Murcienses, & villarum incolas aliarum, ut venirent, & Aly Abenhamit regi Malachæ obedirent nuntiauit: Aly ut venirent, quasi de negotijs tractaturi: qui & venit, & consilio habito discesserunt. Congregati sunt subditi & fautores, ut contra Cordubam dimicarent, & Hayran conuenit cum consilijs Murcia & Granata, ut statuto die omnes concorditer conuenirent: & Haly ex Malacha, Hayran ex Almaria, Gidfeia ex Granata, & concilia ex Murcia, & locis alijs in campestribus Cordubæ conuenerunt: & egressi sunt ad eos Zuleman cum Barbaris, & ceteri incola ciuitatis, & compestri pralio inchoato victi sunt Cordubenses, & captum Alguazilum Adub nomine decollarunt, & de Barbaris plurimos occiderunt. Zuleman autem cum Patre & fratre, Aly regis conspectui præsentarunt: Alguazilus suus, qui proditionaliter eum ceperat, duxit eum. Rex autem Aly improperans ei proditionis culpam, eum cum Patre, & Fratre, manu propria interfecit. Erat tamen Pater Zulema homo innocens benignus, & eius anima non venerat in consilium filiorum, & ideo dicitur perditus sine culpa: Haly autem timebat, si Isen viueret regno priuari, & ideo Zuleman qui sciebant, Isen viuere, dicere formidabant.





## CAPVT XLII.

## De rebellione Hayran, &amp; Morte Aly.

**H**is igitur ita factis vocauit ad se omnes, & eos qui Zuleman adhaeserant dum viuebat, & hi & alij ei obedierunt, & sic habuit totum regnum. Hayran autem verens ne Aly vellet in eum aliquid machinari, reuersus est Almariam, & Ecigam, & Granatam. Post modicum autem, quia Aly non seruauerat pacta quadam, Hayran indignatus scripsit Mundir filio Hyahye domino Casaraugusta, ut ambo contra Cordubam aduenirent & Aly à regni solio remouerent: & apud Accium, quae nunc Guadix dicitur, conuenerunt, & inde Cordubam adierunt. Barbari autem in occursum eorum Cordubam exierunt, sed in praelio ceciderunt, & plures ex suis gladio perierunt. Sed dissensione inter Hayran & Mundir filium Hyahye accidente, ab inuicem discesserunt: Hayran autem quaesuit si in genere Abenhumeye dignus regno posset quispiam reperiri, & inuenit quendam qui Abderramen Almortada dicebatur, cuius mansio erat Gienni; hic bonus, patiens, & quietus ab omnibus amabatur: hunc Hayran cogitauit ad regni fastigium sublimare. Quod cum ad Aly notitiam peruenisset, de castro in castrum, de loco in locum Hayran sequebatur, mala irrogans sibi & suis: Hayran ut Abderramen praesiceret laborabat, & Hayran dum esset Giennij nuntiatum est, quod Silfeia de quo supra fecimus mentionem, iuerat contra castra, quae Hayran detinebat, & continuo Hayran insequens procedentem fecit transitum per Guadix, & Silfeia cum suo exercitu obuiuit, & pugna commissa, Hayran exercitus fuit victus, & multi ex eis temulenta ignauia perierunt. Cumque de Hayran quid acciderat, nesciretur, & Almaria ciuitas turbaretur, significauit eis se esse in Canilibus Castronasta, & domum in qua latuerat nominauit. Tunc illi eum instantissime vocauerunt, & illis diebus quatuor Hayran fautoribus, in conflictibus male cessit: quod Aly factus hilarior cum audisset, falces & alia vastationis vasa, fieri praecipiens iuit Giennium, anno Arabum quadringentesimo octauo; & cum iam vexilla, & tubae, & ceteri apparatus exissent extra urbem, ipse intrauit balneum, quod in praesidio habebatur, & intrarunt cum eo aliqui Eunuchi, qui eum in balneo occiderunt, & continuo recesserunt.

Hayran

Zaragoza

Guadix

Almortada

Silfeia

Caniles

468

→

## CAPVT XLIII.

## De regno Alcazim.

**C**VMQUE exercitus foris expectans morae dispendium causaretur, aliqui ad praesidium redierunt, & cum eum quaerent, in balneo mortuum inuenerunt, capite conquassato. Tunc Concilium ciuitatis praesidium obseruarunt, donec veniret Germanus eius Alcazim nomine, qui Hispali morabatur, quem in regem illico eleuarunt: de interfectoibus Eunuchis non nisi duos pueros inuenerunt, quos protinus occiderunt. Regnavit autem Alcazim prima vice annis tribus, mensibus quatuor, diebus viginti sex. Hayran autem semper instabat, ut Almortada promoueret, & misit nuntium Mundir principi Casaraugusta, & misit Citanam, Valentiam, & Dertusam ut venirent, & Abderramen Almortada obedirent, qui

القاسم

35 Alcazim.

الرجز

Citancam Zaragoza

qui

qui communiter concesserunt: & venientes Giennium, in regem pariter promouerunt, vinientes autem occiderunt quotquot de Barbaris inuenerunt: & Giennio proficiscentes Murciam adierunt, quam Rex statim acquisiuit, & introiuit. Videns quod sibi prospera succedebant, cepit Concilia ciuitatum diligere & fouere, & eos qui cum receperant honorare: ab Hayran autem, & Mundir oculos auertebat, nec ex corde recipiebat, nec ut consueuerat honorabat: & cum quadam die causa videndi ad eius palatium accessissent, fecit eis introitum denegari, & diu exterius expectare, qui merito indignati ad inuicem loquebantur, Merito patimur, quia tanto studio, ut Rex fieret, procurauimus: & ex tunc odium conceperunt. Rex autem Abderramen collecto exercitu iuit Granatam, & in monte, qui Secustar dicitur, fixit castra, qui distat sex leucis à Granata: & cum Granatam appropinquasset, inter viros exercitus dissensio fuit orta, & ut dicitur, Hayran & Mundir cum Granata domino hoc tractarunt, propter iniuriam sibi factam. Cumque Granatam Abderramen exercitus impugnaret, qui interius erant, extra congregari attentarunt, & quia dissensio exteriorum animos diuidebat, sibi fugam, aduersarijs victoria causam dedit, & fuit ibi Abderramen Mortada interfectus, & sic ingratitude pœnas luit: & Granatenses prædæ copia occupata, cum capitibus occisorum, Cazim regi Cordubæ pretiosa donaria transmiserunt. Et hac victoria Cazim recuperauit de his quæ perdidit, plures villas. Tunc Cazim Hispalim est profectus, & statim ibi in regem est eleuatus.

## CAPVT XLIV.

## De regno Hyahye.

38 Hyahye. 412 **C**ORDUBENSES autem nepotem Cazim Hyahye nomine in regem sublimarunt, anno Arabum quadringentesimo duodecimo: Hyahye autem blandiebatur omnibus, & se munificum ostendebat. Exinde autem iuit Malacam ubi fuerat dominus, & morator: & dum esset ibi, Cazim pernoctauit ad Hispalim, & Cordubam veniens in regem iterum est receptus, & secunda vice regnauit, mensibus 39 Cazim. 413 septem, diebus tribus, anno Arabum quadringentesimo decimo tertio. Verum quia Barbari à direptionibus, & rapinis & iniurijs quiescere ignorabāt, & stationes vendentium euertebant, ciues conqueri non cessabant, sed nec poterant tolerare: & quadam die dum ad orationem consisteret, in Mezquita, insonuit vox clamoris, & ciues muro, & turribus occupatis, cum Barbaris vsque ad noctem congregari non cessarunt: & cum eiues presidium inuasissent, Cazim fugiens, in urbis angulo cum Barbaris se recepit, ubi diebus aliquot restiterunt, donec ciues vniuersaliter concurrentes, & plus mori, quam viuere iam optantes, insultu acerrimo eos à loco fugij abegerunt, & eos obstinatis animis insequentes, pro magna parte cædunt, & interitu exstinxerunt. Cazim autem fugæ prodigus, filijs suis, qui erant Hispali, intimauit, ut prepararent Barbaris mille quingentas domos, de melioribus ciuitatis. Cumque Cazim Hispalim aduenisset, ciuitatis ei ianuas serauerunt, propter domos quas iusserat preparari: filij autem eius ad eum cum paucis complicibus exierunt: Cazim autem inde recedens, huc & illuc ferebatur incertus, donec cepit eum Hyahye filius Fratris sui, & in castro quod Anax dicitur compediuit. Viri autem Hispali rogauerunt quendam iudicem Mahomet filium Habeth ut urbi, & populo presideret, & ille licet inuitus, eorum paruit voluntati, timens ne forte urbi periculum immineret. Cordubenses autem fecerunt regem quendam, qui



Abderramendicebatur, Germanum Mahomet filij Abdeliaber, qui olim regnaue-  
 rat apud eos, & hic, quia erat de genere Abenhumey, & priori statui restitui-  
 cupiebant: sed quia ante eum in regem elegerant Zuleman Almortada, nec ta-  
 men res peruenerat ad effectum, in sua proditione Abderramen pepercit seniori-  
 bus, qui consenserant in Zulemans sed securitatis prestita post oblitus, seniores ce-  
 pit, & carceri mancipauit. Et cum ciues factum huiusmodi percepissent, carcerem  
 & ianuas effractis ostijs eduxerunt, & inde ad presidium ascenderunt  
 & ianuas confregerunt, ducentes secum quendam, qui dicebatur Mahomet, & pra-  
 sidium perscrutantes, inuenerunt Abderramen in furno balnei latitantem, reper-  
 tum continuo occiderunt, & in quadam domo suburbij sepelierunt, & hic tantum  
 vno mense, & diebus septemdecim regnavit.

41 Abder-  
 ramen.

C A P V T X L V.

De regno Mahomet, & Hyahye, & eorum dissidjs,  
 & de Idriz.

**H** Oc extincto regnavit Mahomet vno anno mensibus quatuor, diebus vi-  
 ginti duobus, anno Arabum quadringentesimo decimoquarto, & cum  
 regni confinia peragraret, fama insonuit apud suos, quod pecunias, & mar-  
 garitas, & pretiosos lapides secum ferret, & ut hoc auferrent mortis poculo domi-  
 num occiderunt. Et cum mortem eius Cordubenses audiuisent, Hyahye Aly filium  
 regi mortuo subrogarunt, & regnavit Hyahye mensibus tribus, diebus viginti, &  
 iuit Malacam, ubi quondam fuerat commorator: viri Malaca se protinus ei reddi-  
 derunt. Abuz autem Granata dominus Hyram, & Muzeit de suorum maioribus  
 Cordubam destinavit, & cum eorum aduentum viri Corduba praeuissent, de his  
 qui in vrbe remanserant, vsque ad mille Barbaros occiderunt, & venientes prin-  
 cipes admiserunt, & Alguazilus, & scriptor, & familia Hyahye prorsus Malacam  
 confugerunt, & breui termino vix incepto, Hizmael filius Habeth Hyahyam inter-  
 fecit, & caput eius Isem, qui erat Hispali, destinavit. Cum autem audisset Idriz fra-  
 ter Aly, de quo diximus, qui Septa dominabatur, fratris interitum, & regni mu-  
 tationem, Malacham cisfretauit, & obtento praesidio regem statuit se vocari: & ibi  
 venit ad eum Habriz, qui Granata dominabatur, & Idriz ut regi, & Principi  
 obediuit, & sumpta secum multitudine armatorum, iuit Carmonam, & inde Hispa-  
 lim, ut eos Idriz dominio inclinaret, & in Alcalá iuxta Hispalim resederunt, &  
 sequenti die Trianum, quae est quasi suburbium Hispalis, combusserunt, &  
 in castro praesidij viri Hispalis Chirographum obedientiae  
 conscripserunt, quo Idriz in dominum  
 receperunt: eodem modo se ei  
 subdidit Almaria.

42 Maho-  
 met.

43 Hyahya

44 Idriz.

Yusilla

Almaria



## CAPVT XLVI.

## De Schismatibus, &amp; diffidijs citra mare.

**N**VNC ad historiam Corduba reuertamur; Cum Iram, & Mogeit occisus Barbaris Cordubam intrauissent, zelus incidit inter eos, & uterque ab alio mortem metuens prauentiri, ambo Cordubam exierunt, & ab inuicem discesserunt. Cordubensis autem quidam, qui Isen dicebatur, non ille quem quondam, ad culmen regiminis eleuarunt, & regnauit Cordubæ annis duobus, diebus quatuor: in Frontaria autem annis duobus, mensibus septem, diebus octo. Cordubenses autem eum pro causa huiusmodi remouerunt. Habebat Alhagib qui plus domino potens erat, & hic erga ciues crudelissime se habebat, & cum esset vilis genere, uilitatem in potentia ostendebat, eo quod conditionis non immemor in omnibus excedebat, & cum nemine concordabat, & falsis accusationibus immeritos offendebat, & bona ciuium Barbaris erogabat; unde & ciues Alhagib occiderunt, & regem à regni solio expulerunt. Quidam autem Hymeya nomine, assumpto secum iuuenem comitatu, presidium est ingressus, & ut se regem facerent, postulabat, & dixerunt ei: uides quod ciuitas iam turbatur, & quod te interficient formidamus: at ille respondit, Mihi hodie obedite, & me in crastino interficite, Ecce quanta est ambitio dominandi. Ciues autem Isen, & isti sub interminatione periculi praeceperunt, ut presidium relinquentes se reciperent quocumque uellent, & ciues ad inuicem condixerunt, ut nemo de genere Abenhumeye Corduba remaneret; Isen autem ualedicens filijs & amicis, iuit ad quoddam castrum, quod in montanis Cordubæ erat situm: Cordubenses uero castrum post modicum temporis obsederunt, & Isen captum custodia tradiderunt: sed inde subiugali uehiculo noctu fugiens, Zuleman Abenbut regem Casaraugustæ in auxilium sui periculi praelegit, qui suscipiens liberaliter, & benigne, dedit ei castrum quod dicitur Alzuhela, in quo degit, quoad uixit.

45 Isen.

Daregna  
Zuern?

## CAPVT XLVII.

## De regno Almoravidum in Hispania, &amp; de morte Abenhabeth.

**E**T illis diebus non fuit Rex in Hispania de genere Abenhumeye, sed unusquisque in loco cui praeerat, rebellabat: Cordubenses autem cum regem alium non haberent, Monetæ, pannorum, & gramatum literas sub Isen nomine conscribebant, & hic finis regni Cordubæ; quia fere in singulis locis qui potuit dominium usurpauit, donec Monarcha Africa, qui erat ex Almoravidis omnia occupauit. Cordubæ insurrexit Alguazilus, nomine Iahuar filius Mahomet, post eum filius eius Mahomet: Hispali insurrexit iudex quidam qui Abulcazim dicebatur, & obiit anno Arabum quadringentesimo trigesimo tertio: post eum filius eius Habeth, & obiit anno Arabum quadringentesimo sexagesimo primo: post hunc filius eius Mahomet Abenhabeth, hic obtinuit Cordubam, & alia loca plurima, &

Confusio  
Regni Hi-  
spanici.

411 xii 11-12

ombra ou los monedas

Iahuar.  
Mahomet.  
Abulca-  
zim.  
433  
461  
Habeth.  
Mahomet.

E 3

satus



satis prospere rexit terram. Postea Almorauidi qui sunt ex Barbaris de Lutinia, huic dominium abstulerunt, cum in dominio durasset annis triginta tribus; & hoc fuit anno Arabum quadringentesimo octuagesimo quarto. Erat autem Rex Almorauidum Iuceph filius Tessephin, & hic prae dictum Mahomet tamdiu captum tenuit, donec in vinculis vitam finiuit. Hic Mahomet Abenhabeth Aldefonfi regis, qui Toletum ceperat, anno Arabum quadringentesimo septuagesimo septimo, timore turbatus, contra eum Iuceph Abentessin in auxilium vocauit, sed veniens ipsum primitus captiuauit, deinde in campo Zalla que prope Badalloz cum Aldefonso rege acriter dimicauit: quod praelium hic omittimus, quia in historia Gothica est descriptum.

Almorauides, Hispaniam occupant. Iuceph Primus Almorauidum in Hisp. Rex. *484*

*484*

*472*

CAPVT XLVIII.

De Monarchia Iuceph citra mare, & ultra mare.

**I**VCEPH autem Abentessin, adeptus victoriam, in Africam est reuersus, & quia intellexit Vandalos Arabes multis dissensionibus minoratos, assumpta maiori multitudine cufretauit, & totam terram Vandalia occupauit, & fuit Monarcha ultramarinus, & cismarinus, & durauit sibi huiusmodi Monarchia annus quinquaginta quinque, ab anno Arabum quadringentesimo octuagesimo quarto, vsque ad quingentesimum trigessimum nonum annum, quando per Almorhades dominium perdiderunt, vt superius in historia Gothica est expressum. Hic rex Iuceph terram, & populos custodiuit, & omnibus iustitiam conseruabat, & eos qui in particularibus praesidijs rebellarunt, tamdiu infestauit, donec suo dominio subiugauit. Hyahye autem dictus Alcadirville postquam Toletum perdiderat, iuit Valentiam, qua ad suum dominum pertinebat, & annis octo vixit ibidem, & interfecit eum iudex quidam, qui Abeiaphat dicebatur. Postea cepit eam Rodericus Didaci campiator, & eo mortuo eam Almorauides occuparunt: Caesar Augustus autem insurrexit Mundir filius Hyahye, & post eum filius eius Hyahya Almundafar: demum tota terra illa contermina Christianis, se reddidit Zuleman filio Hamat qui Abenbut dicebatur. Hic Zuleman fuerat Alcaydus Mundir filius Hyahye, de quo diximus. Post Zuleman filius eius Hamat successit: post eum filius eius Iuceph: post eum filius eius Hamat cognomine Almuztaim: post eum filius eius Abdelmelic: post eum filius eius Hamat, cognomine Almutazit; hic amisit Caesar Augustam, & consinia que habebat, & Almorauides omnia occuparunt, & in locis alijs alij rebellarunt, quos omnes Almorauides subiecerunt. Insurrexit Murcia quidam Abderramen Abentaxet, & tenuit eam donec venientes Almorauides eiecerunt: Insurrexit Almaria Mohez Abdalla: quatuordecim annorum erat cum insurrexit, & totam terram perdidit, prater Almariam, sed & eum Almorauides obsederunt: & insurrexit Granate Abdalla, sed eam post modicum temporis Almorauides occuparunt, & ita dicitur quod eam ultimo acquiserunt.

*الملك*

*484*

*539*

*الملك*

*2000000*

*الملك*

*الملك*

*no es verda d*

*Almaria*

Post hoc Iuceph Abentessin reuersus est in Maroquos, quam Barbari Almorauides in urbem regiam dilatauerant, & ibi statuerant caput regni. Isto mortuo Aly filius eius successit in regno, & fuit inuentus debilis & ignauus, nec regni consinia defendebat: post eum regnauit filius eius Tessephin, vilis animo, &


<sup>2</sup> Aly

<sup>3</sup> & vltimus Tessephin.

virtute,

virtute, & plus iniurijs quam defensione Patriæ insistebat, & quia viderunt à  
 regalibus actibus alienum, in eum ubilibet surgebant, & ubique, & quilibet re-  
 bellabant, & guerris indefinentibus infestabant, & fere perdidit totum regnum,  
 539 & hoc fuit anno Arabum quingentesimo trigesimo nono: & regnum Vandalie quin-  
 quaginta tribus annis possederant citra mare. Erat autem inter Vandalos cisma-  
 rinos vir prudentia præditus, liberalis, strenuus, & benignus, qui Mahomet  
 Abenzahat, & Rex lupus postea fuit dictus: hic obtinuit regnum Valentia, &  
 Murcia, & quæ ad ea consinia pertinebant. Lorcam, Vastam, & Guadix & loca  
 plurima, circa ista. Christiani etiam plurima, occupabant, donec venientes  
 Almoades ab Africa, & Vandalia, Almorauides extirparunt.  
 Sed quia de Aduentu eorum in historia Gothica  
 fuimus prosecuti, hic nolumus  
 iterare.

F I N I S.


























El Inrac  
ni

Historia  
Saracenicæ  
Arabice &  
Latine.

BAP FA  
026

